


مولانا شبیلی نعمانیؒ بحیثیت سیرت زگار

www.KitaboSunnat.com



ڈاکٹر ظفر احمد صدیقی

*** توجہ فرمائیں ! ***

کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹر انک کتب.....

عامتقاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق، الاسلامیہ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ

لود (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔

متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

دعویٰ مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندرجات کی نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

*** تنبیہ ***

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر
تبیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابط فرمائیں

ٹیک کتاب و سنت ڈاٹ کام



مولانا شبیل نعمانی بحیثیت سیرت نگار

ظفر احمد صدیقی

شعبدار دہلی گڑھ مسلم پوندری، دہلی گڑھ

www.KitaboSunnat.com

باقر

ائشی محدث آف سیرت اسلامیہ

احبیت ک لیا ہوئے

کلام النولان

الحمدلله رب العالمین، غرفی سریت، اردو بازار، لاہور

ب ل - ط

۲۰۰۵ء

كتاب:	مولانا شبلي نعماني بحثييت سيرت نگار
مصنف:	ظفر احمد صدقي
اهتمام:	دارالعلوم
طبع:	قدسيہ اسلامک پرنسپ، لاہور
قیمت:	۱۹۰ روپے

www.KitaboSunnat.com

ڈرامي پروز

نشاہ

فضلى بخارى پر ماگری

اردو بازار، نذری یوپا کستان، کراچی۔

فون: 2212991-2629724

كتاب

پڑھنے والے اور ڈرامي پروز، مختصر کتب خانہ، جات



مکتبہ الرحمان

مکتبہ الرحمان، اسلام آباد، گلگت بلتستان، فخری شریعت
7320318
hikmat100@hotmail.com

99 .. بے ماذل ناؤن۔ لاہور
15790

محکم دلائیں و برائیں سے مذین فتوح و مفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

گماں مجرکہ بہ پایاں رسید کار مغاں
ہزار بادہ ناخور دہ در رگ تاک است

انساب

جامعہ اسلامیہ، بنارس

کے نام

www.KitaboSunnat.com

وَمَنْ مُذَهِّبٌ حَبَ الدِّيَارَ لِأَهْلِهَا
وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبَ

فہرست

www.KitaboSunnat.com

۸	از مرتب	یہ کتاب
۱۳	مولانا نعیت اللہ عظیمی	ابتدائیہ
۱۶	مولانا بہان الدین سنجھی	ثارات
۱۹	شیخ الرحمن فاروقی	چند باتیں
۲۲	علام شبلی نعیانی	سرنامہ
۲۵	خاصوصیات و امتیازات	باب اول :
۲۶	موزرا سلوب بیان	
۳۷	موزر خانہ شعور آگبی	
۴۳	سلیقہ تحریر و تصنیف	
۴۶	مستشرقین کا رد و ابطال	
۴۹	علمائی طرز تخطیب	
۵۱	مواد مشتملات	باب دوم :
۱۰۲	تجزیہ و تبصرہ	
۱۱۳	چند وضاحتیں	
۱۱۷	احادیث صحیحہ پر روایات سیرت کو ترجیح	باب سوم :
۱۱۸	ایمان ابوطالب	

۱۲۳	غزوہ بن مصطفیٰ
۱۲۶	حضرت جویریہ کا واقعہ
۱۲۷	باب چہارم : حدیث کے بجائے سیرت کی کتابوں پر اعتماد
۱۲۸	قتل کعبہ بن اشرفت
۱۲۹	حضرت سعد بن معاذ کا واقعہ
۱۳۰	بیدار اور خبر کی عادلانہ تقسیم
۱۳۱	قتل ابی رافع
۱۳۲	غزوہ مودت
۱۳۳	غزوہ حنین
۱۳۴	باب پنجم : روایات صحیحہ پر تنقید
۱۳۵	حدیث بداؤالوقی
۱۳۶	کنانہ اور اس کے بھائی کا واقعہ
۱۳۷	ابوداؤد کی ایک روایت
۱۳۸	باب ششم : تضادات
۱۳۹	مراہل صحابہ
۱۴۰	اجمال و تفصیل
۱۴۱	غزوہ بدر
۱۴۲	باب هفتم : تفردات اور ضعف استدلال
۱۴۳	قرآنی کی حقیقت
۱۴۴	غزوہ بدر
۱۴۵	حرم نبوی میں کثیریں
۲۰۳	

۲۰۸

باب هشتم : متفرقات

۲۲۳

خاتمه کلام

۲۲۹

ضمیمه (۱) استدراکات

۲۵۷

ضمیمه (۲) تتمہ استدراکات

۲۶۶

مأخذ و مراجع

www.KitaboSunnat.com

۲۸۲

اشاریہ

۲۸۳

أشخاص

۲۹۷

كتابیں

۳۰۲

غزوات اور سرایا

۳۰۳

آیات

۳۰۴

احادیث

۳۰۵

اشعار

یہ کتاب

علامہ شبیل نہانی کا شمار بیسوی صدی کی مائیہ تاز شخصیات میں کیا جاتا ہے۔ قدیم و جدید کے امتزاج اور گونا گوں اوصاف و مالات کی جامعیت کے لحاظ سے وہ یگانہ روزگار تھے۔ علم اور ادب کے مختلف میدانوں میں ان کی خدمات ہمیشہ یادگار رہیں گی۔

یہ میری خوش نسبی تھی کے مجھے علامہ شبیل کی علمی و ادبی خدمات کے موضوع پر پی اچ۔ ڈی کا مقالہ تیار کرنے کا موقع ملا۔ میں نے مقالے کا ایک باب "سیرۃ النبی" کے تحقیقی و تقدیمی جائزہ سے متعلق بھی رکھا تھا۔ اس باب میں اس مهر کہ آر اکتاب کے محاسن اور خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کی کیوں اور فرو گذاشتلوں کی نشاندہی بھی کی تھی۔ کچھ عرصہ بعد میں نے یہ مقالہ اتر پردیش اردو اکادمی کو بفرض اشاعت بھیجا۔ اکادمی نے رائے لینے کے لیے اسے دارالمصطفیٰ عظیم گڑھ بھیج دیا۔ اس زمانے میں سید صباح الدین عبدالرحمن، ناظم دارالمصطفیٰ تھے۔ علامہ شبیل کے سلسلے میں ان کے بعض ذاتی تحفظات تھے۔ مثلاً یہ کہ کسی بھی موضوع پر علامہ موصوف کا لکھا ہوا ہر حرف، حرف آخر ہے۔ یا یہ کہ ان کی سیرت و شخصیت اور کارناموں پر کسی قسم کی کوئی تقدیم نہ روا اور نہ رزا ہے۔

نتیجہ ظاہر تھا کہ انھیں میر امقالہ عموماً اور سیرۃ النبی سے متعلق باب خصوصاً ساخت گراں گذرا۔ انھوں نے مقالے سے متعلق اپنی منفی رپورٹ تو اکادمی کو پہنچی ہی، ساتھ ہی اپنے دفتر کے ایک لکارک ایم۔ ایم۔ زیری کے نام سے روز نامہ قوی آوارکھنڈ (ہفت دار ضمیر، ۱۹۸۵ء) میں اس مقالے کے خلاف ایک مطبوع بھی شائع کرایا۔ سب سے زیادہ انھیں اس بات کی شکایت تھی کہ مقالہ نہار نے شبیل کی سیرۃ النبی پر تقدیم کی جرأت و جسارت کیونکر کی؟

اس کے بعد ہی سے میرا ارادہ تھا کہ میں سیرۃ النبی سے متعلق بوقت فرست ایک مفصل مضمون ترتیب دوں گا، جس میں اپنے دعوے کے دلائل کفرت، تو اتر اور تسلیل کے ساتھ پیش کروں گا۔ تاکہ اس کتاب سے متعلق میں نے جو کچھ لکھا ہے، وہ محض دعویٰ نہ رہے، بلکہ اس کے پس پشت دلائل کی طاقت و قوت بھی صاف دکھائی دے۔

یہ ارادہ محض ارادہ ہی رہتا اگر میرے بزرگ دوست اور کرم فرما مولانا نظام الدین اسیز اور وی (استاذ جامعہ اسلامیہ، بنارس و مدیر "محلہ ترجمان الاسلام" بنارس) کی شخصیت درمیان میں نہ ہوتی۔ وہ مجھے برابر لکھارتے اور غیرت دلاتے رہے کہ میاں! اگر تم اپنے دعوے میں چیز ہو تو اس کی تائید میں دلائل و براہین کیوں نہیں پیش کرتے؟ انہوں نے حوصلہ لایا کہ اگر گنگو

عالما نہ باقاعدہ اور خبیر ہو تو "ترجمان الاسلام" کے صحافت اس کی اشاعت کے لیے حاضر ہیں۔

میں نے بکھری ہوئی قوت کو مجتمع کیا، علاقئ و موانع سے یکسوئی حاصل کی اور ہستہن اس کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پوری کتاب بالاستیعاب اور بار بار پڑھی۔ یادداشتیں تیار کیں۔

کتاب کے حوالوں کا اشارہ بنا یا۔ اصل سے ان کی مراجعت کی۔ اس ہفت خواں کے طے کرنے میں دانتوں پسند آگیا۔ اندازہ تھا کہ یہ تمام مباحثہ ترجمان الاسلام کے دو تین شماروں میں آجائیں گے، لیکن جب انھیں ترتیب دینے بیخاتوبات بڑھتی اور پھیلتی ہی گئی، تا آنکہ گفتگو سات قسطوں (شمارہ ۲۴ اور ۲۵) میں پائیے تکمیل کو پہنچی۔ اس طرح مضمون نے کتاب کی

شکل اختیار کر لی www.KitaboSunnat.com

لکھتے رہے، لکھے گئے و فرن

شوق نے بات کیا بڑھائی ہے (میر)

جیسا کہ اندازہ بلکہ اندازہ تھا، ابھی مضمون کی دو تین قطیں ہی شائع ہوئی تھیں کہ ارباب دارالصنفین نے حسب معمول اس کا برآمدنا۔ ماہ نامہ "معارف" عظیم گڑھ (نومبر ۱۹۹۵ء) کے شذرات میں اس کے خلاف سخت رو عمل کا اظہار کیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ سیرۃ النبی کے وقار ع میں پے در پے کئی مقاالت لکھے اور لکھوائے گئے۔ پھر معارف اور بعض دیگر رسالوں میں ان کی اشاعت بھی عمل میں آئی۔

میں نے اسی زمانے میں یہ تمام تحریریں اس خیال سے پڑھیں کہ اگر اپنی کوئی واقعی غلطی سامنے آجائے تو اس کی اصلاح کروں۔ لیکن نہایت افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ ان میں عالمانہ متانت کے بجائے سستی اور غلطی جذباتیت کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ دارالucusفین چیزیں نیک نام اور وقیع علمی و تصنیفی اوارے کے رفتار سے اس کی توقع نہ تھی۔

کبود پوشم و قرطاس ہیدہن سازم

گھبے ہے ماتم دانش، گھبے ہے حسرت داد (غالب)

اس سلسلہ مضمون کی اشاعت کامل ہو جانے کے بعد دارالucusفین کے رد عمل کو سامنے رکھتے ہوئے، مدیر ترجمان الاسلام نے ملک کے سرکردہ علماء اور اہل قلم کو اس پر اظہار خیال اور تبصرہ و تقدیم کی دعوت دی، تاکہ اس کی صحیح حیثیت سامنے آسکے اور اس کی خامیوں کا بھی علم ہو سکے۔

یہ ناجیز کی خوش قسمی تھی کہ توقع سے زیادہ اہل علم نے اس سلسلہ مضمون کو کم و بیش پڑھا اور اس پر اپنی آرائی کیں۔ اس سے بھی زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ انہوں نے بعض غلطیوں کی نشاندہی بھی کی۔ یہ تمام تحریریں ترجمان الاسلام کے ایک مستقل شمارے (شماره ۲۶، اپریل تا جون ۱۹۹۶ء) میں شائع ہوئیں۔

گذشتہ چند مہینوں کے دوران بعض اتفاقات کے نتیجے میں مذکورہ سلسلہ مضمون کو کتابی شکل میں شائع کرنے کی کمیل پیدا ہوئی۔ میں نے اس موقع کو نہیں جانا اور تعطیلات اگر ماں کافائدہ اٹھاتے ہوئے پوری کتاب پر عموماً اور اس کے باب دوہم پر خصوصاً نظر ثانی کی۔ چنانچہ اس میں بطور خاص ترمیمات اور حذف و اضافے کیے۔ نیز تقریباً تمام جوابوں کی ازسرنو مرادجت کی۔ جن انفارطی کتاب اہل علم نے توجہ دی تھی، حق الامکان انہیں دو رہیا۔ اشاعت اول کے وقت بعض عبارتیں ناقص رہ گئی تھیں، انھیں بھی درست کر دیا۔ اہل علم حضرات کی بعض غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے باب دوہم کے آخر میں ”چند وضاحتیں“ کے عنوان سے ایک تحریر شامل کی، تاکہ اس کی روشنی میں اس باب کو پڑھا اور پھر تقدیم و تجزیے کے عمل سے گزارا جائے۔ جن اہل علم حضرات نے اس کتاب اور اس کے مختلف مباحث پر اظہار خیال فرمائے

ناچیز کی عزت افزائی فرمائی، تہذیل سے ان سب کا شکر گزار ہوں۔ لیکن یہ مناسب نہ تھا کہ اس سلسلے کی تمام تحریروں کو اس کتاب کا جزو بنادیا جائے، اس لیے انتخاب کے اصولوں پر عمل کیا گیا۔ مولا ناصرت اللہ عظیٰ صاحب مدظلہ العالی (استاذ حدیث دارالعلوم ویوبند) کی تحریر دیجایے کتاب کے انداز میں لکھی گئی تھی۔ اس لیے اسے ”ابتدائی“ کے عنوان سے شامل کتاب کر لیا گیا۔ مولا ناصرہن الدین سنجھی صاحب مدظلہ العالی (شیخ التفسیر دارالعلوم ندوۃ العلماء) سے اس ناچیز کو شرف تلمذ حاصل ہے۔ ان کی تحریر مفید معلومات پر مشتمل تھی، ”تاثرات“ کے عنوان کے تحت اسے ابتدائی کے بعد جگہ دی گئی۔ جناب شمس الرحمن فاروقی اردو کے مشہور ناقد اور اہل قلم ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریر مدیر تربیت جان الاسلام کے نام مزاٹے کے انداز میں رقم کی تھی، کسی تہذیلی کے بغیر ”چد باتیں“ کے عنوان سے اسے تیرے غیر پر رکھا گیا ہے۔

مولانا سنجھی اور جناب فاروقی دونوں نے ارباب دارالمحضفین کے غیر علمی روڈ عمل پر عالمانہ روڈ عمل کا اظہار کیا ہے۔ ان تحریروں کو بطور خاص اسی سیاق و سبق میں پڑھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔

استاذ گرامی مولا ناصرہن الدین سنجھی صاحب، مولا نازین العابدین عظیٰ (صدر شعبہ تحصص فی الحدیث، مظاہر علوم سہار پور) اور مولا ناصر عالم قاسمی (ناظم سنی دینیات، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ) اور بعض دیگر اہل علم حضرات نے اپنے گران قدر استدراکات سے اس ناچیز اور اس کی کتاب کو نوازا تھا (جزاهم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء) ان تمام استدراکات اور ان سے متعلق گفتگو کو ضمیرہ (۱) میں جمع کر دیا گیا ہے۔ مولا ناجیب الغفار صاحب (شیخ الحدیث جامع مظہر العلوم، بیارس) نے اپنی طویل تحریر میں بعض اہم مباحث سے متعلق بہت عمدہ اور دقیق اقتباسات درج کیے تھے، مناسب ترتیب و تہذیب کے ساتھ ضمیرہ (۲) میں مولا ناصوف کا یہ مضمون بھجوں نقل کر دیا گیا ہے، تاکہ قارئین اس سے مستفید ہوں، نیز کتاب کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو۔

شیخ عبدالغافر جرجانی نے دلائل الاعجاز میں لکھا ہے کہ مخاطب اگر خالی الذہن ہوتا کام میں کسی حرف تاکید کی ضرورت نہیں اور اگر وہ شک و شبہ میں بجا ہو تو تاکید کا لانا ضروری

ہے اور اگر وہ مکمل ہو تو اس کے انکار و عناد کے بقدر منکرات میں اضافہ کرتے جانا لازم ہے۔

اس کتاب کو بھی اسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اگر سیرۃ النبی کو عربی، فارسی اور اردو کی تمام کتب سیرۃ کے درمیان میں الاطلاق سب سے زیادہ جامع اصول مات اور محققات کتاب سیرۃ کہہ کر پیش نہ کیا گیا ہوتا اور اس پر متوازن تقدیم و تبریز کے نتیجے میں شدید اور غیر متوازن رو عمل کا مظاہرہ نہ کیا جاتا تو اس کی خامیوں اور فروگذاشتوں کو اس تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی۔

جہاں تک علامہ شبلی کی شخصیت کا تعلق ہے، تو وہ راقم کی نگاہ میں پہلے بھی محبوب و محترم تھی اور اب بھی محبوب و محترم ہے۔ ان کی علمی و ادبی فتوحات و اکتسابات کے سامنے پہلے بھی سر نیاز ختم تھا اور اب تم ہے۔ ان کی نشری رعنائی و کلکشی پہلے بھی دامن دل کو اپنی جانب کھینچتی تھی اور اب بھی کھینچتی ہے۔ لیکن اس محبت و عقیدت پر حق گوئی کو قربان نہیں کیا جاسکتا۔ فہاں الحق أَحَقُّ أَنْ يَتَبعَ وَيَقَالُ۔

جامعہ اسلامیہ، بیارس سے میرا بیبا و تعلق رابع صدی کے عرصے پر صحیط ہے۔ بیاراں مجھے علوم عربیہ و اسلامیہ کے درس و تدریس کے موقع بھی میرا آئے اور میں اس کے گراں قدر کتب خانے سے بھی برادر مستفید ہوتا رہا۔ اس کتاب کا پیشتر حصہ اسی کے دردیام کے درمیان پیش کر کرکھا گیا ہے۔ اب جب کہ میں گذشتہ ڈھانی سال سے بیارس کی سکونت ترک کر کے علی گڑھ میں مقیم ہوں، یہ محض حسن اتفاق تھا کہ اس پر نظر نافی کا کام بھی جامعہ کے کتب خانے ہی میں اختتام پذیر ہوا اور اب یہ ابتدائی سطور بھی یہیں پر قدیم کی چار ہی ہیں۔ اس لیے میں اپنی اس حقیر علمی کا دش کا انتساب اسی ادارے کے حام کرنا مناسب تصور کرتا ہوں، دست بہ دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آباد رکھے۔ اس کے پانچوں، تینوں اور ارباب تعلق میں جو مر جو میں ہیں انھیں جوار رحمت میں جگہ دے اور جو موجود ہیں انھیں ایمان اور عمل صالح کی دولت سے نوازے۔

وَيَرْحَمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَا

ظفر احمد صدیقی

جامعہ اسلامیہ، بیارس

۷۰ جولائی ۲۰۰۰ء

ابتدائیہ

مولانا نعمت اللہ عظیٰ استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند

الحمد لله وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ! اما بعد۔
علامہ شیلی نعمانی کی مایہ افتخار کتاب ”سیرۃ النبی“ پر مولانا ظفر احمد صدیقی کی مفصل
تغییدی کتاب، اسی صاحع تغیید کا ایک اچھا نمونہ ہے جس کے علامہ شیلی مرحوم قال اور وائی شے
عہد حاضر میں اس طرح کی تغییدوں کو احسان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ناگواری کا احسان
کرنے والوں کو تنگ نظری کا الزام دیا جاتا ہے۔

جہاں تک علامہ شیلی نعمانی کی شخصیت کا تعلق ہے تو اس میں عظمت کے کتنے ہی پہلو
ہیں۔ وہ تاریخ کے ان چند مردم ساز اساتذہ میں گذرے ہیں، جنہوں نے ذوق تحریکی کی حالت کی
ایک شسل پیدا کی اور اپنے بعد اہل قلم اور اہل علم کی ایک جماعت کو پھروڑا، ان کے نام پر تصنیف
و تالیف کا ایک بڑا ادارہ وجود میں آیا، خود ان کی تصانیف کو منفرد اسلوب بنگارش، معیار تحقیق، قوت
استدلال اور حلیقہ ترتیب کے اعتبار سے خصوصی مقام دیا گیا ہے۔ بلکہ سیرۃ النبی کو اپنے میوضوں
پر سب سے اچھا کارنامہ قرار دیا گیا ہے۔

مگر اسی کے ساتھ یہ بھی واقعہ ہے کہ جو شخصیات اس طرح کی خوبیوں اور کمالات کی
حال ہوتی ہیں، باستثنائے چند (وقلیل ملاهم) اپنے پارے میں اتنی خوش نبی میں جھٹا ہوتی
ہیں کہ دوسراے حضرات ان کی باتوں کو اڑ گاء یا تعلقی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

علامہ شیلی نعمانی مرحوم نے اپنی کتاب سیرۃ النبی کے پارے میں مقدمہ کتاب یا

مکتبات وغیرہ میں جن تاثرات کا انٹھا کر کیا ہے، وہ اسی کیفیت کے حامل ہیں۔ حالانکہ سیرۃ النبی کو مندرجہ بالا خصوصیات کے اعتبار سے اگرچہ بے نظیر تسلیم کیا گیا ہے لیکن جہاں تک کتاب کے جملہ مندرجات کے مستند ہونے کی بات ہے تو یہ چیز کتاب کی اشاعت کے روز اول ہی سے ارباب تحقیق علماء کے نزدیک محل نظر اور بحث طلب رہی ہے، ماضی میں مولانا محمد احتقن صاحب، علامہ شیخ احمد صاحب عثمانی، مولانا عبدالرؤف صاحب دامت پوری، مجاہد ملت مولانا حافظ الرحمن صاحب، مولانا محمد اور لیں صاحب کانڈھلوی اور کتنے ہی بالغ نظر علماء نے مختلف مقامات پر جستہ جستہ تقدیم کی ہیں، اور ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور ان سب کے خلاصہ کے طور پر کہا جاسکتا ہے کہ مصنف نے کتاب کے استناد کے لیے جن شرائط کے اہتمام کا دعویٰ کیا تھا وہ اس کو پورا نہ کر سکے۔

شرائط کو پورا نہ کر سکنے کی اصل وجہ تو کام کرنے والا ہی تھا کہ، تاہم مصنف کی جانب سے جو محدثت ہیں کی جاسکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس دور میں کتاب میں اتنی عام نہیں تھیں، یا بعض کتابیں مبایا بھی ہوئیں تو وہ قلمی تھیں، جن سے استفادہ دشوار ہوتا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ مشہور و اتفاقات کے نقل کرنے میں زیادہ تجسس و تحقیق کے بجائے، ہمیں الحصول اور تداول کتابوں کے حوالہ پر اکتفا کیا گیا ہو۔ امام مسلمؓ میں بلند پایہ محدث کے بارے میں اسی طرح کی بات منقول ہے کہ انہوں نے راویوں کے بارے جن سخت شرائط کی پاسداری کا ذکر کیا، ہر جگہ اس کو پورا نہ کر سکے۔ امام مسلمؓ سے اس کی وجہ معلوم کی گئی تو انہوں نے بیان کیا کہ بعض مشہور روایات کی نقل میں، علومند کی وجہ سے انہوں نے ایسے راویوں کو لے لیا جو کچھ محدثین کے نزدیک قابل اعتراض تھے، کیوں کہ یہ روایات اُنقدر راویوں سے اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کا کوئی غدر علامہ شیلی کے پیش نظر رہا ہو۔

دوسری محدثت مصنف کی جانب سے یہ پیش کی جاسکتی ہے کہ ان کے دور میں پورا عالم اسلام مستشرقین کے حملوں کی زد میں تھا۔ مستشرقین کے حملوں سے پیدا ہونے والے تاثرا کا ازالہ بھی مصنف کے پیش نظر ہے۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ علماء نے اس دور میں مستشرقین کے مقابلے پر صرف دفاعی کام کیا ہے۔ اقدام کی حیثیت کا کوئی علمی کام ہمارے علم میں نہیں، اور

دقائی کام کرنے والے بھی دو گروہ نظر آتے ہیں، ایک گروہ تو ان مستشرقین کے حملوں سے اتنا مرحوب تھا کہ اس نے مسلمات شرعیہ سے انکار، یا ان میں ریکٹ تاویل تک سے اعتناب نہیں کیا، اس گروہ کی مشہور شخصیت سرید احمد خاں تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو اس درجہ مرحوب تو نہیں تھا کہ مسلمات شرعیہ میں تاویل کے راستے تلاش کرے، لیکن وہ ایسی چیزوں کو نقل کرنے کا اہتمام کرتا تھا جس پر مستشرقین کا اعتراض کم سے کم ہو، مثل نعمانی مرحوم اسی دوسرے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اس پر یہ بات اور مستزاد ہے کہ خود ان کا انداز فکر، عقل کو نقل پر ترجیح دینے کا ہے، جس کی وجہ سے انہیں معزز لہ کے انداز فکر کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ خلاصہ کے طور پر یوں کہتا چاہیے کہ خود ان کا انداز فکر یہ ہے کہ عقل کو نقل پر ترجیح دی جائے۔ پھر یہ مجبوری کہ اسی نقل چاہیے جس پر مستشرقین اور مسلمان کیا جاسکے۔ ان مجبور یوں نے کتنی ہی جگہ مصنف کو پابند نہیں کر دیا اور وہ درجہ استناد میں اپنے دعوے سے نیچے آترنے پر مجبور ہو گئے۔

بہر حال وجہ کوئی بھی ہو، اور مصنف مرحوم کی جانب سے کتنی بھی معقول مذکورت پیش کر دی جائے ہو، مبین کہ سوں اپنی کتاب کی استنادی حیثیت کے لیے جن عنده شرائط کا اعلان کیا تھا، تکمیل ٹھوڑی دہانی و پوری رائے کر سکے۔

ولما ان الخنزير احمد صاحب صدیقی نے اپنی مفصل کتاب میں اسی پہلو پر سب سے زیادہ روز دیا ہے لیکن ان کی کتاب کی خاص خوبی یہ ہے کہ انھوں نے ہر جگہ مصنف مرحوم کی عقليت اور ان کے اعتراض کو سامنے رکھ کر عالماء گفتگو کی ہے، ممکن ہے کہ بعض مقامات پر ان کی رائے سے اتفاق نہ ہو، اور صالح تقدیم میں اس طرح کی گنجائش رہتی بھی چاہیے، تاہم انھوں نے اپنی بات کو دلائل کے ساتھ پیش کر کے موضوع کا حق ادا کر دیا ہے۔

تأثيرات

مولانا بہان الدین سنبلی شیخ الفقیر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

اس میں شک نہیں کہ علامہ شلبی کی "سیرۃ النبی" اپنی بعض خصوصیات کے لحاظ سے مثلاً اوپرانتہ طرز بیان، قوت استدلال اور سحر نگار قلم کی تراویش میں متاز ہے، لیکن اب کے منظر عام پر آنے کے بعد ہی نہیں، اس سے پہلے ہی اس کے بارے میں مختلف ذرائع سے ایسا مبالغہ آمیز انداز تشبیہ اغتیار کیا گیا، جس پر بعض کو پرو گنڈا کامان ہونے لگا تھا۔ کیوں کہ اسے دنیا کی بزرگ زبان میں لکھی جانے والی سیرت کی کتابوں، حتیٰ کہ عربی زبان میں لکھی کتابوں پر فائق کہا گیا۔

مشائی عبداللطیف عظیم صاحب نے لکھا تھا:

"..... اس عظیم الشان تالیف کی نظریت تو عربی زبان، باوجود اپنی قدامت اور باوجود اپنی اس خصوصیت کے کہ رسول اللہ ﷺ اور قرآن حکیم کی زبان ہے چیز کر سکتی ہے اور شہ فارسی یاد دنیا کی کوئی اور ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ زبان".....

اور خود مصنف (علامہ شلبی) نے سیرۃ اثنین میں تحریر فرمایا:

"خاص سیرت پر آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جس میں صرف صحیح روایتوں کا اتزام کیا جاتا۔ اس بنا پر ضروری تھا کہ نہایت کثرت سے حدیث و رجال کی کتابیں بہم پہنچائی جائیں اور پھر نہایت تحقیق اور تدقیق سے ایک مستند اصنیف تیار کی جائے"

یہ اور اس طرح کی دیگر عبارتوں اور پھر ان کی غیر معمولی تشبیر نے بر صغر کے عوام پر یہ تاثر عام کیا کہ اس سے زیادہ بہتر اور مستند کوئی کتاب سیرت نہیں ہے، جس کا یہ نتیجہ لکھنا بھی قدرتی تھا کہ ”حق ہے ان..... کافر مایا ہوا“ کا نظریہ پھیلا۔ عام طور پر اس فضا کے پیدا ہو جانے سے امت کے مصلحین نے اپنی ذمہ داری محسوس کی، بلکہ یہ کہنا شاید غلط نہ ہو کہ ان کا یہ فریضہ بتا کر اسے چنان پھٹک کر دیکھا جائے کہ کیا ”سیرۃ النبی“ واقعۃ اس معیار پر پوری ارتقی ہے، جس کا اس وقت کے ذرائع ابلاغ نے چھپا کیا ہے۔ چنانچہ اس تصنیف کے منظر عام پر آنے کے بعد سے ہی اس پر مختلف زادیوں سے نگاہ ڈالنے کا عمل بھی شروع ہو گیا۔ کتب خانوں کی فہرست کتب پر ایک نظر ڈالنے اور اس وقت کے جرائد و مجلات کے مطالعہ سے اس کا پتہ چل سکتا ہے (خود ندوہ العلماء کے کتب خانے۔ جو علامہ شبلی علی کے نام سے موسم ہے۔ میں بھی اس موضوع پر خاصاً تحریری مواد مطبوعہ شکل میں موجود ہے) اس صفحہ کے اندر یعنی سیرۃ النبی پر تقدیدی نگاہ ڈالنے والوں میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ، حضرت مولانا بشیر احمد عثمانیؒ اور مولانا محمد اوریؒ مصطفیٰ صاحب کاندھلویؒ جیسے اکابر و مصلحین بھی نظر آتے ہیں۔ (”بوا در النادر“ میں اس پر حضرت تھانویؒ کی ایک مفصل تحریر موجود ہے) اور امام اوصابری جیسے صحافی بھی اور خود علامہ شبلیؒ کے مایہ ناز شاگردوجانشین مولانا سید سلیمان ندویؒ نے بھی جا بجا نظر کیا ہے۔

راقم کا اندازہ ہے کہ اگر ”سیرۃ النبی“ کو اس بلند سطح کا حامل بتانے کا اتنا شور نہ کیا گیا ہوتا تو اس پر اتنے تقدید کرنے والے میدان میں نظر نہ آتے، بلکہ دیگر نیکروں، ہزاروں کتابوں کی طرح لوگ اسے بھی پڑھتے اور اس کا نام بھی سنتے اور گذر جاتے۔ لیکن مذکورہ بالا وجہہ و اسباب سے لوگوں کے کان کھڑے ہوئے پھر اس پر جس نے جو مناسب سمجھا اقدام کیا۔

سطور بالا سے یہ جان لیماں کے لیے بھی آسان ہو گا جو پہلے سے نہیں جانتے تھے کہ ”سیرۃ النبی“ پر تقدید و تبرہ کر کے ڈاکٹر مولانا ظفر احمد صدیقی مظاہری ندوی سلمہ نے کوئی بدعت نہیں کی ہے، بلکہ یہ وہ میدان ہے جس میں کمان سے بہت پہلے اور بعض بہت بڑے قدم رکھ کچے ہیں۔ مگر یہ کہنا غلط نہ ہو گا ”کم تری الاول للآخر“ کے اصول سے کہ مولانا صدیقی نے جس تفصیل سے ”سیرۃ النبی“ کا تجویز کیا ہے ایسا ان کے کسی پیشوں نے راقم کی معلومات کے

مطابق نہیں کیا تھا۔ ان کی بعض رایوں اور نتائج بحث سے اختلاف تو کیا جاسکتا ہے لیکن ان کے اس مفصل تبصرے کو غیر علمی نہیں کہا جاسکتا۔ اسے بذریعی کامنونڈ پائلی دشمنی کا نام بھی نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ صدیقی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے دلائل کے ساتھ لکھا ہے لیکن اپنے ہر دعوے پر عقلی و علمی دلائل دیے ہیں، اور اس بارے میں انھوں نے آئندی محنت کی ہے اور کس قدر تباہی و کھنگالا ہے؟ اس کا اندازہ ان کا تبصرہ پر اپڑھ لینے سے ہی ہو سکتا ہے (کتاب کے آخر میں ان آخذ و مراجح کی تفصیل بھی ذکر کر دی گئی ہے، جن سے اس تبصرہ کے لیے مواد فراہم کیا گیا ہے جن کی تعداد ۷۵ ہے) ان کی تحریر ان کے خوش آئند مستقبل کی پیشگوئی کرتی نظر آتی ہے۔ اس میں پیش کردہ نتائج سے قطع نظر، تجزیہ و تحقیق کا انداز، تعریف کی پختگی، آئندہ میں اعتماد کی شان اور اپنی بات کو خلافت انداز میں پیش کرنے کی قدرت و صلاحیت یہاں جو قاری کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پھر مصنف کے دعاویٰ کے نقش و درد میں جو طرز اختیار کیا گیا ہے اکثر جگہ وہ ”بال کی کمال نکالنے“ کے انداز کا نہیں بلکہ واقعی اور تحقیقاتی ہے، جسے پڑھ کر کوئی مصنف مزاج نہیں کہے گا یہ ”برائے نکتہ چینی“ قبیل کا ہے، بلکہ غیر جانبدار قاری کا رجحان اکثر جگہ دلائل کی قوت اور نقد میں وزن دیکھ کر ناقد کی طرف ہی ہو جائے گا۔ البتہ ہر جگہ ایسا ہونا ضروری نہیں۔ خود راقم کو بعض جگہ نقد ہے اختلاف اور مصنف کی رائے کا زیادہ وزنی ہونا محسوس ہوا۔

شاوا ... ل

خلاصہ کلام یہ کہ ”سرہ النبی“ پر یہ تفصیلی نقد و تجزیہ جو ترجیح اسلام کی سات قسطوں اور تقریباً ۲۰۰ صفحات میں شائع ہوا، بہت محنت اور تصرف نگاہی سے لکھا گیا ہے جس میں اکثر جگہ قاری، ناقد کا ہم نواہ ہو جاتا ہے، اگرچہ بعض جگہ اس سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تتفیص و تنقید، میں فرق مٹوڑا ضرور رہنا چاہیے۔ تتفیص یقیناً ناط بات اور عیوب ہے۔ تنقید نہ عیوب ہے نہ گناہ۔ مذکورہ تبصرہ راقم کی نظر میں تنقید یعنی کے زمرہ کا ہے، نہ کہ تتفیص کے قبیل کا۔ وَلِلْفَبْتِ حَمْدُ اللّٰهِ

چند باتیں

شش الرحمن فاروقی اللہ آباد

مکرمی! السلام علیکم

آپ کے رسالے میں پڑھنے اور اختلاف کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے اور زندہ رسالے کی پہچان یہی ہے۔ اوہر کئی قطعوں میں ظفر احمد صدیقی کا طویل صحیح کہ علام شبیل کی ”سیرۃ النبی“ کا آپ نے چھاپا ہے۔ اس کا ہر ہر صفحہ پڑھ کر دل سے دانٹتی ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ ظفر احمد صدیقی کی نظریت، حدیث اور تاریخ پر بہت گہری ہے۔ اس پر مستزادان کی عربیت اور اصل تأخذ سے ان کا براہ راست استفادہ ہے۔ ممکن ہے بعض جزئی معاملات میں ان سے اختلاف کیا جائے، لیکن عمومی تصوری اور اصولی بحث جوان کے طویل مضمون سے ابھرتی ہے، اس سے اختلاف مشکل ہی ہوگا۔

ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جنہیں علم سے زیادہ شخصیت کا پاس ہے، وہ ظفر احمد صدیقی کے اس مضمون پر ناخوش ہوں۔ لیکن یہاں دو تین باتیں توجہ کے لائق ہیں:

۱۔ کیا یہ ناخوشی اس بنابر ہے کہ ظفر صاحب کے تعقبات اور استدراکات غلط ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا شافی جواب لکھا جائے، تاکہ ظفر احمد صدیقی اور ان کے پڑھنے والوں کی اصلاح ہو سکے؟

۲۔ کیا یہ ناخوشی اس بنابر ہے کہ ظفر صاحب کا لمحہ غیر علیٰ یا گستاخانہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو ان الفاظ و مقامات کی نشاندہی کی جائے جہاں ظفر احمد صدیقی نے حفظ مراتب کی حدود سے

تجاوز کیا ہے، تاکہ ظفر صاحب اپنی اصلاح کر سکیں اور ان کے پڑھنے والوں کو مناسب تسبیب ہو۔

کیا یہ ناخوشی اس بنا پر ہے کہ ظفر صاحب کی نیت صاف نہیں؟ اگر ایسا ہے تو دلائل اور شواہد سے ثابت کیا جائے کہ ظفر صاحب کا مقصود علمی خدمت نہیں، بلکہ ایک محترم شخصیت پر سب و شتم ہے۔ (لیکن اصولی بات پھر بھی باقی رہے گی کہ اگر کوئی بات صحیح ہے تو وہ صحیح ہی رہے گی چاہے کہنے والے کی نیت قاسد ہو)۔

کیا یہ ناخوشی اس بنا پر ہے کہ ہمیں علامہ شبلی سے محبت اور عقیدت ہے اور ہم ان کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں؟ اگر ایسا ہے تو معاملہ علمی بحث سے ہٹ کر عقیدے اور عقیدت کے میدان میں چلا چاتا ہے۔ پھر تو ”لکھ و دنگ“ کہنے کے سوا چارہ نہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں ہمدردی ہو سکتی ہے، علمی مجالست نہیں۔

اسلام ہمیں حق اور انصاف کے احترام کی تعلیم دیتا ہے۔ علم کے میدان میں یہ تعلیم شخصیت پرستی کی ضد ہے۔ جہاں شخصیت پرستی ہو وہ ہیں ایسے معاملات ظہور میں آتے ہیں کہ اگر کسی بڑے آدمی کی کسی بات پر علمی گرفت کی جاتی ہے تو اس کے معتقدین غونما کرنے لگتے ہیں۔ اور شخصیت پرستی ہی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہم جس شخصیت کے پرستار ہوں اس کو اتنا کم زد اور غیر محفوظ سمجھیں کہ مفترض کے اعتراض، یا ناقہ کے جملے پر ہمیں اس شخصیت کی بزرگی میزبانی نظر آنے لگے۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ وہ بڑا آدمی ہی کیا جس کے افکار و آثار تقیدی نظر اور چھان بنیں کے متحمل نہ ہو سکیں؟ بلکہ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ تقیدی محاکمه اپنی جگہ رہتا ہے اور اصل کارنا میں وقوع اپنی جگہ رہتی ہے۔ خود مولا ناشیلی کی شعر اعجم ہمارے سامنے ہے۔ حافظ محمود شیرانی مرحوم نے بے مثال علم، حافظہ اور تفصیل کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مستقل تصنیف ”تقید شعر اعجم“ کے نام سے دنیا کے سامنے پیش کی۔ حافظ صاحب مرحوم نے جتنے اخلاط ”شعر اعجم“ میں نکالے تیز وہ سب درست ہیں، لیکن ”شعر اعجم“ اب بھی مشرق و مغرب میں ایک غیر معمولی علمی کارنا میں کے حیثیت سے مقبول ہے۔ محمود شیرانی کی تقید نے ”شعر اعجم“ کو کمزور نہیں کیا، بلکہ وہ خود ”شعر اعجم“ کا تئہ بن کر رہ گئی۔

اصولی بات یہ ہے کہ جتنا اہم کام ہوتا ہے اور جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ تجزی

روشنی ان پر پڑتی ہے۔ اور وہ علم ترقی نہیں کر سکتا جس میں اکابر کی بات کو جرح و تجزیہ کے عمل سے گزارے بغیر قبول کر لیا جائے۔ مستند یا با اثر متون پر شرح اور پھر ان شروح کی شرح لکھنے کا رواج جو اسلامی علماء نے رائج کیا تھا، وہ اسی لیے تھا کہ ان متون کی ہر بات اس طرح آئینہ ہو کر سامنے آجائے گی اور کھرا کھوپا اگل اگل دکھائی دے گا۔ خود علامہ شبلی مرحوم نے مسلمان فلسفیوں، خاص کر ابن رشد پر نکتہ چینی کی ہے۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ فلسفے کے مغربی طالب علموں اور اسلامی علوم کے ماہرین میں ابن رشد کی اہمیت روز افزود ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ابن رشد پر علامہ کے اعتراضات کی بنا پر ہم علامہ شبلی کو مطعون نہیں کرتے۔ صرف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن رشد کو اس توجہ سے نہیں پڑھا جس کا وہ مستحق تھا۔ نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابن رشد یا ابن سینا کا جو معتقد ہو وہ اخلاقی یا سماجی یا علمی جرم کا مرتكب ہوتا ہے۔

علامہ اقبال نے حافظ کی شاعری اور تصوفانہ طرز فکر کے خلاف جو باتیں کہتیں (جن میں سے بعض سے انہوں نے رجوع بھی کر لیا) تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ حافظ یا تصوفانہ فکر کی وقت یا اقبال کی عظمت پر ان باتوں سے ضرب پڑی؟ بلکہ میرا تو خیال ہے کہ حافظ کے بارے میں ممتاز فیہ باتیں کہہ کر اقبال نے لوگوں کی توجہ ایک بار پھر حافظ کی طرف مرکوز کر دی اور وہ حافظ جو محض خانقاہوں اور بی اے۔ ایم۔ اے۔ کے درجات تک محدود تھے، ایک بار پھر مشرقی اور اسلامی شعری تہذیب کے نمائندے گی حیثیت سے پڑھے جانے لگے۔ ذاکر عبدالستار صدیقی مرحوم نے ایک نہایت طولی مضمون لکھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ حافظ کے کلام میں وہ چیزیں کثرت سے ہیں جنہیں کتابی علم عربی یا قواعد شعری کو رو سے غلط کہا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود حافظ کو ہم سب سے بڑا غزل گومانتے ہیں۔ ذاکر صدیقی مرحوم فرماتے ہیں:

فارسی شاعری کو جس چیز نے تمام عالم کی شاعری سے ممتاز کیا، سب

جانتے ہیں کہ غزل ہے۔ اور غزل کو جس نے غزل بنایا حافظ شیراز

کی ذات ہے۔ کون نہیں مانتا کہ جور و افی، جوشیر نہیں، جیسی برجمنگی

جیسی ٹھنڈگی حافظ کے کلام میں ہے کسی دوسرے کو نصیب نہیں۔

نهاحت اور بلاغت، شوہی اور ممتاز حافظ ہی کے فخر وہ میں

اپنے کمال کو پہنچی ہیں۔

(مقالات صدیقی، جلد اول، اردو اکیڈمی لکھنؤ ۱۹۸۳ء، صفحہ ۳۲)

اب یہ بات الگ ہے کہ جن چیزوں کو کتابی قواعد کی رو سے عیب قرار دیا جا رہا ہے، وہ عیب ہیں بھی یا نہیں؟ یا وہ حافظ کی نظر میں عیب تھیں یا نہیں؟ اصولی معاملہ یہ ہے کہ کتابی قواعد کی رو سے حافظ بہت سے "انглаط" کے مرکب ہونے ہیں۔ لیکن حافظ پھر بھی سب سے بڑے غزل گواور دنیا کے عظیم ترین شعرا میں ہیں۔

دوسری بنیادی بات یہ کہ حافظ کے کلام میں اتنی کثیر تعداد میں "انглаط" کا وجود ثابت کر کے ڈاکٹر عبدالستار صدیقی نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ لہذا اگر ظفر احمد صدیقی نے علامہ شبلی کی بعض تحقیقات کے نتائج کو غلط قرار دیا، یا شبلی کی بعض کوتا ہیوں سے ہم کو آگاہ کیا تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ اگر ظفر صاحب کے اعتراضات درست ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ان کی مسامی کے ذریعہ حقیقت حال سامنے آئی۔ اور اگر ظفر صاحب کی باتیں غلط ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم غلطیوں کی نشاندہی کریں اور ظفر صاحب کو ان غلط باتوں پر تنبیہ کریں۔ ظفر احمد صدیقی کے ان مقامات میں سے علامہ شبلی کی عظمت بہر حال کم نہیں ہوتی۔ تاریخ و سیرت ہو یا نشاہ، شبلی جیسے لوگ عالم اسلام کیا تمام عالم میں کم ملیں گے۔ اس حقیقت کے سب معرف ہیں، اور یقین ہے کہ ظفر احمد صدیقی بھی اس کے معرف ہوں گے۔ مجھے ظفر صاحب سے کوئی شکایت ہے تو بس یعنی کہ انہوں نے درازگی سے کام لیا ہے، ورنہ ان کی بات اس سے کم میں بھی تمام ہو سکتی تھی۔ لیکن ممکن ہے انہوں نے سوچا ہوا ایک دو مشالوں سے لوگوں کو شفی نہ ہو گی، لہذا کثرت سے مٹا لیں گے جائیں، تاکہ تاویل و تصحیف کے بہانے نہ چل سکیں۔ ڈاکٹر عبدالستار صدیقی نے بھی اپنے حافظ والے مضمون میں یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔

حضرت شیخ احمد محمد شاکر کی مرتب و مدون کردہ مندرجہ کے بارے ہم جانتے ہیں کہ محدث کبیر علامہ جبیب الرحمن عظیمی نے اس پر کثرت سے استدراکات و تعلیقات لکھے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ علامہ احمد محمد شاکر نے محدث کبیر حضرت عظیمی کے پیش تر اقوال کو نہ صرف قبول کیا، بلکہ سن و عن اپنی کتاب کی آخری جلد میں درج کیا اور حضرت محدث کبیر کی وقت نظر،

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شغف علمی، تبحر و شخص اور حافظتے کی دل کھول کر داد دی اور منکر ہوئے۔ یہ تمام تفصیلات ”ترجمان الاسلام“ کے کسی گذشتہ شمارے میں آپ خود شائع کر چکے ہیں۔ بیشک اہل علم کا وہی روایہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے جو حضرت شیخ احمد محمد شاکراور حضرت محمدث کبیر کاظما علم اور خاص کر ایسا علم جس کا تعلق دین سے ہو ظلمت پسند نہیں ہوتا، اور پچھے صاحب علم میں نہ تخترا اور زعم ہمسدادی ہوتا ہے، نہ وہ شخصیت پرستی کے جال میں اُرفتار ہوتا ہے۔

سفرنامہ

”ہمارے زمانہ میں جو سو اخ عمریاں لکھی گئی ہیں، ان میں باوجود دعویٰ آزادی کے تقدید اور جرح سے بالکل کام نہیں لیا گیا۔ اور اس کا عذر ریکیا جاتا ہے کہ بھی قوم کی یہ حالت نہیں کہ تصویر کے دونوں رخ اس کو دکھائے جائیں، لیکن عذر کرنے والے خود اپنی نسبت غلطی کر رہے ہیں، جس چیز نے ان کو اطمینان سے روکا ہے وہ ایشیائی شخص پرستی ہے جس کا اثر رُگ و پے میں سرایت کر گیا ہے۔ اور عذر کرنے والوں کو خود اس اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس غلامانہ شخص پرستی سے ایک بڑا ضرر یہ ہے کہ جو لوگ ان کا برکتی تقدید کرتے ہیں ان میں ہزاروں ایسے ہوتے ہیں، جن کو خود نیک و بد کی تیز نہیں ہوتی، اس لیے وہ اچھی باتوں کے ساتھ اکابر کی غلطیوں کی بھی تقدید کرنے لگتے ہیں، اور سلسلہ درسلسلہ تمام قوم میں اس کا اثر پھیل جاتا ہے۔“

(علامہ شبلی نعمانی: موازنہ نامہ و دیبر)

باب اول

خصوصیات و امتیازات

اردو میں سیرت نبوی کے موضوع پر یوں تو چھوٹی بڑی صد ہا کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن شہرت و قبولیت کے جس مقام بلند پر علامہ شبلی کی سیرۃ النبی نظر آتی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، اگرچہ یہ کتاب تمام رہی اور موت نے مہلت نہ دی کہ مولا نا اپنی خواہش اور مضمون کے مطابق اسے پایہ تکمیل تک پہنچاتے، تاہم ان کی تصنیف کے درمیان اسے ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ لہذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون ہی خصوصیات و امتیازات ہیں، جنہوں نے مختلف النوع تحقیقی فروذ اشتوں اور داغ نامہای کے باوجود اس کتاب کو آسان سیرت کا ماتماں سیرت کا ماتماں بن رکھا ہے؟

- اس ضمن میں اس کتاب کے بالاستیحاب اور بار بار کے مطالعے کے بعد راتم الحروف کا ذہن جنم ان امور کی جانب منتقل ہوتا ہے، وہ یہ ہیں۔
- اول : مصنف کا طاقت و راور مؤثر اسلوب بیان۔
- دوم : سورخانہ شور و آگئی۔
- سوم : پے مثال اور منفرد سلیمانی تحریر و تصنیف۔
- چہارم : مستشرقین کا درود ایطال۔

ثُبُّم : عالما نہ طرز تھا طب۔
اس اجمال کی تفصیل آئندہ صفحات میں ملاحظہ ہو:

موثر اسلوب بیان:

مولانا شبلی کا صاحب طرز ادب و انشا پر واڑا از ہوتا اردو ادب کے مسلمات میں ہے۔ باوجود کے انھوں نے ناول لکھنے نہ افسانے، خاکے لکھنے نہ انشائیے، آپ پہنچنے لکھنی نہ رائے، پھر بھی وہ اردو کے صفوں کے نثر نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کا راز ان کی انشا پر واڑا اور صلاحیت اور قوت میں پہاڑ ہے۔ لہذا اکتب سیرت کے ذخیرے میں سیرۃ انبیٰ کی انفرادیات کا ایک سبب تو یہ ہے کہ یہ ہماری زبان کے ایک مستند اور صاحب طرز ادب کی بہترین انشاء پر واڑا نہ صلاحیتوں کا مظہر اور اس کے قلم کی شکوفہ کار یوں کام رکھے۔ دوسرے انھوں میں اس بات کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں جن اہل علم اور ارباب قلم حضرات نے سیرت کے موضوع پر قلم اختایا ہے ان میں سے کوئی بھی خالص نثر نگار کی حیثیت سے مولانا شبلی کے درجے تک نہیں پہنچتا اس لیے ان کی تصانیف سیرت، اپنی دوسری خوبیوں سے قطع نظر اسلوب و انشا کے لحاظ سے سیرۃ انبیٰ کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ مثال کے طور پر سیرۃ انبیٰ کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں:

خانہ کعبہ کی تعمیر:

دنیا میں ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ایران، بند، مصر، یورپ میں عالمگیر اندھیرا تھا۔ قول حق ایک طرف، اس وقت خطہ ارش میں گز بھر زمین نہیں ملتی تھی، جہاں کوئی شخص خالص خدا یہ واحد کا نام لے سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کلدان میں صدائے بلند کرنی چاہی تو آگ کے شعلوں سے کام پڑا۔ مصر آئے، ناموس کو خطرے کا سامنا ہوا، فلسطین پہنچ کی نے بات تک نہ پہنچی۔ خدا کا نام جہاں لیتے تھے، تھا اور بت پرستی کے ٹلغے میں آواز دب

دب کر رہ جاتی تھی، معمورہ عالم کے صفحے نقشہ بے باطل سے ذہک
چکے تھے۔ اب ایک سادہ، بے رنگ، ہر قسم کے نقش و نگار سے مرا
ورق درکار تھا، جس پر طغراے حق لکھا جائے۔ یہ صرف حجاز کا
صحراے دیران تھا جو تمدن اور عمران کے داغ سے بھی داغدار نہیں
ہوا تھا۔ (۱۵۲/۱)

حضرت اسماعیل کی قربانی :

اب ایک طرف نو سالہ بیرون ضعیف ہے، جس کو دعا ہائے سحر کے
بعد خاندان نبوت کا چشم و چہرے غلطہ ہوا تھا۔ جس کو وہ تمام دنیا سے
زیادہ محبوب رکھتا تھا۔ اب اسی محبوب کے قتل کے لیے اس کی
آسٹینس چڑھ چکی ہیں اور ہاتھ میں چھری ہے۔

دوسری طرف نو بوان بیٹا ہے، جس نے بچپن سے آج
تک باپ کی محبت آمیز نگاہوں کی گود میں پرورش پائی ہے اور اب
باپ کا مہر پرور ہاتھ اس کا قاتل نظر آتا ہے، ملائکہ قدسی، فضائے
آسمانی، عالم کا نات ایمیز تماشا دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے
بندال ہیں کہ خلعتا عالم قدسی سے آواز آتی ہے:

﴿يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ﴾ ”ابراهیم! تو نے خواب کوچ کر دکھایا ہم نیک
بندوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔“

طغیان ناز میں کر جگر گوشہ خلیل در زیر تنگ رفت و شبیدش نبی کند (۱۵۸/۱)

خطبہ فتح کے بعد:

خطبے کے بعد آپ نے مجمع کی طرف دیکھا تو جاران قریش سامنے
تھے، ان میں وہ حوصلہ مند کی تھے جو اسلام کے مٹانے میں سب

خصوصیات و انتیازات

سے پیشہ رہتے، وہ بھی تھے جن کی زبانیں رسول اللہ ﷺ پر
گالیوں کے بادل بر سایا کرتی تھیں۔ وہ بھی تھے جن کی تحقیق و سنان
نے پیکر قدمی ﷺ کے ساتھ گستاخیاں کی تھیں۔ وہ بھی تھے جنہوں
نے آنحضرت ﷺ کے راستے میں کائے بچائے تھے۔ وہ بھی
تھے جو وعظ کے وقت آنحضرت ﷺ کی ایزویوں کو لیوہاں کر دیا
کرتے تھے۔ وہ بھی تھے جن کی تشنیلی خون بوت کے سوا کسی چیز
سے بچنے میں سختی تھی۔ وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاپ مدینے کی
دیواروں سے آکر نکلا تھا۔ وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جلتی ہوئی
ریگ پرانا کران کے سینوں پر آتشیں مہریں لگایا کرتے تھے۔
رحمت عالم ﷺ نے ان کی طرف دیکھا اور خوف انگیز
لہجے میں پوچھا : تم کو معلوم ہے؟ میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا
ہوں؟

یہ لوگ اگر چہ ظالم تھے، شقی تھے، بے رحم تھے۔ لیکن مزان
شہاس تھے۔ پکارا گئے کہ : "آغ کرسیم دابن آغ کرسیم" تو
شریف بھائی ہے اور شریف برادرزادہ ہے۔

ارشاد ہوا : "لذ تشریب علیکم الیوم اذ قبوا
فانتسم الطلقوا" تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔

(۵۱۹۱)

فائق اور پیغمبر کا انتیاز :

عین اس وقت جب کہ معز کر کے کارزار گرم ہے۔ تیروں کا مینڈ برس رہا
ہے۔ تمام میدان لا لہ زار بن گیا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں اس طرح
کٹ کٹ کر گر ہے ہیں، جس طرح موسم خزاں میں پتے جھترے
ہیں۔ دشمن کی فوجیں سیلاپ کی طرح بڑی آرہی ہیں۔ میں اس

حالت میں آنحضرت ﷺ کا دست دعا آسمان کی طرف بلند ہے۔
 جنگ آور باہم نبرد آزمائیں اور سربراک حجہ نیاز میں ہے۔
 معزکہ بدر میں حضرت علی عین شدت جنگ میں تین بار
 خبر لینے آئے اور ہر دفعہ دیکھا کہ وہ مقدس پیشانی خاک پر ہے۔
 حسین میں دشمن نے دفعۃ اس زور سے حملہ کیا کہ تمام فوج
 کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بارہ ہزار آدمیوں میں سے ایک بھی پہلو میں
 نہیں۔ سامنے سے دس ہزار قدر انداز تیر بر ساتے آ رہے ہیں،
 لیکن مرکز حق اپنی جگہ پر قائم ہے اور ایک پر جلال آواز آری ہے۔
 أنا النبی لا کذب میں پختگی ہوں اور جھوٹا پختگی نہیں ہوں۔
 میں اس وقت جب کہ صفیں باہم معزکہ آ رہیں۔ ہر
 طرف تکواریں برس رہی ہیں۔ ہاتھ پاؤں کٹ کر زمین پر بچھے
 جاتے ہیں۔ موت کی تصویریں ہر طرف نظر آ رہی ہیں۔ اتفاق سے
 نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ دفعۃ نماز کی صفیں قائم ہو جاتیں ہیں۔
 پس سالار امام نماز ہے۔ فوجیں صفویں نماز ہیں۔ رجز کے بجائے
 اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہیں۔ جوش خروش، تہور و جانبازی، غیظ
 و غضب، اب یغزو و نیاز، تصرع وزاری اور خشوع و خصوع بن جاتا
 ہے۔ صفیں دور کیتیں ادا کر کے دشمن کے مقابلے پر چلی جاتی ہیں۔
 ان کے بجائے لڑنے والے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ
 دور کیتیں ادا کر کے پھر اپنی خدمت پر واپس چلے جاتے ہیں اور
 مشغولین جنگ آ کر بقیہ نمازیں پوری کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ
 تبدیلیاں فوجوں میں ہوتی ہیں۔ امام (رسول ﷺ) اول سے
 آخر تک عبادت الہی میں مصروف ہے۔ (۶۲۱-۶۲۲)

حجۃ الوداع :

آپ نے نظر انھا کر اس عظیم الشان مجمع کی طرف دیکھا تو فرانچ
نبوت کے تیس سالہ بنائج نگاہوں کے سامنے تھے۔ زمین سے
آسمان تک قبول و اعتراض حق کا نور رضوی شاہ تھا۔ دیوان قضا میں
انبیاء سابقین کے فرانچ تبلیغ کے کارنا موسوں پر ختم رسالت مبرک
شبت ہو رہی تھی اور دنیا اپنی تخلیق کے لاکھوں برس کے بعد دین
فطرت کی تخلیل کا مرشدہ کائنات کے ذرہ ذرہ کی زبان سے سن رہی
تھی عیناً اسی عالم میں زبان حق محمد رسول اللہ ﷺ کے کام و دن
میں زمزمه پرداز ہوئی۔

اب ایک نئی شریعت، ایک نئے نظام اور ایک نئے عالم کا
آغاز تھا اس بنا پر ارشاد فرمایا :

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات
والارض "ابدائل جب خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔
زمان پھر پھر اس کے آج پھر اسی نقطے پر آ گیا۔ (۱۶۲۲)

ذکورہ بالاقتباسات میں جن مفہومیں یا واقعات کا بیان کیا گیا ہے، وہ بذات خود
نئے یا انوکھے نہیں ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سیرت کی متداول کتابوں کا مشترک سرمایہ ہے۔
لیکن مولانا کے سارے نویں مفہومیں اسی میں جدت و طریقی کا سامان پیدا کردیا ہے۔

سیرۃ النبی کے ان اقتباسات کے تعلق سے ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ
مولانا شلی نے اپنی تحریروں میں "محاکات" پر بہت زور دیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ "اسی چیز با
کسی خاتم کا اس طرح ادا کرنا کہ اس شی کی تصویر آنکھوں میں پھر جائے ایک بڑا کارناسہ اور
زبان، بیان پر قدرت کی علامت ہے۔" اس لیے وہ اپنی نگارشات میں محاکات یا تصویر کشی پر
خاص توجہ دیتے تھے۔ متذکرہ اقتباسات کا حسن بھی محاکات کی اسی شعوری کوشش کا نتیجہ ہے۔

لیکن ظاہر ہے کہ سیرت انبیٰ جیسی کتاب، جس میں قدم قدم پر روایات و واقعات کے حوالے ہیں، عالمانہ مباحث ہیں، محمد نامہ موشنگا فیاں ہیں، بعض محاکمات کے سہارے نہیں لکھی جاسکتی تھی۔ اس لیے اپنی نشر کو موثر اور طاقت ور بنا نے کے لیے مولانا نے بعض دوسرے ذرائع وسائل کا بھی سبารالیا ہے، جنہیں ہم ان کی نظر کی بنیادی خصوصیات سے بھی تجیر کر سکتے ہیں۔

ان میں سرفہrst ایجاد و اختصار کا وصف ہے۔ مولانا اصلًا ایک پھول کے مضمون کو

سورگ سے باندھنے کے قائل نہ تھے اس لیے ان کے یہاں حشو و زوائد کا گذرنا ہونے کے برابر ہے۔ ان کی نظر بہت سختی ہوئی اور معنوی لحاظ سے مرکوز ہوتی ہے۔ ان کے یہاں مقدرات بکثرت ہوتے ہیں، لیکن دلاتیں نہایت واضح ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ جن مقامات پر بظاہر اطاعت کا گمان گزرتا ہے، بغور دیکھا جائے تو ہاں بھی ایجاد ہی کار فرمان نظر آئے گا۔ مثلاً ”ظہور قدی“ کا یا ایک جملہ ملاحظہ ہو:

کارکنان قضاہ و قدر کی بزم آرائیاں، عناصر کی جدت طرازیاں، ماہ و خورشید کی فروغ انگیزیاں، ابر و باد کی تردیاں، عالم قدس کے انفاس پاک، تو حیدابراہیم، جمال یوسف، بجز طرازی مسوی، جاں نوازی سخی سب اسی لیے تھے کہ یہ مٹائے ہائے گر اس ارزش انسان شاہ کو نہیں مل سکتے کے دربار میں کام آئیں گے۔ (۱۷۰۷)

یہ بیان تفصیلات پر نہیں، بلکہ تلمیحات و اشارات پر منی ہے۔ یہی مضمون اگر کسی اطاعت پسند ادیب مثلاً مولانا ابوالکلام کو ادا کرنا ہوتا، تو اس کے لیے کئی صفات کی وسعت درکار ہوتی۔

مولانا اپنی نشر میں ایجاد و ارتکاز کے ساتھ ساتھ اثر و تاثیر کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے تشبیہات کا کم اور استعارات و بجاڑات کا بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ سیرت انبیٰ سے ہی چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

اس نے یہ حکم دیا کہ جو دشیزہ لڑکی بیاہی جائے۔ پہلے اس کے شہستان عیش میں آئے۔ (۱۷۰۹)

جب مصعبؑ نے قرآن کی چند آیتیں پڑھیں تو پھر موسم تھا۔ (۲۶۷/۱)
حضرت علیؑ معلوم ہو چکا تھا کہ قریشؓ آپؐ کے قل کا ارادہ کر رکھے
ہیں اور آج رسول اللہ ﷺ کا بستر خواب، قتل گاہ کی زمین ہے،
لیکن فاتح خیر کے لیے فرش مگل تھا۔ (۲۷۰/۱)

جب اسلام نے قبلہ بھی بدل دیا تو ان کی ناراضی و برہمی کا پانہ
ہاں کل لبریز ہو گیا۔ (۳۰۱/۱)

مکہؓ اگر قابو میں آ جاتا تو حرم کی وسعت اثر کی وجہ سے تمام عرب کی
گرد نیپھ خم ہو جاتی۔ (۳۰۵/۱)

لب مبارک فتح کی پیشین گوئی سے آشنا ہوئے۔ (۳۲۲/۱)

ذل ذل کا ہجوم کر کے بڑھتا تھا، لیکن ذوالقدر کی بجلی سے یہ بادل
پھٹ پھٹ کر رہ جاتا تھا۔ (۳۲۹/۱)

اب آپؐ نے دست مبارک سے چھاؤڑا مارا تو چڑان ایک تدرہ
خاک تھی۔ (۳۲۲/۱)

گواں کے دل میں نور اسلام آچکا تھا، لیکن تاج وخت کی تاریکی
میں وہ روشنی بجھ کر رہ گئی۔ (۳۶۷/۱)

اب وقت آگیا کہ آفتاب جاپ ہائے حائل کو چاک کر کے باہر نکل
آئے۔ (۵۰۹/۱)

سب سے اخیر کو کہہ نبوی رونما ہوا، جس کے پروے سُلٹ خاک پر نور
کافرش پھیلتا جاتا تھا۔ (۵۱۵/۱)

فتح کے بجائے دہلہ اول میں مطلع صاف تھا۔ (۵۳۳/۱)

تیروں کا میدہ برس رہا تھا، بارہ ہزار فوج میں ہوا ہو گئی تھیں، لیکن ایک
پیکر مقدس پا پر جا تھا، جو تھا ایک فوج، ایک ملک، ایک ائمہ، ایک
عالم بلکہ مجموعہ کائنات تھا۔ (۵۳۹/۱)

و اقتحات کے بیان میں مولانا کا خاص طرز یہ ہے کہ غیر ضروری جزئیات حذف کردیجئے ہیں، لیکن اس خوبی کے ساتھ کم مقدرات و محدود قافت کی جانب اشارات برقرار رہیں۔ مثلاً سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ آنحضرت ﷺ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار کے جوش و خروش کی کیا کیفیت تھی؟ ہر قیلہ کس طرح خواہش مند تھا کہ آپ ﷺ سے میزبانی کا شرف بخشیں؟ آپ کی سواری کی اونٹی کس طرح آزاد چھوڑ دی گئی کہ جس طرف چاہے جائے اور جہاں چاہے تھبہر جائے؟ بالآخر کس طرح ایک جگہ تھی، پھر انھی اور پھر بینھنگئی؟ پالان ناقہ کس طرح حضرت ابوالیوب انصاری کے گھر پہنچا اور آپ ﷺ نے ان کے مکان کو کس طرز اپنے قیام کے لئے منتخب فرمایا؟ مولانا نے اس واقعہ کو چند جملوں میں سمیت دیا ہے لیکن اس خوبی کے ساتھ کم انصار کی محبت اور کلمکش کی تصویر بنا ہوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ لکھتے ہیں :

جہاں اب مسجد نبوی ہے، اس سے متصل حضرت ابوالیوب انصاری
کا گھر تھا۔ کوکہ نبوی یہاں پہنچا۔ خت کلمکش تھی کہ آپ کی میزبانی
کا شرف کس کو حاصل ہو؟ قرعہ ڈالا گیا۔ آخر یہ دولت حضرت
ابوالیوب انصاری کے حصے میں آئی۔ (۲۷۹)

احادیث میں یہ واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار قریش کے نمائندے نے جب انصار کیا کہ معاهدہ نامہ میں "محمد رسول اللہ" کے بجائے صرف "محمد" پر اکتفا کی جائے اور "رسول اللہ" کا لفظ منادیا جائے تو آپ ﷺ نے حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ وہ اس لفظ کو منادیں۔ لیکن حضرت علیؓ اپنے باتحہ سے اس لکھ کے مٹانے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ یہاں شارصین حدیث کے درمیان بحث انھوں کھڑی ہوئی کہ حضرت علیؓ نے ارشاد نبوی پر عمل کیوں نہیں کیا؟ مولانا شبل نے اس عقیدہ لا خیل کو صرف دو جملوں میں نہایت بلاغت کے ساتھ حل کر دیا ہے۔ لکھتے ہیں :

حضرت علیؓ سے زیادہ کون فرمان گزار ہو سکتا تھا؟ لیکن عالم محبت
میں ایسے مقام بھی آتے ہیں، جہاں فرمان بری سے اٹکا رکنا پڑتا

(۳۵۵/۱)

مولانا شبیل کی نشر کا ایک دوسرا صفحہ خاص یہ بھی ہے کہ وہ استدلال اور منطقیع کے سانچے میں ذہلی ہوتی ہے، چنانچہ وہ جب کسی واقعے یا مضمون کو بیان کرتے ہیں تو دل دماغ اسے فرما قبول کر لیتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ اور جس طرح پیش آیا، یہی اقتضائے فطرت بھی تھا، یہ کیفیت اگر چنان کی ہر عبارت میں موجود ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ طور خاص چند مثالیں ملاحظہ ہوں :

آفتاب کی روشنی دور پہنچ کر تیز ہوتی ہے۔ شیم گل باٹھ سے نکل کر عطرنشاں بختی ہے۔ آفتاب اسلام، طلوع مکہ میں ہوا۔ لیکن کرئیں مدینے کے افق پر جمکیں۔ (۲۵۸/۱)

اگرچہ بارگاہ الہی سے فتح و نصرت کا وعدہ ہو چکا تھا۔ عناصر عالم آمادہ مدد تھے۔ ملائکہ کی فوجیں ہم رکاب تھیں۔ تاہم عالم اسباب کے لحاظ سے آپ نے اصول جنگ کے مطابق فوجیں مرتب کیں۔

(۳۲۰/۱)

ابوسفیان کے تمام پچھلے کارنامے اب سب کے سامنے تھے اور ایک ایک چیز اس کے قتل کی دعویدار تھی۔ اسلام کی عدالت، مدینے پر بار بار حملہ، قبائل عرب کا اشتغال، انحضرت ﷺ کے خفیہ قتل کرانے کی سازش، ان میں سے ہر چیز اس کے خون کی قیمت ہو سکتی تھی، لیکن ان سب سے بالآخر ایک چیز تھی، اس نے ابوسفیان کے کان میں آہستہ سے کہا کہ ”خوف کا مقام نہیں“۔ (۵۱۳/۱)

یہ آسان تھا کہ مسلمانوں کے خس و خاشاک سے سرزیں عرب دفعٹا پاک کر دی جاتی۔ لیکن قریش کا نہ انتقام اس سے اترنیں ملکا تھا۔ مسلمان اگر اپنے مذہب پر ثابت قدم رہ کر پونڈ خاک کر دیے جاتے تو اس میں قریش کی جس قدر تعریف تھی، اس سے زیادہ ان بیکسوں کا صبر و استقلال دادا طلب ہوتا، قریش کی شان اس وقت

قائم رہ سکتی تھی جب یہ لوگ جادہ اسلام سے پھر کر، پھر قریش کے مذہب میں آجائے یا شاید ان کو مسلمانوں کی ختن جانی کا امتحان لینا اور اس کی داد دینا منتظر تھا۔ (ار ۲۴۷)

مصنف شعر الجم کو فارسی شعر و ادب کا جیسا بلند اور پاکیزہ ذوق عطا ہوا تھا، وہ محتاج شرح و بیان نہیں ہے۔ سیرۃ النبی کی تصنیف کے دوران مولانا نے اگرچہ "شعر الجم" سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، لیکن شعر الجم کا ذوق ان کا رفتہ و دساز تھا۔ چنانچہ واقعات سیرت کے بیان میں کہیں کہیں انہوں نے فارسی کے ایسے بھل اور منتخب اشعار پیش کیے ہیں، جن کا بدلتہ ڈھونڈنا کالانا بہت دشوار ہے۔ مثلاً لکھتے ہیں :

ایک نیب بات یہ ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ مظلوم تھے اور جن کو انگاروں کے بستر پر سوتا پڑا تھا، یعنی حضرت بلاں، عمار، یاسر وغیرہ، ان کا نام مجاہر بن جبش کی فہرست میں نظر نہیں آتا۔ اس لیے یا تو ان کی بے سر و سامانی اس حد تک پہنچی تھی کہ سفر کرنا بھی نامکن تھا۔ یا یہ کہ درد کے لذت آشنا تھے اور اس لطف کو چھوڑنے سکتے تھے۔

و لمْ جُرُّوا آسودة است و مِنْ لَمْ
کَغَيْرِ پَنْبُرِ لَذْتٍ خَدْنَكَ تَرَا

(ار ۲۳۶)

ایک اور مثال ملاحظہ ہو :

جال شاران خاص برادر لڑتے جاتے تھے، لیکن نگاہیں سرور عالم ﷺ کو ڈھونڈتی تھیں۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک کی نظر پڑی، چہرہ مبارک پر مغفر تھا، لیکن آنکھیں نظر آتی تھیں۔ حضرت کعب نے پہچان کر پکارا مسلمانو! رسول اللہ ﷺ یہ ہیں۔ یہ سن کر ہر طرف سے جاں شارٹوٹ پڑے، کفار نے اب ہر طرف سے ہٹ کر اسی رخ پر زور دیا۔ ذل کا ذل بھوم کر کے بڑھتا تھا، لیکن ذوالفقار کی بجلی سے یہ بادل پھٹ کر رہ جاتا تھا۔ ایک دفعہ

ہجوم ہوا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا : کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ زیاد بن سکن پاچ انصاری لے کر اس خدمت کے ادا کرنے کے لیے بڑھے اور ایک ایک نے جان بازی سے لڑ کر جانیں فدا کر دیں۔ حضرت زیاد کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ ان کا لاش قریب لاو۔ لوگ اخشا کر لائے۔ پچھے کچھ جان باتی تھی۔ قدموں پر مندر کھدیا اور اسی حالت میں جان دی۔ پچھے نا زرفتہ باشد ز جہاں نیا ز مندے

کہ ب وقت جان پر دن، برس ر سیدہ باشی (۲۷۹/۱)

طنزیہ پیرا یہ بیان کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس سے بیان کی قوت دتا شیر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سیرۃ النبی میں کہیں کہیں اس کے نمونے بھی مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل اقتباس کا خط کشیدہ فقرہ ملاحظہ ہو :

رسول اللہ ﷺ نے طائف سے پھر کر چند روز تکہ میں قیام کیا۔ پھر حرام میں تشریف لائے اور مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھ کو اپنی حمایت میں لے سکتے ہیں؟... مطعم نے یہ درخواست منظور کی، بیٹوں کو بلکہ کہا کہ ”تھیمار لگا کر حرم میں جاؤ“... مطعم اور اسکے بیٹے آپ کو تکواروں کے سایہ میں لائے۔

مطعم نے کفر کی حالت میں غزوہ بدر سے پہلے وفات کی، حضرت حسان جود ربار رسالت کے شاعر تھے انہوں نے مرثیہ لکھا۔ زرقانی نے یہ مرثیہ بدر میں نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس میں کچھ مضاائقہ نہیں۔ مطعم کا یہ کام بے شہد مرح کا ستحق تھا۔ لیکن آج کل کے مسلمان حضرت حسان اور زرقانی سے زیادہ شیفتہ اسلام ہیں۔ اس لیے معلوم نہیں کہ حضرت حسان کا یہ فعل آج بھی پسند کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟

(۲۵۲-۲۵۱/۱)

طنزی کی کار فرمائی درج ذیل عبارت کے آخری فقرے میں بھی ہے۔ بھرت کی شب بب کہ کفار کے مختلف قبائل نے آستانہ نبوی ﷺ کا حاصلہ کر لیا تھا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

آل عرب زمانہ مکان کا اندر گھنٹا میوب بھتے تھاں لیے باہر ٹھہرے رہے کہ آنحضرت ﷺ نے تو یہ فرض ادا کیا جائے ۔ (۲۶۹۱)

یہ عین گنویرہ النبی کے حوالے سے مولانا شبلی کے موثر اور طاقتور اسلوب بیان نیزان کی طرز بیمارش کے مختلف پہلوؤں کی توضیح و تفصیل سے متعلق تھی۔ آئندہ صفات میں ہم اس کتاب کی بعض دوسری خصوصیات سے بحث کریں گے۔

مورخانہ شعور و آگئی :

مولانا شبلی چونکہ نہایت پختہ اور رضا ہوا تاریخی شعور رکھتے تھے اور تاریخ نگاری کے جدید اصول و آداب سے بھی پوری طرح واقف تھے۔ اس لیے انہوں نے تصنیف سیرت کے دوران اس ذوق سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور سیرۃ النبی کو سیرت کی قدیم کتابوں کے انداز میں لکھنے کے بجائے تاریخ نگاری کے نئے اصولوں کے مطابق تصنیف کیا، آج کل کی مردوں اصطلاح کے مطابق یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس تصنیف میں انہوں نے ہماری حصیت کا بھر پور لحاظ رکھا ہے۔

اس ضمن میں سب سے اہم اور قابل ذکر چیز واقعات سیرت کے بیان میں مورخانہ اسباب و علم کی تلاش ہے، مولانا نے اس طرف خاص توجہ دی ہے اور سیرۃ النبی میں جا بجا مستقل عنوانات قائم کر کے بعض اہم واقعات اور ان کے اسباب سے متعلق بہت عدہ بحثیں کی ہیں، جن کی مثالیں عام کتب سیرت میں نہیں ملتیں۔ آئندہ صفات میں ہم سیرت النبی سے ایسے مختلف اقتباسات پیش کریں گے، جن سے ہمارے اس دعوے کی توضیح ہوتی ہے۔

قریش کی مخالفت اور اس کے اسباب :

نا تربیت یا نقص اور تنقیب میں کا خاصہ ہے کہ کوئی تحریک جوان کے

آبائی رسم و عقائد کے خلاف ہو، ان کو سخت برہم کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ان کی مخالفت، بحث زبانی مخالفت نہیں ہوتی اور ان کی تشکیل انتقام کو خون کے سوا کوئی چیز بجا نہیں سکتی.....

عرب ایک مدت سے بت پرتوی میں بیٹا تھا، خلیل بت شکن کی یادگار (کعبہ) تین سو سالہ معبودوں سے مزین تھی، جن میں ہبل خداۓ اعظم تھا۔ یہی بت ہر قسم کے خیر و شر کے مالک تھے۔ پانی بر ساتے تھے، اولادیں دیتے تھے۔ معمر کہ ہائے جنگ میں حسین دلاتے تھے۔ خدا یا تو سرے سے نہ تھا، یا تھا تو وجود معطل تھا۔

اسلام کا اصل فرض اس طسم کو دفعتاً برا باد کر دینا تھا، لیکن اس کے ساتھ قریش کی عظمت و اقتدار اور عالمگیر اثر کا بھی خاتمه تھا۔ اس لیے قریش نے شدت سے مخالفت کی اور ان میں جن لوگوں کو جس قدر زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، اسی قدر مخالفت میں زیادہ سرگرم تھے.....

ایک بڑا سبب قبائل کی خاندانی رقبابت تھی۔ قریش میں دو قبیلے نہایت ممتاز اور حریف یکدیگر تھے۔ بنو هاشم و بنو امية عبد المطلب نے اپنے زور اور اثر سے بنو هاشم کا پله بخاری کر دیا تھا۔ لیکن ان کے بعد اس خاندان میں کوئی صاحب اثر نہیں پیدا ہوا۔ ابو طالب دولت مند نہ تھے۔ عباس دولت مند تھے لیکن فیاض نہ تھے۔ ابو لهب بد چلن تھا۔ اس پر بنو امية کا اقتدار بڑھتا جاتا تھا۔ آنحضرت ﷺ کی نبوت کو خاندان بنو امية اپنے ورثیہ (ہاشم) کی فتح خیال کرتا تھا۔ اس لیے سب سے زیادہ اسی قبیلے نے آنحضرت ﷺ کی مخالفت کی۔ بدر کے سوا باتی تمام لڑائیاں ابوسفیان علیؑ نے بربا کیں اور وہی ان لڑائیوں میں رئیس لٹکر رہا۔

ابو جہل کی تقریر سے اس بیان کی پوری تصدیق ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اخض بن شریق ابو جہل کے پاس گیا اور کہا کہ محمد ﷺ کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ ہم اور بو عبد مناف (یعنی آل ہاشم)، ہمیشہ حریف مقابل رہے۔ انھوں نے مہمان داریاں کیں تو ہم نے بھی کیں۔ انھوں نے خون بھادیے تو ہم نے بھی دیے۔ انھوں نے فیاضیاں کیں تو ہم نے ان سے بڑھ کر کیں۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے کاندھ سے کاندھا ملا دیا تو اب بو ہاشم پیغمبری کے دنوے دار ہیں۔ خدا کی قسم ہم اس پیغمبری پر کبھی ایمان نہیں لاسکتے۔

ایک بڑا سبب یہ تھا کہ قریش میں سخت بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی تھیں، بڑے بڑے ارباب اقتدار نہایت ذلیل بد اخلاقیوں کے مرٹکب تھے۔ ابو لہب جو خاندان ہاشم میں سب سے زیادہ متاز تھا، اس نے حرم محترم کے خزانے سے غزال زریں چرا کر کر ڈالا تھا۔ اخض بن شریق جو بنو زہرا کا حلیف اور رو سائے عرب میں شمار کیا جاتا تھا، نام اور کذاب تھا۔ نظر بن حارث کو جھوٹ بولنے کی سخت عادت تھی۔ اسی طرح اکثر ارباب جاہ مختلف قسم کے اعمال شنیدہ میں گرفتار تھے۔ انحضرت ﷺ ایک طرف بت پرتوں کی برائیاں بیان فرماتے تھے۔ دوسری طرف ان بد اخلاقیوں پر سخت دار و گیر کرتے تھے جن سے ان کی عظمت و اقتدار کی شاہنشاہی متنزل ہوتی جاتی تھی۔

لیکن مخالفت کی جو سب سے بڑی وجہ تھی اور جس کا اثر تمام قریش بلکہ تمام عرب پر یکساں تھا، یہ تھا کہ جو معبود یکڑوں برس سے عرب کے حاجت روائے عام تھے اور جن کے آگے ہو ہر

روز پیشانی رگڑتے تھے، اسلام ان کا نام و نشان مناتا تھا اور ان کی
شان میں کہتا تھا:

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حِصْبٌ جَهَنَّمُ﴾
 بلا شہم تم اور جن چیزوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو سب دوزخ
 کے کایندھن ہوں گے۔ (۲۱۳/۱)

قریش کے تحمل کے اسباب :

ان اسباب کے ساتھ جن میں سے ہر ایک قریش کوخت مشتعل کر
 دینے کے لیے کافی تھا، تو قعیقی کہ اعلانِ دعوت کے ساتھ خت
 خوز بیزار شروع ہو جاتی، لیکن قریش نے تحمل سے کام لیا اور اس
 کے ناگزیر اسباب تھے، قریش خانہ جنگیوں میں تباہ ہو چکے تھے اور
 حرب فیار کے بعد اس قدر عاجز آگئے تھے کہ لاٹی کے نام سے
 ڈرتے تھے۔ قبیلہ پرستی کی وجہ سے لاٹی صرف اتنی بات پر
 شروع ہو جاتی تھی کہ کسی قبیلہ کا کوئی آدمی قتل کر دیا جائے، متوسل کا
 قبیلہ بغیر کسی حقین کے انتقام کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا اور جب تک
 بدلتہ لیا جائے، یہ آگ بجھنہیں سکتی تھی۔ رسول اللہ ﷺ کے قتل
 پر آمادہ ہونا قریش کے لیے نہایت آسان تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ
 بنو باشم خون کا انتقام نہ چھوڑیں گے اور پھر سلسلہ بـ سلسلہ تمام کر
 جنگ میں بٹلا ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ اسلام لا چکے تھے اور
 قریباً کوئی قبیلہ ایسا باقی نہ تھا، جس میں دو ایک شخص اسلام نہ لا چکے
 ہوں، اس لیے اسلام اگر جرم تھا تو صرف ایک شخص اس کا جرم نہ
 تھا، بلکہ سیکروں تھے اور سب کا استعمال کرنا ممکن نہ تھا۔

روئے سائے قریش میں متعدد ایسے تھے جو شریف النفس

تھے، اور بد نقصی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے خیال میں یہی نتی کی بنا پر مخالفت کرتے تھے، اس ناپروہ چاہتے تھے کہ معاملہ صلح و آشتی سے طے ہو جائے۔ (۲۲۰-۲۱۹)

غزوہ بدر:

مغربی مورخین کو جن کے نزدیک عالم اسباب میں جو کچھ ہے، صرف اسباب ظاہری کے نتائج ہیں، حیرت ہے کہ تمیں سو پیدل آدمیوں نے ایک ہزار پر جن میں سو سواروں کا رسالہ تھا، کیونکہ فوج پائی؟ لیکن تائید آسمانی نے بارہا ایسے حیرت انگیز مناظر دکھائے ہیں۔ تاہم اس واقعہ میں ظاہرینوں کے اطمینان کے سامان بھی موجود ہیں۔ اول تو قریش میں باہم اتفاق نہ تھا۔ عتبہ سردار لشکر لڑنے پر راضی نہ تھا۔ قبیلہ زہرہ کے لوگ بدر سک آ کر واپس چلے گئے۔ پانی رہنے سے موقع جگ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ قریش جہاں صفائی کرتے، وہاں پچھڑا اور دلدل کی وجہ سے چنان پھرنا مشکل تھا۔ قریش مرغوب ہو کر اسلامی فوج کا تاخینہ غلط کر رہے تھے یعنی اپنے تعداد سے دو گنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے۔

﴿يَرُونَهُمْ مُثْلِيهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ﴾ وہ اپنی انکھوں سے مسلمانوں کو اپنے آپ سے دو گنا دیکھ رہے تھے۔

کفار کی فوج میں کوئی ترتیب اور صفت بندی نہ تھی۔ بخلاف اس کے اخترات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دست مبارک میں تیر لے کر نہایت ترتیب سے صفحی درست کی تھیں۔ مسلمان رات کو اطمینان سے ہوئے تھے۔ فوج اٹھنے تو تازہ دم تھے۔ بخلاف اس کے کفار بے اطمینانی کی وجہ سے رات کو ہونہ لے کے تھے۔ تاہم یہ اسباب

ہیں۔ ان کا جماعت اور تہبیہ یہی تائیدِ الٰہی ہے۔ (۳۲۸-۳۲۹)

غزوات پر دوبارہ نظر:

غیرِ مذہب والوں نے غزوات کے مقاصد اور اسباب کے سچنے میں سخت غلطیاں کی ہیں۔ نہ صرف بد نیتوں نے بلکہ نیک دلوں نے بھی۔ لیکن یہ تجرب کی بات نہیں۔ اسباب ایسے جمع ہیں کہ اس قسم کی غلطیوں پر نہ صرف دوستوں بلکہ دشمنوں کو بھی مخدوسر کھکھتے ہیں۔

اس باب میں سب سے مقدم اور سب سے اہم اس حقیقت کو معلوم کرنا ہے کہ عرب کی قومیت کو ”جنگ و غارِ مجری“ سے کیا تعلق ہے؟ ہر قوم کے اخلاق و عادات، رسوم و معاملات، محاسن و اوصاف، معائب و مثالب، غرض اس کی کل قومی زندگی کا ایک خاص اساس الامر ہوتا ہے کہ سب چیزیں اسی سے فتنی اور اسی سے نشوونما پاتی ہیں۔ عرب میں یہ چیز جنگ و غارِ مجری تھی۔ اس کی ابتداءوں ہوئی کہ عرب ایک دیران ملک تھا۔ کسی قسم کی پیداوار وہاں نہیں ہوتی تھی۔ لوگ ان پڑھ اور جالیں تھے۔ خوش اور پوشش کا قدرتی سامان صرف بھیڑ کریاں اور اونٹ تھے کہ ان کا دودھ اور گوشت کھاتے اور بالوں کو بن کر کمل بناتے تھے۔ لیکن یہ جاندار بھی ہر شخص کو فصیب نہ تھی، یا تھی تو بقدر ضرورت نہ تھی اس لیے محل اور غارِ مجری شروع ہوئی اور محاش کا سب سے بڑا بلکہ تہاڑ ریعہ غارِ مجری قراز پایا۔.....

ضرورت محاش کی وجہ سے تمام عرب میں غارِ مجری اور جنگ عام ہو گئی تھی۔ تمام قبائل ایک دوسرے پر ڈاکہ ڈالتے اور اوت مار کرتے رہتے تھے۔

لڑائی کا اصلی ابتدائی سبب یہ تھا، لیکن جب یہ سلسلہ چھڑا تو اور اس باب بھی پیدا ہو گئے اور یہ اسباب اہمیت اور وسعت کے لحاظ سے، اصلی سبب سے کم نہ تھے۔ ان میں سب سے مقدم اور شدید الارث فرقہ رکا قانون تھا، یعنی جب کسی قبیلے کا کوئی شخص کسی موقع پر قتل ہو جاتا تھا تو مقتول کے قبیلے کو اس کا انتقام لینا فرض ہو جاتا تھا۔ گویکروں برس گزر جاتے تھے اور قاتل بلکہ اس کے خاندان کا نام و نشان مٹ جاتا تھا، تاہم جب تک قاتل کے قبیلے کے ایک آدمی کو قتل نہیں کر لیتا تھا، تو یہ فرض سے ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کو ٹھار کہتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ایک معمولی قتل پر گویکروں بلکہ ہزاروں برس تک مسلسل لڑائیاں قائم ہو جاتی تھیں۔ اسی طریقے کے ابطال کا آنحضرت ﷺ نے جیسا اللوادع میں اعلان کیا تھا اور اپنے قبیلے کے تاتکوں کا خون معاف کر دیا تھا۔ لیکن صحرائشیں عربوں میں آج تک یہ طریقہ قائم اور ان کے قومی خصائص کا جزو اعظم ہے۔

(۵۴۱-۵۴۶)

سلیقہ تحریر و تصنیف :

مولانا شبلی کو قدرت نے تحریر و تصنیف کا ایک خاص سلیقہ و دیوبند فرمایا تھا اور وہ اس خاص وصف میں اپنے تمام معاصرین کے درمیان ممتاز تھے۔ بھی وجہ ہے کہ ان کی تمام تصانیف میں عموماً اور سیرۃ النبی میں خصوصاً بے ربطی، انتشار اور بے ترتیبی کا شاہراہ بھی نہیں گزرتا۔ وہ کسی بھی موضوع پر قلم اٹھانے سے پہلے متعلقہ مواد کی اچھی طرح مچھان میں کرتے ہیں، پھر قابل ذکر جزئیات علاحدہ کر لیتے ہیں۔ پھر جو کہنا چاہتے ہیں اسے اپنے ذہن میں مرتب کر کے صفحہ قرطاس پر اترادیتے ہیں۔ ان معروضات کو ذہن میں رکھ کر سیرۃ النبی کا موازنہ اردو کی کسی بھی دوسری کتاب سیرت سے کیا جائے تو مولانا کے سلیقہ تحریر و تصنیف کا جادو مرچھ کر یوتا ہو انظر آئے گا۔

اس جگہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جز نیات کی فراہمی کے ساتھ ان کی فن کارانہ ترتیب و تنظیم پر قدرت بہت مشکل سے حاصل ہوتی ہے اور اس باب میں مصنفوں عام طور پر اعتدال و توازن کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں، چنانچہ مولا نا حالی چیزے صاحب نظر ناقہ اور صف اول کے ادیب و مصنف سے "حیات جاوید" میں یہی کوتاہی سرزد ہوتی کہ وہ بکھرے ہوئے مواد کو اس کتاب میں پوری طرح سمیٹ نہیں سکے۔

مولانا شبلی کا سلیقہ تحریر یوں تو سیرۃ النبی کے ہر ہر صفحے سے ظاہر ہے لیکن اگر بعض مثالوں کا حوالہ ضروری ہی ہو تو کہا جاسکتا ہے کہ اس کتاب کی جلد اول سے، "مواخاة" کے پورے باب بالخصوص مہاجرین کے تاجران مشاغل کی تفصیلات کا مطالعہ کیا جائے۔ اس سے جز نیات کی فراہمی کے سلسلے میں مولا نا کی جگہ کا وی وثر فتنی، ذہانت و ذکاءت نیز فن تحریر و تصنیف میں ان کی مہارت و لیاقت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

سلسلہ زیر بحث میں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ امام المغازی ابن اسحاق کی روایات سیرت کے بعض حصے، خصیں ابن ہشام نے تلمیح سیرت ابن اسحاق میں حذف کر دیا تھا، مولا نا شبلی نے دوسری کتابوں کی مدد سے کہیں کہیں انھیں ڈھونڈنکالا ہے اور بعض مقامات پر، "سیرۃ النبی" میں انھیں درج بھی کر دیا ہے۔ ہم آئندہ سطور میں اس کی بعض مثالیں نقش کرتے ہیں:

غزوہ خیبر کے واقعات کے ذیل میں مولا نا لکھتے ہیں:

چونکہ معلوم تھا کہ غطفان اہل خیبر کی مدد کو آئیں گے، انحضرت علیہ السلام نے رجع میں فوجیں اتاریں، جو غطفان اور خیبر کے نیچے میں ہے۔ اسباب باربرواری، خیبر و خرگاہ اور مستورات یہاں چھوڑ دی گئیں۔ (۲۸۳)

یہ تفصیل ابن اسحاق کی اصل روایت میں موجود تھی، لیکن ابن ہشام نے اپنی تلمیح میں اسے حذف کر دیا تھا۔ اتفاق کی بات کہ یا قوت حموی کی بھرم الیلد ان میں یہ حذف شدہ مکمل موجود تھا۔ مولا نا کی اس محنت کی وادی بھی چاہیے کہ انھوں نے جغرافیہ کی اس کتاب سے اپنے کام کی بات ڈھونڈنکالی۔

ای طرح قمیلہ دوں کے وفد کی آمد سے متعلق ابن احیا کی روایت بھی، "سیرت ابن حشام" میں مذکور نہیں ہے۔ اتفاق سے علامہ ابن القیم الجوزی یہ نے، "زاد المعاد" میں پوری روایت درج کر دی ہے۔ چنانچہ مولانا شیلی نے زاد المعاد کے حوالے سے اسے نقل کر دیا ہے۔
(زاد المعاد ۳/۲۲۶، ۲۲۶، سیرۃ النبی ۲/۳۲)

نمایز کی فرضیت اور شراب کی حرمت سے متعلق احکام کا نزول بتدریج کس طرح ہوا؟
مولانا شیلی نے ان امور سے متعلق بھی سیرۃ النبی میں بہت عدمہ غلطگوی ہے اور بڑی خوبی سے جزئیات فراہم کی ہیں۔ (۱۳۶/۲، ۱۱۳/۲، ۳۲/۲)

"سیرۃ النبی" کی انفرادیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مولانا شیلی نے شاہ ولی اللہ وہلوی صاحب، "جنتۃ اللہ البالغ" کے انداز پر اسلامی تاریخ اور سیرت کے بعض واقعات کی حکمتیں اور مصلحتیں بھی بیان کی ہیں۔ سیرت کی قدیم کتابیں ان عنوانات اور مباحث سے خالی چھیں۔
مثال کے طور پر، "مواخات" کی حکمت و مصلحت سے متعلق مولانا کا بیان ملاحظہ ہو:

مواخات کا رشتہ ظاہر ایک عارضی ضرورت کے لیے قائم کیا گیا کہ
بے خانمان مہاجرین کا چند روزہ انتظام ہو جائے، لیکن درحقیقت یہ
عقلیم الشان اغراض اسلامی کی تکمیل کا سامان تھا۔

اسلام تہذیب اخلاق و تکمیل فضائل کی شانشناہی ہے۔

اس سلطنتِ الہی کے نئے وزراء، ارباب تدبیر، سپہ سالاران لشکر، ہر
قابلیت کے لوگ درکار ہیں۔ شرف صحبت کی برکت سے مہاجرین
میں ان قابلیتوں کا ایک گروہ تیار ہو چکا تھا اور ان میں یہ وصف پیدا
ہو چکا تھا کہ ان کی درس گاہ تربیت سے اور ارباب استعداد بھی
تربيت پا کر لکھیں اس بنا پر جن لوگوں میں رشته کا خوت قائم کیا گیا،
ان میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ استاد اور شاگرد میں وہ اتحاد
نداق موجود ہو، جو تربیت پذیری کے لیے ضرور ہے تفہص اور
استقصاء سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص جس کا بھائی بنایا گیا دونوں میں

یہ اتحاد مذاق ملحوظ رکھا گیا، اور جب اس بات پر لحاظ کیا جائے کہ اسی
کم مدت میں سیکڑوں اشخاص کی طبیعت اور فطرت کا سمجھ اور پورا
اندازہ کرنا قریباً ناممکن ہے، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ شان نبوت کی
خصوصیات میں سے ہے۔ (۲۹۰/۲۸۹)

مولانا نے اسی انداز پر، "حوالہ قبلہ" کی حکومتوں اور مصلحتوں سے متعلق بھی بہت نفیس
اور بہسوط بحث کی ہے، جو سیرۃ النبی کے چار صفات کو محیط ہے۔ (۳۰۳-۲۹۹)

مستشرقین کا رد وابطال :

سیرۃ النبی کی تصنیف سے مولانا شبی کا اصل مقصد یہ تھا کہ آنحضرت القدس ﷺ کی
سیرت و شخصیت سے متعلق مستشرقین یورپ کی غلط بیانیوں کا رد وابطال کیا جائے اور خاص طور
پر ان مسلم نوجوانوں کے شکوہ و شبہات کا ازالہ کیا جائے، جن کے ذہن میں ذات نبوی کے
متعلق منور خصین یورپ کی زہرا فشنائیوں سے مسوم ہو چکے ہیں، چنانچہ مولانا مقدمہ سیرت میں
خود رقم طراز ہیں:

یورپ کے موئیخیں آنحضرت ﷺ کی جو اخلاقی تصور یہ کہیجتے ہیں
و نعوذ بالله ہر قسم کے معائب کا مرتع ہوتی ہے، آجکل مسلمانوں
کو جدید ضرورتوں نے عربی علوم سے بالکل محروم کر دیا ہے۔ اس
لیے اس گروہ کو اگر کبھی پیغمبر اسلامؐ کے حالات اور سوانح کے
دریافت کرنے کا شوق ہوتا ہے تو انھیں یورپ کی تصنیفات کی
طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح یہ زہرا لوڈ معلومات آہستہ
آہستہ اڑ کرتی جاتی ہیں اور لوگوں کو خبر نہیں ہوتی۔ یہاں تک
کہ ملک میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے، جو پیغمبرؐ کو حض ایک مصلح
سمجھتا ہے، جس نے اگر مجتمع انسانی میں کوئی اصلاح کر دی تو اس کا
فرض ادا ہو گیا، اس بات سے اس کے منصب نبوت میں کوئی فرق

نہیں آتا کہ اس کے دامن اخلاق پر معصیت کے دھنے بھی ہیں۔
یہ واقعات تھے جنہوں نے مجھ کو بالآخر مجبور کیا، اور میں نے سیرت
نبوی پر ایک بہسٹ کتاب لکھنے کا ارادہ کر لیا۔ (ارے)

اس کے بعد مولانا نے مقدمہ ہی میں ”یورپین تصنیفات“ کا عنوان قائم کر کے چودہ
پندرہ صفحات پر مشتمل ایک بہسٹ اور جامع بحث کی ہے، جس میں اسلام اور پیغمبر اسلام سے
متعلق الہ مغرب کے عہد پر عہد انکار و خیالات پر روشنی ڈالی ہے۔ نیز علوم عربیہ اور خاص طور پر
سیرت کے موضوع پر مغربی مصنفین کی کتابوں کی مختصر تاریخ بیان کی ہے۔ پھر ان کتابوں کے
انداز نگارش اور مشترکہ معاہب کی نشاندہی کی ہے۔ اس ضمن میں مولانا نے مستشرقین کی ان
کتابوں کی فہرست بھی پیش کی ہے، جن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر ہمارے
دفتر تصنیف میں موجود ہیں، یا ہم ان سے متعلق ہو چکے ہیں، راقم عرض کرتا ہیں۔ جیسا کہ ۳ کتابیں
ہیں۔ ان کا زمانہ تصنیف ۱۸۰۹ء تک کے عرصے کو میط ہے۔ ان کے مصنفین میں
کی وطنی نسبت انگلستان سے ہے، یہ کی جرمی سے، یہ کی فرانس سے، یہ کی ہولینڈ سے۔ ایک
کا وطن اٹلی ہے اور ایک کی وطنی نسبت مذکور نہیں۔

ان تصنیفات کے ذکر سے اس طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ سیرۃ النبی کو دوسری کتب
سیرت کے درمیان اس پہلو سے بھی امتیاز حاصل ہے کہ اس میں سیرت نبوی کے متعلق مستشرقین
یورپ کے اعتراضات و اشکالات کے جوابات دیے گئے اور نوجوان ذہنوں کی تسلیم و تشفی کے
سامان خاص طور پر بہم پہنچائے گئے ہیں۔ پھر چونکہ مصنف سیرۃ النبی نے مغربی مصنفین کے انکار
و خیالات اور اعتراضات و اشکالات سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی تھیں اور
بالواسطہ یا بلاواسطہ ان کی کتابوں کا خاص طور پر مطالعہ کیا تھا، یہاں تک کہ اپنے منسوبے
میں سیرۃ النبی کے پانچویں حصے کو انہوں نے یورپین تصنیفات کے لیے خاص کر لیا تھا، اس لیے (ا
موجودہ ناکمل صورت میں بھی) سیرۃ النبی کو مستشرقین کے روایات کے سلسلے میں مرید
احمد خاں کی خطبات احمدیہ اور دوسرے معاصر سیرت نگاروں کی کتابوں پر فوقيت و برتری حاصل
نہ ہے۔ تکی وجہ ہے کہ مغربی مصنفین سے مرغوب ذہنوں کو سیرۃ النبی نے جس قدر متاثر کیا، کوئی

دوسری کتاب نہ کر سکی۔ اس سلسلے میں مولا نا عبدالمadjد دریابادی کا بیان ملاحظہ ہو جسکی حیثیت جگہ بھی نہیں بلکہ آپ بھی کی ہے۔ موصوف اپنے دورالخاد و تشکیک کی سرگزشت کے ضمن میں لکھتے ہیں مولا نا شبی کی سیرۃ النبی کی جلد اول پر یہیں سے باہر آگئی۔ کتاب شبی کے قلم سے تھی۔ موضوع کچھ بھی کمی، کیسے نہ اس کوشق کے ہاتھوں سے کھولتا؟ اور اشتیاق کی آنکھوں سے پڑھتا؟ کھولی اور جب تک اول سے آخر تک پڑھنے لی دم نہ لیا۔ دل کا اصلی چور تو یہیں تھا اور نفس شوم کو سب سے بڑی ٹھوکر جو گئی تھی، وہ اسی سیرت اقدس نکے متعلق تھی، مستشرقین اور تحقیقین فریگ کے حللوں کا اصل ہدف تو ذات رہا۔ یعنی، خصوصاً پسلسلہ غزوات و محاربات۔ ظالموں نے بھی طرح طرح سے دل میں بخدا دیا تھا کہ ذات مبارک نعوذ بالله بالکل ایک ظالم فاتح کی تھی۔ شبی نے (اللہ اکلی تربت ٹھنڈی رکھے) اصل دوا اسی درد کی کی۔ مرہم اسی زخم پر رکھا، اور جب کتاب بند کی تو چشم تصور کے سامنے رسول عربی ﷺ کی تصور یہ ایک بڑے مصلح ملک و قوم اور ایک رحمد و فیاض حاکم تھی، جس کو اگر جدال و قتال سے کام لیتا پڑا تھا، تو پھر بالکل آخر درجے میں، یہ مرتبہ آج ہر مسلمان کو رسول و نبی کے درجے سے فروز نظر آئے گا اور شبی کی کوئی قیمت نظر میں نہ آئے گی، لیکن اس کا حال ذرا اس کے دل سے پوچھیے، جس کے دل میں نعوذ بالله پورا بعض و عناد اس ذات اقدس کی طرف سے جما ہوا تھا۔ شبی کی کتاب کا یہ احسان میں بھی بھولنے والا نہیں۔

(آپ بھی، عبدالمadjد دریابادی ص ۲۲۸)

مستشرقین کے رد و ابطال کے سلسلے میں مولا نا شبی سے متعدد تحقیقی فرد و گذاشتہ ہوئی ہیں، لیکن ہم ان کا ذکر اس کتاب کے دوسرے ابواب میں کریں گے۔

عالما نہ طرز تناطیب:

سیرہ النبی کی ایک خصوصیت جو اس کتاب کے ہر قاری کو متاخر کرتی ہے، وہ عالما نہ طرز تناطیب، ہے عالما نہ طرز تناطیب سے مراد یہ ہے کہ مولانا شبلی نے اس کتاب کوشش سے آخر تک حوالوں سے مزین رکھا ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ تفسیر، حدیث، اصول حدیث، اسماء اثر جمال تاریخ، سیرت اور مخازی کی اہم اور مشہور کتابوں کے حوالے اس کتاب میں جا بجا ملیں گے۔ خاص طور پر اس وقت مولانا کا ذراور استدلال اور بڑھ جاتا ہے، جب مغربی مصنفین کے کسی اعتراض کا جواب دینا۔ مثلاً مذہب یہاں مثال کے طور پر ذیل کا اقتباس ملاحظہ ہو۔ غزوہ خیبر کے بیان میں لکھتے ہیں:

مرحب بڑے طمراق سے آیا، لیکن حضرت علیؑ نے اس زور سے تکوار ماری کہ سر کو کامی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، اور ضربت کی اوڑ فوج تک پہنچی۔ (طبری ص ۱۵۷۶) پبلوان کا مارا جانا عظیم الشان واقع تھا، اس لیے عجائب پسندی نے اس کے متعلق نہایت مبالغہ آمیز افواہیں پھیلادیں۔ معالم التنزیل میں ہے کہ حضرت علیؑ نے جب تکوار ماری تو مرحب نے پس پر رکا، لیکن ذوالفقار خود اور سر کو کامی ہوئی دانتوں تک اتر آئی۔ مرحب کے مارے جانے پر یہود نے عام حلہ کیا تو اتفاق سے حضرت علیؑ کے ہاتھ سے پس چھوٹ کر گر پڑی۔ آپ نے قلعہ کا در جو سرتاپا پارہ سنگ تھا اکھاڑ کراس سے پر کا کام لیا۔ اس واقعے کے بعد ابو رافع نے سات آدمیوں کے ساتھ مل کر اس کو اٹھانا چاہا، تو مجھ سے بھی نہ مل سکا۔ یہ روایتیں ابن اسحاق اور حاکم نے روایت کی ہیں، لیکن بازاری قصے ہیں۔ علامہ سقاوی نے مقاصد حسنہ میں تصریح کی ہے کہ کلہا واهیہ سب لغور روایتیں ہیں۔

خصوصیات و انتیزات

۵۰

علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں علی بن احمد فروخ کے

حال میں اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے :

یہ روایت منکر ہے۔ ابن ہشام نے جن سلسلوں سے یہ روایتیں نقل کی ہیں، ان میں سے ایک روایت میں تونج کے ایک راوی کا نام سرے سے چھوڑ دیا ہے اور دوسرے میں اس مشترک شخص کے ساتھ بریدہ بن سفیان بھی ایک راوی ہیں، جن کو امام بخاری اور ابوداود اور دارقطنی قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔

(میزان الاعتدال ترجمہ بریدہ بن سفیان)

ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ اور واقری کا بیان ہے کہ مرحوب کو محمد بن مسلمہ نے مارا تھا۔ مند ابن خبل اور نووی شرح صحیح مسلم میں بھی ایک روایت ہے، لیکن صحیح مسلم (اور حاکم ج ۲ ص ۳۹) میں حضرت علیؓ ہی کو مرحوب کا قاتل اور فاتح خیر لکھا ہے اور یہی اصح الروایات ہے۔ (۳۸۸/۱ - ۳۸۹)

سیرۃ النبی کا ذکر وہ بالا اقتباس ہمارے مدعا کے اثبات کے لیے کافی ہے۔



باب دوم

مواد مشتملات

اس کتاب کے پہلے باب میں اس پہلو پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے کہ مولانا شبلی کی سیرۃ النبی اردو کتب سیرت کے درمیان ایک ممتاز مقام کی حاصل ہے اور یہ کہ طاقت و ر اور موثر اسلوب بیان، مورخانہ شعور و آگبی، منفرد سلیقہ تحریر و تصنیف، عالمانہ طرز تخطاطب اور مشترقین کے رد و ابطال کے لحاظ سے سیرت کی کوئی کتاب "سیرۃ النبی" کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب یہی یہ دیکھنا ہے کہ تحقیق و استناد کے لحاظ سے اس کتاب کا کیا درج ہے؟ مولانا شبلی نے مقدمہ سیرۃ النبی میں یہ بتاڑ دیا ہے کہ ان کا ارادہ سیرت کے موضوع پر ایک مستند تصنیف تیار کرنے کا ہے کیونکہ سیرت کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو صرف صحیح روایتوں پر مشتمل ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

خاص سیرت پر آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جس میں
صرف صحیح روایتوں کا انتظام کیا جاتا۔

حافظ زین الدین عراقی جو حافظ ابن حجر کے استاد تھے، سیرت نبوی میں لکھتے ہیں:

وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ماصح وما قد انكرا
یہی سبب ہے کہ مستند اور مسلم الثبوت تصنیفات میں بھی بہت سی

روایتیں شامل ہو گئیں، اس بنا پر ضروری تھا کہ نہایت کثرت سے حدیث و رجال کی کتابیں بھم پیچائی جائیں، اور پھر نہایت تحقیق اور تنقید سے ایک مستند تصنیف تیار کی جائے۔ (ج ۱۰ ص ۱۰)

اس کے بعد مولانا نے سیرت نبوی سے متعلق قدیم ذخیرے کی تاریخ اور کیفیت سے بحث کی ہے جو کم و بیش میں عقاید پر مشتمل ہے، جس کی غرض خود ان کے قول کے مطابق یہ ہے کہ ایک کامل اور مستند کتاب کے مرتب کرنے کے لیے اس ذخیرے سے کیونکر کام لیا جا سکتا ہے اور کہاں تک تحقیق و تنقید کی ضرورت ہے۔ (ج ۱۲ ص ۱۰)

مولانا سید سلیمان ندوی نے مولانا شبلی کے محملہ بالا مقدمہ سیرت کے اہم مباحث کی ”نتائج مباحثہ مذکورہ“ کے عنوان سے تلمیخ فرمائی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسے یہاں نقل کر دیا جائے کیونکہ اس سے ان اصولوں کا پتہ چلتا ہے۔ جو سیرۃ النبی کی تصنیف کے دوران مولانا شبلی کے پیش نظر ہے ہیں۔

۱۔ سب سے پہلے واقع کی تلاش قرآن مجید میں، پھر احادیث صحیح میں، پھر عام احادیث میں کرنی چاہیے۔ اگر نہ طقوں و علیات سے سیرت کی طرف توجہ کرنی جائے۔

۲۔ سیرت کی روایتیں پہ اعتبار پائیے صحیح احادیث کی روایتوں سے فروتنہ ہیں اس لیے بصورت اختلاف روایات احادیث کو ہمیشہ ترجیح دی جائے گی۔

۳۔ پہ صورت اختلاف روایات احادیث، روایۃ ارباب فقہ و بوش کی روایات کو دوسروں پر ترجیح ہو گی۔

۴۔ سیرت کے واقعات میں سلسلہ علل و معلول کی تلاش نہایت ضروری ہے۔

۵۔ نوعیت واقعہ کے لحاظ سے شہادت کا معیار قائم کرنا چاہیے۔

۶۔ روایت میں اصل واقعہ کس قدر ہے؟ اور ادی کی ذاتی رائے و فہم کا کس قدر جز شال ہے؟

۷۔ اسباب خارجی کا کس قدر راڑ ہے؟

۸۔ جو روایت عام و جو عقلی، مشاہدہ عام، اصول مسلمہ اور قرآنی حال کے خلاف ہو گی لائق

جنت شہوگی۔

۹۔ اہم موضوع پر مختلف روایات کی تلفیق و جمع سے اس کی تسلی کرنی چاہیے کہ راوی سے اداۓ فہم میں تو غلطی نہیں ہوئی ہے۔

۱۰۔ روایات آحاد کو موضوع کی اہمیت اور قرآن حوال کی مطابقت کے لحاظ سے قبول کرنا چاہیے۔

۱۱۔ ان اصولوں کو تحریر کرنے کے بعد سید صاحب اسلامی فن روایت پر فخر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :

ان اصولوں کی تقریر و تفصیل کے بعد نظر آ سکتا ہے کہ اسلامی فن روایت، عقل و درایت کی نگاہ سے کس قدر بلند پایہ ہے؟ علامے حدیث نے صحیح روایت کے لیے کتنی محنت تھی جاں فشائی، کتنی دیدہ ریزی اور کتنی وقت رسی صرف کی ہے۔ کیا اس اہتمام و اعتناء کا دنیا کی دیگر قوموں کے سرمایہ تاریخ و روایت میں ایک ذرہ نشان بھی موجود ہے؟ کیا پورپ کے سیرت نگاران پیغمبر اسلام اسلام میں سے کسی نے بھی اس جاں کا ہی اور کٹلہ بھی کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی لائف کے لیے قلم اخایا ہے؟ اور کیا ایک غیر مسلم اپنے قواعد و اصول کی مراغات کے ساتھ قلم اخایا بھی سکتا ہے؟ (نچاس ۸۵)

مذکورہ بالا بیانات سے یہی متریخ ہوتا ہے کہ مولانا شبیل سیرت کی قدیم کتابوں سے مطمئن نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سیرت کے موضوع پر صحیح روایات کے التراجم کے ساتھ ایک مستند کتاب مرتب ہو جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہ بلند معیار پیش نظر رکھنا چاہتا ہے کہ سیرت کے واقعات اولاً قرآن مجید سے اخذ کیے جائیں۔ بعدہ احادیث کی کتابوں سے مراجعت کی جائے۔ سب سے آخر میں کتب سیرت کی روایات کام میں لائی جائیں۔ مزید برآں روایات کی ترجیح کے باب میں محدثین کے دو قسم اصولوں سے استفادہ کیا جائے۔

مقدمہ کتاب ہی میں مذکور مولانا کی بعض دوسری عبارتوں سے بھی مضمون بالا کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ ”اصول تصنیف و ترتیب“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں :

مادو مشتقات

۵۲

ہم نے اس کتاب میں جو اصول اختیار کیے ہیں، اب ان کے
ہتھے کا وقت آگیا ہے۔

(۱) سب سے پہلے یہ کہ سیرت کے واقعات کے متعلق جو کچھ

قرآن مجید میں مذکور ہے، ان کو سب پر مقدم رکھا جائے۔

(۲) قرآن مجید کے بعد حدیث کا درجہ ہے۔ احادیث صحیح

کے سامنے سیرت کی روایتیں نظر انداز کر دی ہیں۔ جو واقعات

بخاری و مسلم وغیرہ میں مذکور ہیں ان کے مقابلے میں سیرت یا

تاریخ کی روایت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارباب سیر کو ایک بڑی

غلطی یہ ہوتی کہ وہ واقعات کو کتب حدیث میں ان موقعوں پر

ڈھونڈتے ہیں، جہاں عنوان اور موضوع کے لحاظ سے اس کو درج

ہوتا چاہیے اور جب ان کو ان موقعوں پر کوئی روایت نہیں ملتی تو وہ کم

درجے کی روایتوں کو لے لیتے ہیں۔ لیکن کتب حدیث میں ہر حرم

کے نہایت تفصیلی واقعات میں خود صحاح ست کی روایتیں مل جاتی ہیں۔

ہماری اس کتاب کی بڑی خصوصیت یہی ہے کہ کافر تفصیلی واقعات ہم

نے حدیث ہی کتابوں سے ڈھونڈ کر مہیا کیے، جو اہل سیر کی نظر سے

بالکل اوجمل رہ گئے تھے۔ (ج اص ۱)

ان عمارتوں کو پڑھ کر قاری کا ذہن اسی طرف منتقل ہوتا ہے کہ مصنف سیرۃ النبی نے

پوری کتاب میں ان اصولوں کو مخوذ رکھا ہوگا اور سیرت کے ہر جزیئے سے متعلق قرآن مجید،

احادیث صحیح اور آخر میں کتب سیرت سے مراجعت کی ہوگی۔ پھر محدثین کرام کے قائم کردہ

اصول روایت و درایت کو کام میں لاتے ہوئے ایک ایک روایت کو سند و متن ہر دو لحاظ سے

جانچنے اور پر کھنے کے بعد ہی اپنی کتاب میں جگہ دی ہوگی۔ لیکن مذکورہ بالا اصول (۱) و (۲) کے

بعد اصول (۳) کے تحت خود مولا ناشیلی نے ہی اس خوش فہمی کا ازالہ کر دیا ہے اور صاف صاف

ہتا دیا ہے کہ انہوں نے ان اصولوں پر ہر جگہ عمل نہیں کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں :

(۳) روز مرہ اور عام واقعات میں اہن سعد، اہن ہشام اور طبری کی عام روایتیں کافی خیال کی ہیں۔ لیکن جو واقعات کچھ بھی اہمیت رکھتے ہیں، ان کے متعلق تحقیق اور تنقید سے کام لیا ہے اور تا امکان کدو کاوش کی ہے۔ اس خاص ضرورت کے لیے ہم نے پہلا کام یہ کیا اہن ہشام، اہن سعد اور طبری کے تمام رواۃ کے نام الگ انتخاب کر لیے، جو، کا، تعداد سیکڑوں سے متباہز ہے۔ پھر اسامہ الرجال کی کتابوں سے انہی جرح و تعدیل کا نقش تیار کیا تا کہ جس سلسلہ روایت کی تحقیق مقصود ہو، با آسانی ہو جائے۔ (ج اص ۱۰۱)

اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف سیرۃ النبی نے واقعات سیرت کو دو حصوں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک ”روز مرہ اور عام واقعات“ دوسرے ”اہم واقعات“ پھر تحقیق و تنقید اور مدد عائد کدو کاوش کو اہم واقعات کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ باقی رہے روز مرہ اور عام واقعات تو باب میں خود مصنف کے اعتراض و اقرار کے مطابق سیرۃ النبی اور دوسری کتب سیرت کے میان کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی اس قسم کے واقعات کے سلسلے میں صحیح و سقیم، رطب و یابس ہر قسم کی روایات جمع کردی گئی ہیں۔ بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیرۃ النبی میں شامل جملہ واقعات، روایات اور جزئیات علی الاطلاق محدثانہ صحت کے معیار پر پوری نہیں اُترتیں اور نہ مصنف نے ہر جگہ اس قسم کی صحت کا التزام کیا ہے البتہ ان کے نزدیک جو واقعات کچھ بھی اہمیت رکھتے تھے تحقیق و تنقید اور تاحذہ امکان کدو کاوش سے لکھے گئے ہیں۔ اس کی تائید مصنف کی درجہ عبارت سے بھی ہوتی ہے۔

جو واقعات کسی قدر اہم ہیں ان کے متعلق صرف صحیح حدیثوں یا مستند تاریخی روایتوں کا حوالہ دیا ہے۔ لیکن عام واقعات یا غزوہ وات کے متعلق جزویات کی تفصیل میں محدثانہ کدو کاوش نہیں کی ہے۔

(ج اص ۱۰۲)

تحقیق و تنقیدی مباحث اگرچہ تمناؤں اور آرزوؤں کا محل نہیں ہیں اور یہاں حرف

کاش کے استعمال کا کوئی موقع نہیں ہے تاہم راقم عرض پر دواز ہے کہ کیا خوب ہوتا اگر مولا ناٹھلی نے واقعات سیرت کے سلسلے میں اہم اور غیر اہم کی تفریق نہ برتری ہوتی اور پوری کتاب میں روایات کی صحت کا التزام کیا ہوتا۔ بالخصوص اس لیے کہ انہوں نے سیرت کے مأخذ کی حیثیت سے قرآن مجید اور کتب احادیث کا غائر مطالعہ کیا تھا اس کے علاوہ ابن ہشام ابن سعد اور طبری جیسی بنیادی کتب سیرت و تاریخ کے سیکڑوں راویوں کے نام اختیاب کر کے اسماء الرجال کی کتابوں سے ان کی جرح و تعدیل کا نقشہ بھی تیار کر لیا تھا۔ مزید برآں انھیں اس کا احساس بھی تھا کہ خاص سیرت کے موضوع پر کوئی کتاب صحت کے التزام کے ساتھ نہیں لکھی گئی ہے۔

بہر حال اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مصنف سیرۃ النبی نے سیرت کے اہم اور غیر اہم یعنی روزمرہ واقعات کے درمیان حد فاصل کیا قائم کی ہے؟ افسوس ہے کہ اس باب میں خود مصنف کا کوئی واضح بیان نہیں ملتا۔ البتہ بعض دوسرے مباحث کے سلسلے میں مصنف کے پیاناں کی مدد سے بعض نتائج کا استنباط ضرور کیا جاسکتا ہے۔ مقدمہ سیرۃ النبی میں ایک عنوان ”یورپین تصنیفات“ کے تحت مولا ناٹھلی نے سیرت کے موضوع پر یورپین تصنیفات کی تاریخ اور کیفیت کا مختصر لیکن جامع تجزیہ کیا ہے اور آخر میں ”یورپین تصنیفات کے اصول مشترک“ کے ذیلی عنوان کے تحت درج ذیل عبارت تحریر کی ہے :

یورپین مصنفین آنحضرت ﷺ کے اخلاق کے متعلق جو کہتے چیلیاں کرتے ہیں، یا ان کی تصنیفات سے جو کہتے چیلیاں خود بخود ناظرین کے دل میں پیدا ہوتی ہیں حسب ذیل ہیں :

(۱) آنحضرت ﷺ کی زندگی کے معظیر تک پیغمبرانہ زندگی ہے، لیکن بدینہ چاکر جب زور و قوت حاصل ہوتی ہے، تو وغیرہ پیغمبری بادشاہی سے بدل جاتی ہے اور اس کے جواہر ہیں یعنی لکھر کشی، قتل، انتقام، خون ریزی خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۲) کثرت ازدواج اور میل الی النساء۔

(۳) نہب کی اشاعت جبرا اور زور سے۔

(۴) لوغڑی اور غلام بنانے کی اجازت اور اس پر عمل۔

(۵) دنیا داروں کی حکمت عملی اور بہانہ جوئی۔

اس بنابرہ ماری کتاب کے ناظرین کو تمام واقعات میں اُس سکتے ہے
نظر رکھنی چاہیے کہ یہ اعتراضات تاریخی تحقیقات کے معیار میں بھی
ٹھیک اتر سکتے ہیں یا نہیں؟ (ج ۱، ص ۹۹-۱۰۰)

اس بیان کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ ہر ایسی روایت یا واقعہ جس کی مدد سے یورپیں
مصنفین آنحضرت اقدس ﷺ کی سیرت و شخصیت پر کوئی اعتراض وارد کرتے ہوں یا اسلام اور
اس کی تعلیمات پر طعنہ زنی کرتے ہوں مصنف سیرۃ النبیؐ کے نزدیک "اہم واقعات" کے ضمن
میں شمار کیا جائے گا۔ لہذا اسے محدثانہ اصول روایت و درایت کی کسوٹی پر کسا جائے گا اور دیکھا
جائے گا کہ وہ تاریخی تحقیق کے معیار پر ٹھیک اترتا ہے یا نہیں؟ اس کے برخلاف سیرت سے
متعلق وہ تمام روایات و واقعات جن پر یورپیں مصنفین نے کوئی اعتراض وارد نہ کیا ہو، عام اور
روزمرہ و واقعات سمجھے جائیں گے۔ ان سے متعلق محدثانہ کدوکاوش اور تحقیق و تدقیق کی ضرورت نہ
ہوگی۔ بدالفاظ دیگر اس باب میں ضعیف، مرسل، منقطع، معصل کسی بھی طرح کی روایت قبول
کر لی جائے گی۔

ممکن ہے کسی ذہن میں یہ خیال آئے کہ سیرت کے اہم اور غیر اہم واقعات کے
درمیان تفریق کا اصول جو سطور بالا میں تحریر کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ایجاد بندہ کی قبیل سے ہو
اور مصنف سیرۃ النبیؐ کی جانب اس کا انتساب درست نہ ہو، لیکن واقعہ یہ ہے کہ سیرۃ النبیؐ، اسی
انداز پر تکمیل ہے۔ چنانچہ اصل کتاب کی در حقیقت گردانی سے اس کی تصدیق کی جاسکتی ہے، یہاں
مثال کے طور پر سیرۃ النبیؐ کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

ابو طالب تجارت کا کاروبار کرتے تھے، قریش کا دستور تھا۔ سال میں
ایک دفعہ تجارت کی غرض سے شام کو جایا کرتے تھے، آنحضرت ﷺ
کی عمر تقریباً بارہ برس کی ہو گئی کہ ابو طالب نے حسب دستور شام کا
ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ آنحضرت ﷺ کو ساتھ

فہیں لے جانا چاہتے تھے۔ لیکن آنحضرت ﷺ کو ابوطالب سے اس قدر محبت تھی کہ جب ابوطالب چلنے لگے تو آپ ان سے پٹ گئے، ابوطالب نے آپ کی دل ٹکنی گوارہ نہ کی اور ساتھ لے لیا۔

عام موئین کے بیان کے موافق بھیرا کاشمہر واقعہ اسی سفر میں پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جب ابوطالب بصری میں پہنچے تو ایک عیسائی را ہب کی خانقاہ میں اترے جس کا نام بھیرا تھا۔ اس نے آنحضرت ﷺ کو دیکھ کر کہا کہ ”یہ سید المرسلین“ ہیں۔ لوگوں نے پوچھا تم نے کیونکر جانا؟ اس نے کہا جب تم لوگ پہاڑ سے اترے تو جس قدر درخت اور پتھر تھے سب بجدے کے لیے جگ گئے۔ (ج ۱، ص ۱۷۸)

مذکورہ بالا اقتباس کے پہلے پیرا گراف میں درج ذیل باتیں گئی ہیں :

(الف) ابوطالب تجارت پیش تھے اور قریش کے دستور کے مطابق سال میں ایک مرتبہ بغرض تجارت شام کا سفر کیا کرتے تھے۔

(ب) آنحضرت ﷺ کی عمر تقریباً بارہ سال تھی کہ ابوطالب نے حسب دستور شام کے لیے رخت سفر باندھا۔

(ج) کسی وجہ سے وہ سفر آنحضرت ﷺ کے بغیر کرنا چاہتے تھے۔

(د) ابوطالب جب چلنے لگے تو آنحضرت ﷺ فرط محبت کے سبب ان سے پٹ گئے۔

(ه) ابوطالب نے آپ کی دل ٹکنی گوارہ نہ کی اور ساتھ لے لیا۔

صفیرۃ النبی نے ان میں سے کسی بیان یا کسی واقعے کے لیے کوئی حوالہ نہیں دیا ہے۔ لہذا یہ کہنی سے پہنچنی لگتا کہ مندرجہ بالا تمام بیانات کسی ایک روایت میں ان کی نکاح سے گذرے ہیں، یا الگ الگ روایات سے حاصل شدہ معلومات ایک ترتیب کے ساتھ جمع کر دی گئی ہیں۔ رہنماء اس تم کے مباحث کر ان معلومات کا مأخذ کیا ہے؟ اس کی سند کیسی ہے؟ اس کے

مولانا شبل بیشیت سیرت نگار

رواہ کس درجے کے ہیں؟ اس میں کہیں ارسال یا انقطاع تو نہیں ہے؟ وغیرہ تو اس کا سوال ہی کہاں المحتا ہے، جب کہ مرے سے حوالہ ہی غائب ہے۔

اس کے بخلاف اقتضاس مذکورہ کے دوسرے پیرو اگر ف میں بحیرا اہب کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کے متعلق مصنف نے روایت و درایت ہر دلخواہ سے زبردست بحث کی ہے اور محمد بن دکوه کاوش میں کوئی کسر یا تینیں چھوڑی ہے۔

اس تفریق کی وجہ یہ ہے کہ اول الذکر بیانات و واقعات پر یورپیں مصنفوں سیرت نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے اس کے بخلاف بحیرا اہب کے واقعے سے وہ اپنے بعض یہود و دعووں اور باطل مزاعمات پر استدلال کرتے ہیں جس کی تفصیل خود مولانا شبلی کے الفاظ میں ملاحظہ ہو :

یہ روایت مختلف پیرايوں میں بیان کی گئی ہے۔ تجرب یہ ہے کہ اس روایت سے جس قدر عام مسلمانوں کو شفف ہے اس سے زیادہ عیسائیوں کو ہے۔ سرویمیمور، ذر پیر، مارکیلوں وغیرہ سب اس واقعے کو عیسائیت کی فتح عظیم خیال کرتے ہیں اور اس بات کے مدعا ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مذهب کے حقائق و اسرار اسی راہب سے سکھے، اور جو سکھے اس نے تادیے تھے انہی پر آنحضرت ﷺ نے عنانہ مسلمان کی بنیاد رکھی، اسلام کے تمام عمدہ اصول انہی نکتوں کے شروع اور خواشی ہیں۔ (ج ۱، ۱۷۹)

اب اس روایت پر مولانا شبلی کی بحث و تقدیر ملاحظہ ہو۔ لکھتے ہیں :

عیسائی مصنفوں اگر اس روایت کو صحیح مانتے ہیں تو اس طرح ماننا چاہیے جس طرح روایت میں مذکور ہے۔ اس میں بحیرا کی تعلیم کا کہیں ذکر نہیں۔ قیاس میں بھی نہیں آسکا کہ دس بارہ برس کے پیچے کو مذهب کے تمام حقائق سکھا دیے جائیں اور اگر کوئی خرق عادت تھا، تو بحیرا کے تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

یہ نکل گواصول روایت کی رو سے تھی۔ اب اصول روایت کے لحاظ سے اس پر بحث ملاحظہ ہو :

مواد مشکلات

۴۰

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت ناقابل اعتبار ہے۔ اس روایت کے جس قدر طریقے ہیں، سب مرسل ہیں، یعنی راوی واقعہ کے وقت خود موجود نہ تھا اور اس راوی کا نام نہیں بیان کرتا جو شریک واقعہ تھا۔ اس روایت کا سب سے زیادہ مستند طریقہ یہ ہے کہ جو ترمذی میں مذکور ہے اس کے متعلق تین باتیں قابلِ لحاظ ہیں۔

(۱) ترمذی نے اس روایت کے متعلق لکھا ہے کہ "حسن اور غریب ہے اور ہم اس حدیث کو اس طریقے کے سوا کسی اور طریقے سے نہیں جانتے"؛ حسن کا مرتبہ صحیح حدیث سے کم ہوتا ہے اور جب غریب ہو تو اس کا رتبہ اس سے بھی گھسٹ جاتا ہے۔

(۲) اس حدیث کا ایک راوی عبدالرحمٰن بن فرزانہ ہے۔ اسکو بہت سے لوگوں نے اگرچہ ثقہ بھی کہا ہے، لیکن اکثر اہل فن نے اسکی نسبت بے اعتباری ظاہر کی ہے۔ علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ عبدالرحمٰن مذکور حدیث میں بیان کرتا ہے، جن میں سب سے پڑھ کر مذکروہ روایت ہے جس میں بھیرا کا واقعہ مذکور ہے۔

(۳) حاکم نے متدرک میں اس روایت کی نسبت لکھا ہے کہ "یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرائط کے مطابق ہے، علامہ ذہبی نے تخلیص المتدرک میں حاکم کا یقینی نقل کر کے لکھا ہے کہ" میں اس حدیث کے بعض واقعات کو موضوع، جھوٹا اور بیانیا ہوا خیال کرتا ہوں"۔

(۴) اس روایت میں مذکور ہے کہ حضرت بلالؓ اور ابو بکرؓ بھی اس سفر میں شریک تھے حالانکہ اس وقت بلالؓ کا وجود بھی نہ تھا اور حضرت ابو بکرؓ بچے تھے۔

(۵) اس حدیث کے اخیر راوی ابو موسی اشعریؓ ہیں۔ وہ شریک واقعہ نہ تھے اور اپر کے راوی کا نام نہیں بتاتے۔ ترمذی کے علاوہ طبقات

ابن سعد میں جو سلسلہ سند کو رہے، وہ مرسل یا معطل ہے۔

(۲) حافظ ابن حجر رواۃ پرستی کی بنا پر اس حدیث کو صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ حضرت ابو بکر اور بلاں کی شرکت بدعاۃ غلط ہے۔

اس لیے مجبوراً اقرار کرتے ہیں کہ اس قدر حصہ غلطی سے روایت میں شامل ہو گیا ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر کا یہ ادعا بھی صحیح نہیں کہ اس روایت کے تمام روایۃ قابل سند ہیں۔ عبدالرحمن بن غزوہ ان کی نسبت خود حافظ ابن حجر نے تہذیب الجہذیب میں لکھا ہے کہ ”وہ خطأ کرتا تھا، اس طرف سے اس وجہ سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے مالیک کی روایت نقل کی ہے۔ مالیک کی ایک روایت ہے جس کو محمد شین جھوٹ اور موضوع خیال کرتے ہیں“

(ج، ص ۱۷۹-۱۸۱)

بھیرا اہب کے واقعے پر آپ نے مولانا شبلی کی مفصل تقدیم ملاحظہ فرمائی۔ اس روایت پر شدید نکیر اور بحث و تقدیم کی ضرورت مولانا کو اس لیے چیز آئی کہ یہ ایک ”اہم، اتعظما“ اور اس کی اہمیت کی وجہ یہ تھی کہ یورپین عیسائی مصنفین نے اس پر اپنے بعض بے اصل اور باطل دعووں کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے برخلاف روایت کے اس حصے پر مولانا نے کوئی بحث و تجمع نہیں کی ہے جس میں ابوطالب کے سفر شام اور اس سے متعلق دوسری جزئیات بیان کی گئی ہیں، بلکہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے روایت کے اس حصے کے بارے میں کسی سند اور حوالے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی ہے۔ حالانکہ محمد بن اوصول کے لحاظ سے روایت کا ذریعہ بحیرا اہب کے واقعے کے مقابلے میں بذریحہ فروڑ اور ناقابل اعتبار ہے۔ کیونکہ اس کی بنیاد ابن اسحاق کی روایت پر ہے اور خود ابن اسحاق نے اسے ”فِيمَا يَزْعُمُونَ“ (لوگ کہتے ہیں) کہہ کر بیان کیا ہے۔ گویا اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں :

قال ابن اسحاق : ثم ان أبا طالب خرج في

ركب تاجرا الى الشام فلما تهيها للرخيل، وأجمع

المسير صب بِهِ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى فِيمَا يَزْعُمُونَ . فَرَقَ
لَهُ أَبُو طَالِبٍ وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا خَرْجٌ بِهِ مَعِي،
وَلَا يَفْارِقُنِي، وَلَا أَفَارِقُهُ أَبْدًا، أَوْ قَالَ: فَخَرْجٌ بِهِ مَعِي.

(سیرۃ ابنہ شام ج ۱، ص ۱۸۰)

مزید برآں یہ کہ سیرۃ النبی میں مولا ناشی کا یہ بیان کہ آنحضرت ﷺ کی عمر تقریباً
بارہ برس کی ہو گی کہ ابوطالب نے حسب دستور سفر شام کا ارادہ کیا، ابن اسحاق کے یہاں بھی
ذکر نہیں۔ کیونکہ ابن اسحاق کی روایت جو اور پر نقل کی گئی اس میں آنحضرت ﷺ کی عمر مبارک کا
کہیں ذکر نہیں ہے۔ البته واقعی کی ایک روایت جو طبقات ابن سعد میں ذکور ہے، اس میں یہ
تصریح ضروری ہے کہ ابوطالب کے ساتھ سفر شام کے وقت عمر شریف بارہ سال تھی۔ لیکن واقعی
مولانا کے نزدیک بالکل باقابل اعتبار ہے۔ چنانچہ مقدمہ سیرۃ النبی میں تحریر فرماتے ہیں:

ان میں سے واقعی تو بالکل نظر انداز کرنے کے قابل ہے۔

محمد بنین بالاتفاق لکھتے ہیں کہ وہ خود اپنے بھی سے روایتیں گھڑتا
ہے، اور حقیقت میں واقعی کی تصنیف خود اس بات کی شہادت
ہے۔ ایک ایک جزوی واقعیت کے متعلق جس قسم کی گونا گوں اور
وچھ پ تفصیلیں وہ بیان کرتا ہے، آج کوئی بڑا سے بڑا واقعہ نگار جو شم
دید واقعات اس طرح قلم بند نہیں کر سکتا۔ (ج ۱، ص ۳۰)

ان تمام خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود مولا ناشی نے ابوطالب کے سفر شام اور
اس سے متعلق جزئیات کو قبول کرتے ہوئے داخل کتاب فرمایا ہے۔ صرف اس لیے کہ اس کا
شماران کے نزدیک ”روزمرہ اور عام واقعات“ میں ہے۔

پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ مولا نانے واقعات سیرت کی تحقیق و تقدیمے متعلق جس
معیلہ بلند کا تذکرہ مقدمہ سیرۃ النبی میں شرح وسط کے ساتھ فرمایا ہے، وہ ”اهم واقعات“ کے
ساتھ خاص ہے۔ باقی رہے عام اور روزمرہ واقعات تو انھیں معمولی اور سرسری انداز میں پر قلم
کر دیا گیا ہے۔ بلکہ جیسا کہ اوپر کی مثال سے واضح ہے، بعض اوقات ان کے سلسلے میں کسی

حوالے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی گئی ہے۔ لہذا یہ نتیجہ نکالنا غلط نہ ہو گا کہ سیرۃ النبی میں مذکورہ جملہ روایات و اوقاعات کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔

اب یہاں ایک بحث تو یہ ہے کہ واقعات سیرۃ کے درمیان ”اہم“ اور ”غیر اہم“ کی تعریق کرنا اور پھر اس بنیاد پر ”غیر اہم“ یعنی عام اور روزمرہ واقعات“ کے سلسلے میں بغیر تحقیق و تفہیش عام کتب سیرۃ کی روایات کو بھی حوالے سے اور کبھی بھی بلا حوالہ قول کر لینا کس حد تک مناسب اور روا ہے؟ اور کیا اس طریق کا رکی وجہ سے اس کتاب کی تحقیقی حیثیت بمروج و متاثر ہوتی ہے یا نہیں؟

راقم المعرف عرض کرتا ہے کہ ”تحقیق“ کے معنی اگر حق گوئی تک رسائی حاصل کرنے کے ہیں تو یہ عمل ہر جگہ جاری ہونا چاہیے۔ ایک عام انسان کی سوانح حیات بھی اسی وقت معتبر اور مستند کہلانے کی متحقیق ہوتی ہے، جبکہ اس میں مندرج تمام واقعات تنقید و تنقیح کے بعد لکھے جائیں، چہ جائے کہ ایک خبرگزاری کی سوانح حیات اور پیغمبر کی وہ جو خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں اور جن کے بارے میں خود مصنف سیرۃ النبی مقدمہ سیرت میں یوں رقم طراز ہیں :

مسلمانوں کے اس خبر کا قیامت تک کوئی حریف نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے حالات اور واقعات کا ایک ایک حرف اس استقصا کے ساتھ محفوظ رکھا ہے کہ کسی شخص کے حالات آج تک اس جامعیت اور احتیاط کے ساتھ قلم بند نہیں ہو سکے اور نہ آئندہ توقع کی جاسکتی ہے۔ (۱۱)

اسی مقدمے میں دوسری جگہ یوں تحریر فرماتے ہیں :

دنیا میں وہ کون شخص گذر رہے، جس کا کارنیڈہ زندگی اس طرح قلم بند ہوا کہ ایک طرف توحید کا پیانتظام تھا کہ کسی صحیح آسمانی کے لیے بھی نہ ہو سکا، اور دوسری طرف وسعت اور تفصیل کے لحاظ سے یہ حالت ہے کہ اقوال و افعال، وضع قطع، شکل و شاہد، رفتار و گفار، مذاق طبیعت، انداز گنگو، طرز زندگی، طریق معاشرت، کھانے

پنی، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جائیں، ہٹنے بولنے کی ایک ایک ادا محفوظ رہ گئی، تو اس سوال کے جواب میں صرف ایک ہی صدا بلند ہو سکتی ہے۔ ”محدث عربی فرنہ بانیِ درسمی“ (۱۵)

اگر مولا ناشبل کے یہ بیانات صداقت پر مبنی ہیں تو ان کے لیے لازم تھا کہ اپنی کتاب میں اہم اور غیر اہم واقعات کی تفریق نہ بر تھے اور ازاں اول تا آخر ہر جگہ تحقیق و تفییض اور محمد بن اہم کدو کا دش سے کام لیتے۔ بالخصوص اس لیے کہ عام کتب سیرت پران کا یہی اعتراض بھی ہے کہ ان میں ہر جگہ صحت کا التزام نہیں کیا گیا ہے۔ ممکن ہے یہاں اس اصول کا حوالہ دیا جائے کہ نوعیت واقعہ کے لحاظ سے شہادت کا معیار بدلتا رہتا ہے۔ لہذا مصنف سیرۃ النبی کا اہم اور غیر اہم واقعات کے درمیان تفریق بر تناقض نہیں ہے۔ باشہر یہ اصول اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام اور روزمرہ واقعات میں بغیر شہادت کے کوئی فیصلہ کر دیا جائے یا کمزور شہادتوں پر بھی بھروسہ کر لیا جائے۔ بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ غیر معمولی اہمیت کے حامل واقعات میں معیار شہادت بھی معمول سے بڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ چنانچہ مولا ناشبل خود تحریر فرماتے ہیں :

ایک راوی جو شفہت ہے ایک ایسا معمولی واقعہ بیلان کرتا ہے جو عموماً پیش آتا ہے اور پیش آسکتا ہے تو بے تکلف یہ روایت تسلیم کر لی جائے گی۔ لیکن فرض کرو ہی راوی ایسا واقعہ بیان کرتا ہے جو غیر معمولی ہے، تجربہ عام کے خلاف ہے۔ گرد و پیش کے واقعات سے منابع نہیں رکھتا، تو واقعہ چونکہ زیادہ محتاج ثبوت ہے اس لیے اب راوی کا معمولی درجہ و ثقہ کافی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کو معمولی درجے سے زیادہ عادل، زیادہ محتاط، زیادہ نکتہ دال ہونا چاہیے۔ (۵۹) (۱)

حاصل کلام یہ ہے کہ روزمرہ اور عام واقعات سیرت کے سلسلے میں مولا نا کا عام کتب سیرت پر اعتماد کر لینا اور بلا تحقیق و تفییض ہر چشم کی روایات کا قبول کر لینا مناسب نہ تھا، اس صورت حال کی بنا پر سیرۃ النبی کی تحقیقی حیثیت یقیناً محروم ہوئی ہے۔ پھر اس سے بھی زیادہ مسحک خنزیر

اصول ہے کہ جن واقعات پر معاون دین اسلام نے کوئی اعتراض کر دیا ہوا نہیں اہم قرار دیا جائے اور بقیہ واقعات غیر اہم سمجھے جائیں۔ کیونکہ کسی واقعے کی اہمیت خود اس واقعے پر بھی ہے، نہ کہ کسی مترضی کے اعتراض پر۔ پھر سیرت کا توهہ والقہ اور ہر جز سے اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس کا انتساب آنحضرت ﷺ کی ذات والا صفات کی جانب ہوتا ہے۔ چنانچہ شامل وغیرہ کی روایات کی جانب محدثین کی توجہ کا باعث و منشائی ہے۔

تمہرہ بحث کے طور پر یہاں یہ عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مولانا شمسی کے نزدیک ”اہم واقعات سیرت“ کے ذیل میں وہ واقعات بھی آتے ہیں، جن میں کسی مجزے کا بیان ہو یا کسی مافوق الفطرت صورت حال کا ذکر کیا گیا ہو۔ اس لیے وہ ایسے موقع پر بھی بغیر تحقیق و تفییض کسی روایت کو قبول نہیں کرتے۔

اب تک کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ سیرۃ النبی کی وہ ڈیڑھ جلدیں جو مولانا شمسی کی تحریر کردہ ہیں ان میں مذکور واقعات دروایات کو تمی حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔
(الف) وہ روایات و واقعات جن کا مأخذ صحیح اور قابل استناد و احادیث ہیں اور مصنف نے ان کے حوالے بھی دیے ہیں۔

(ب) وہ روایات جن کا مأخذ سیرت و تاریخ کی کتابیں ہیں۔ مصنف نے ان کتابوں کا حوالہ بھی دیا ہے، لیکن بالعموم یہ روایات مرسل، منقطع یا معصل ہیں۔ یا ان میں کوئی اور وجہ ضعف موجود ہے۔

(ج) وہ روایات و واقعات جن میں مصنف نے بغیر کسی حوالے کے نقل کر دیا ہے۔ لیکن ان کا مأخذ بھی کتب سیرت ہی ہیں اور یہ شریرو روایات بھی محمد ثانہ صحت کے معیار تک نہیں پہنچتیں۔

آئیے اب یہ دیکھیں کہ پوری کتاب میں ان تینوں قسم کی روایات کا تابع کیا ہے، اس مسئلے میں رقم نے ”سیرۃ النبی“ کے تمام حوالوں کا ایک گوشوارہ تیار کیا ہے۔ ذیل میں اولاً کتب حدیث بعدہ کتب سیرت و تاریخ کے حوالوں کے اعداد و شمار درج کیے جاتے ہیں، اس سے مندرجہ بالا حوالوں کے حواب میں مدد ملتے گی۔

كتب حديث

١٣٥	ابوداؤد	٢٢٠	صحيح بخاري
١٨	ترمذى	٤٢	صحيح مسلم
٢	مسند طيالسى	١٨	نسائي
١	طبرانى	١١	ابن ماجه
٧	دارقطنى	٣	مؤطا امام مالك
١٣	مسند احمد بن حنبل	٥٠	مسند احمد بن حنبل
٨	الادب المفرد	١٠	شمايل ترمذى
٥	الترغيب والترهيب	١	مسند دارمي

كل ميزان

كتب سيرت وتاريخ

٢	الاستيعاب	٢٥	ابن هشام
٦	وفاه الوفاه	٨٧	طبرى
٢	اسد الغابة	١١٣	ابن سعد
١	ابن عساكر	٣٣	الاصابة
١	انساب الاشراف	٥٨	زرقانى
٥	فتح البلدان	١٣	الروض الانف
١	سيرة حلبيه	١٠	الخميس
١	الاشراف والتنبئه	٣	يعقوبي
٩	زاد المعاد	١٠	معجم البلدان
٢	عقد الفريد	٥	نسيم الرياض

كل ميزان

ذکورہ بالا اعداد و شمار میں احتیاط کے باوجود خفیف سی کمی زیادتی کا احتمال ہے، لیکن اس سے اخذ نتائج میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ مثلاً ان اعداد و شمار کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ سیرۃ النبی میں سب سے زیادہ حوالے "صحیح بخاری" کے ہیں (۲۷۰) اس کے بعد "ابوداؤد" کے (۱۲۵) اس کے بعد "طبقات ابن سعد" کے (۱۱۳) اس کے بعد "تاریخ طبری" کے (۸۷) اس کے بعد صحیح مسلم کے (۷۲) کے اس کے بعد "سیرۃ ابن ہشام" کے (۶۵) اس کے بعد زرقانی کے (۵۸) اس کے بعد "مسند احمد بن حنبل" کے (۵۰) اس کے بعد "الاصابة" کے (۳۲) اس طرح یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ سیرۃ النبی کے بیانادی آخذ کا درجہ ذکورہ بالا نہیں نو (۹) کتابوں کو حاصل ہے بقیہ کتابوں سے بہت کم استفادہ کیا گیا ہے۔

اس ضمنی گفتگو کے بعد ہم اپنے اصول والی طرف آتے ہیں کہ سیرۃ النبی میں مستند اور غیر مستند یا کم مستند روایات کا تناسب کیا ہے؟ ذکورہ بالا اعداد و شمار میں کتب حدیث کے حوالے ۶۱۳ ہیں اور کتب سیرت و تاریخ کے ۳۲۸۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ واقعات سیرت کے ملنے میں صحیحین کے علاوہ بقیہ کتب حدیث سے جو روایات مانوذ ہیں وہ سب صحت کے معیار پر پوری اترتی ہوں۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ کتب سیرت و تاریخ کی تمام روایات غیر مستند ہی ہوں، لیکن محتاط طریقے سے یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ کتب حدیث کی پیشتر روایات مستند ہیں اور کتب سیرت و تاریخ کی پیشتر روایات غیر مستند یا کم مستند۔ اس لیے یہ کہنا بھی غلط نہ ہو گا کہ سیرۃ النبی میں جن روایات و واقعات کو حوالوں کے ساتھ لکھا گیا ہے، ان میں محمد ثانہ اصولوں کے مطابق دو تھائی مستند اور ایک تھائی کم مستند یا غیر مستند ہیں۔ مزید برآں اس کتاب میں ذکورہ روایات و واقعات جنسیں کسی حوالے کے بغیر داخل کتاب کر لیا گیا ہے اور جو بالعموم کتب سیرت ہی سے مانوذ ہیں، اگر ان کے اعداد و شمار کو بھی کتب سیرت و تاریخ کے حوالوں میں شامل کر لیا جائے تو سیرۃ النبی میں ذکور کم مستند یا غیر مستند روایات کا تناسب پچاس فتح مکہ پنج چائے گا۔ ممکن ہے کہ ان اعداد و شمار اور ان پر تجھی تھائی کوٹک و ہٹکہ کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اس لیے آئندہ صفحات میں سیرۃ النبی میں ذکور کم مستند یا غیر مستند روایات کی ایک فہرست بھی پیش کی جائی ہے۔ واضح رہے کہ اس فہرست سازی کے ملنے میں ہم نے "تاریخ مغرب قبل اسلام" کے

- باب کو بالقصد چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ یہ پورا باب ”سیرت“ کے بجائے ”تاریخ“ سے متعلق ہے۔
- ☆ سلسلہ نسب (معد سے حضرت اسماعیل تک ۳۰ پشتیں ہوتی ہیں)
 - ☆ (سیرۃ النبی ۱۶۲/۱) طبری کی روایت ہے جس کی سند نہ کوئی نہیں۔ (طبری ۲/۱۹۳)
 - ☆ (عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل تک ۳۰ پشتیں ہوتی ہیں ۱۶۳/۱) یہ کلکی کا قول ہے جو ضعیف ہے (طبری ۲/۱۹۲)
 - ☆ (قریش کا لقب سب سے پہلے نظر بن کنانہ کو ملا ۱۶۳/۱) مصنف نے اس کے لیے حافظ عراقی کی منظوم سیرت کے ایک شعر سے استدلال کیا ہے۔ جس میں کوئی حوالہ بے نہ سند۔
 - ☆ (قصی بن کلاب کا تذکرہ ۱۶۳/۱-۱۶۵) مصنف نے حوالہ نہیں دیا۔ لیکن زیادہ تر جزئیات و اقدی اور کلکی سے مردی ہیں۔ جو سیرۃ النبی کے دو صفحات کو محیط ہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو! بیان ابن سعد ۱/۲۲-۲۳)
 - ☆ (عبد مناف ۱۶۵/۱) پورا بیان و اقدی اور کلکی سے ماخوذ ہے لیکن مصنف نے کوئی حوالہ نہیں دیا ہے۔ (ملاحظہ ہوا بن سعد ۱/۷۷-۷۵)
 - ☆ (باثم ۱۶۵/۱-۱۶۷) پورا بیان کہیں و اقدی اور کہیں کلکی سے ماخوذ ہے حوالہ مذکور نہیں۔ (ملاحظہ ہوا بن سعد ۱/۷۵-۷۶)
 - ☆ (عرب میں باوجود عام لوٹ مار کے قریش کا قائلہ تجارت ہمیشہ حفظ رہتا تھا ۱۶۶/۱) مصنف نے طبری کا حوالہ دیا ہے لیکن خود طبری کی روایت بلا سند ہے۔ (۱۷۹/۲)
 - ☆ (باثم کی بنو جار میں شادی اور عبدالمطلب کی پیدائش ۱۶۶/۱-۱۶۷/۱) مصنف نے حوالہ نہیں دیا ہے، بیانات میں معلوم ہوتا ہے کہ و اقدی کی روایت ہے۔ (۱/۷۹)
 - ☆ (عبدالله کی قربانی ۱۶۷/۱) مولانا نے واقعہ کا پورا سیاق و اقدی سے لیا ہے۔ (ابن سعد ۱/۷۶-۷۵)
 - ☆ (آمنہ اور ہالہ کا ذکر ۱۶۸/۱) مصنف نے حوالہ نہیں دیا تمام بیانات و اقدی سے اور بعض کلکی سے ماخوذ ہیں (ملاحظہ ہو! بیان ابن سعد ۱/۹۳-۹۵، ۹۹-۱۰۰)

☆ (ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سب سے فضیل تر ہوں اور میری زبان میں سعد کی زبان ہے۔ ۱۷۲۱)

مولانا نے یہ روایت ابن سعد کے حوالے سے نقل کی ہے۔ لیکن ابن سعد نے اسے واقعی کے طریق سے نقل کیا ہے۔ (ابن سعد ۱۱۳/۱۱۲)

☆ (آنحضرت ﷺ کے رضاei بھائی بہن کے نام ۱۷۵/۱) حوالہ مذکور نہیں۔ ابن سعد نے واقعی کے حوالے سے اور ابن اسحاق نے بغیر سند بتائے ہوئے ان ناموں کا ذکر کیا ہے۔ (ابن سعد ۱۱۰/۱، ابن ہشام ۱/۱۶۱)

مولانا آنحضرت ﷺ کے ایک رضاei بھائی کا نام حدیثہ بھی بتایا ہے، جو ان دونوں میں سے کسی کے یہاں مذکور نہیں۔

☆ (آمنہ کا سفر مدینہ اور ابواء میں وفات ۱۷۵/۱) مولانا کی نقل کردہ جملہ تفصیلات ابن سعد نے واقعی کی سند سے ذکر کی ہے۔ (ابن سعد ۱۱۶/۱)

☆ (عبدالطلب کی کفارات اور وفات ۱۷۶/۱) حوالہ مذکور نہیں۔ مولانا کا مأخذ ابن سعد ہیں اور ابن سعد کی روایت واقعی کی سند سے مردی ہے (ابن سعد ۱۱۹/۱)

☆ (ابوظاب کی کفارات ۱۷۷/۱) حوالہ مذکور نہیں۔ مولانا کے بیان کا ابتدائی حصہ ابن اسحاق سے مأخوذه ہے۔ لیکن ابن اسحاق نے سند نہیں بیان کی۔ مولانا کے بیان کا آخری حصہ (اس قدر محبت رکھتے تھے..... ساتھ لے کر جاتے تھے) واقعی کی روایت پر بھی ہے۔ (ابن ہشام ۱/۱۹، ۱، ابن سعد ۱۱۹/۱)

☆ (شام کا سفر ۱۷۸/۱) حوالہ مذکور نہیں۔ ابن اسحاق کا قول ہے۔ ابن ہشام ۱/۱۸۰) (سفر شام کے وقت آنحضرت ﷺ کی عمر تقریباً بارہ برس کی ہو گی ۱۷۸/۱) حوالہ مذکور نہیں۔ واقعی کی روایت نہ ہے۔ (ابن سعد ۱۱۲/۱)

☆ (حرب فغار کی شرکت) اول قیس پھر قریش غالب آئے اور بالآخر صلح پر خاتم ہو گیا۔ اس لڑائی میں قریش کا کمیں اور سپہ سالا راعظم حرب ہن امین تھا۔ ۱۸۲/۱ حوالہ مذکور نہیں۔ ابن اسحاق کا قول ہے۔ (ابن ہشام ۱/۱۸۲)

مواد مشتملات

۷۰

☆ حضرت خدیجہ کا نسب ارے (۱۸۷) حوالہ مذکور نہیں۔ ابن اسحاق نے سند کے بغیر ذکر کیا ہے۔ (ابن ہشام ار ۱۸۹)

☆ (حضرت خدیجہ سے معاملہ تجارت) آنحضرت ﷺ کی عمر بچپن میں برس ہو چکی تھی (ارے ۱۸۷) حوالہ مذکور نہیں۔ ابن اسحاق نے کسی سند کے بغیر اور ابن سعد نے واقعی کے حوالے سے بھی لکھی ہے۔ (ابن ہشام ار ۱۸۷، ابن سحد ار ۱۳۲)

☆ (جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں، آپ کو اس کا مصاعف دو گئی ار ۱۸۸) حوالہ مذکور نہیں۔ ابن سعد نے واقعی کی سند سے نقل کیا ہے۔ (ابن سحد ار ۱۲۹)

☆ (حضرت خدیجہ سے نکاح کی تفصیلات ار ۱۸۸) مولانا نے الگ الگ جزئیات سے متعلق متعین حوالوں کے بجائے بہم طور پر اور عمومی انداز میں ابن ہشام، ابن سحد اور طبری کے حوالے دیے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اس باب میں ان کتابوں کی کوئی روایت سند صحیح ثابت نہیں۔

☆ (شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر جا لیں رس کی تھی ار ۱۸۹) واقعی کی روایت ہے (ابن سحد ار ۱۳۲) طبری نے ہشام بن محمد کا قول بھی نقل کیا ہے جس کی سند مذکور نہیں۔ (۱۹۶/۲)

☆ (آنحضرت ﷺ کے احباب خاص۔ حکیم بن حزام کے بعض واقعات ارے ۱۹۷) مولانا نے الا صابہ کا حوالہ دیا ہے۔ اصلیت کا مأخذ زید بن بیکار کا قول ہے، جس کی سند مذکور نہیں۔ (۲۳۹/۱)

☆ (بچپن میں ایک دفعہ آنحضرت ﷺ نے داستان گوئی کے جلسے میں شریک ہونا چاہا۔ لیکن اتفاق سے وہ میں شدی کا کوئی جلسہ تھاد پہنچنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ وہیں نیند آگئی۔ اٹھے تو صحیح ہو چکی تھی ار ۱۹۹) ابن الحنف کی روایت ہے۔ یعنی نے بھی اسے نقل کیا ہے، لیکن ان کثیر نے اسے بہت غریب کہا ہے۔ فذ الفریب جملہ۔

(المبدیۃ والنہلیۃ ار ۲۸۸)

☆ (ساقین او لین کے نام ار ۲۰۶) معرفت نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ اصلًا ان

مولانا شبیلی بحیثیت سیرت نگار

احماد کا قول ہے جس کی کوئی سند نہ کوئی نہیں۔ (ابن ہشام ار ۲۵۰-۲۶۲) (تاریخ
الاسلام للذہبی ار ۱۳۸-۱۴۹)

☆ (ابو طالب نے کہا میں اس کو اختیار تو نہیں کر سکتا، لیکن تم کو اجازت ہے اور
کوئی شخص تمہارا مراحمہ نہ سکے گا ار ۲۰۷) مولانا شبیلی نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ ابن اسحاق کا
قول ہے جس کی سند نہ کوئی نہیں۔ (تاریخ الاسلام للذہبی ار ۱۴۷)

☆ (چند روز بعد آپ نے حضرت علی سے کہا دعوت کا سامان کرو۔ تمام خاندان
عبدالملک بددھو کیا گیا۔ حمزہ، ابو طالب، عباس سب شریک تھے۔ آنحضرت ﷺ
نے کھانے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دنوں کو
کفیل ہے۔ اس پار گران کے اخانے میں کون میرا ساتھ دے گا تمام مجلس میں سنا تھا
دفعہ حضرت علی نے انھوں کر کہا۔ گوئی ٹائیں ٹائیں پتی ہیں، گوئیں سب سے نعمت ہوں،
تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ار ۲۰۱)

سید سليمان ندوی لکھتے ہیں : طبری نے تاریخ اراء اور تفسیر ۱۸/۱۹ میں
عبدالغفار بن قاسم اور منہاں بن عمرو کے واسطے سے اس کو روایت کیا ہے۔ پہلا شیعی
اور متروک ہے اور دوسرا بدعت ہے۔ اس روایت میں اور بھی وجہ مصنوع بلکہ جو وضیع
ہیں۔ (ار ۲۱۰ حاشیہ سیرۃ النبی)

☆ (اعلان دعوت کے بعد قریش کی مقابلت، ابو طالب سے شکایت، عتبہ بن
ربیعہ اور دوسرے معززین قریش کی سفارت "یا تو تم ہجتے سے ہٹ جاؤ، یا تم بھی میدان
میں آؤ کہ ہم دنوں میں سے ایک کافیصلہ ہو جائے"۔ ار ۲۲۰) مولانا نے حوالہ نہیں
دیا۔ ابن اسحاق کا قول ہے جس کی سند نہ کوئی نہیں۔ (ابن ہشام ار ۲۶۵)

☆ (ابو طالب اور آنحضرت ﷺ کی تکھو) جان ہم! میرے اوپر اتنا بارہ
ڈال کہ میں اخوات کوں ار ۲۲۱) ابن اعلیٰ نے یعقوب بن عقبہ بن مغیرہ کے حوالے
سے نقل کیا ہے، اوپر کی سند نہ کوئی نہیں۔ (ابن ہشام ار ۲۶۵)

☆ (حضرت حمزہ کا قبول اسلام) مولانا نے کسی متعین کتاب کا حوالہ نہیں دیا

مودود مشکلات

۷۲

لکھتے ہیں : حضرت حمزہ کے اسلام کا واقعہ سب نے لکھا ہے (۱/۲۲۳) بہر حال انہوں نے جو روایت نقل کی ہے، وہ ابن احراق کی ہے، جس کی سند مذکور نہیں کیونکہ ابن احراق نے یوں لکھا ہے : حدثني رجل من أسلم (بھی سے قبیلۃ اسلم کے ایک آدمی نے بیان کیا) (ابن ہشام اور ابن کثیر ۳/۲۹۲)

☆ (حضرت عمر کا قبول اسلام) مولانا شبلی نے اس سلسلے میں جو تفصیلات قلم بند کی ہیں، اس کے لیے طبقات ابن سعد کی جس روایت کا حوالہ دیا ہے وہ قاسم بن مثان بصری کی وجہ سے قابل استفادہ نہیں، (لاحظہ ہو طبقات ۳/۲۶۷ اور لسان المیزان ۵/۳۶۳) یہی کیفیت اسد الغابۃ کی روایت کی بھی ہے۔ کیونکہ اس کی سند ابن احراق تک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ (۲/۲۲۳) مزید برآں امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں اس روایت کے لیے وہی منکرة جدا (بہت سکر) کے الفاظ استعمال کیے ہیں (لاحظہ ہو میزان ۳/۲۵۵) مولانا نے ابن الاشری کی "الکامل" کا بھی حوالہ دیا ہے۔ ابن الاشری نے اس روایت کی نسند بتائی اور شاید ماخذ تحریر کیا۔ (الکامل ۵۰۳-۵۰۴)

☆ تغذیب المسلمين (قریش کے ہاتھوں حضرت خبابؓ کی تغذیب اور ایذا رسائی کی تفصیلات ۱/۲۲۸) مولانا نے اس سلسلے میں ابن سعد کی جس روایت کا حوالہ دیا ہے، وہ قابل استفادہ نہیں۔ کیونکہ اس کی سند میں حبان بن علی اور مجالد کے نام آتے ہیں اور یہ دونوں ضعیف ہیں۔ مزید برآں اس کی سند قصیٰ سعک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔

(ابن سعد ۳/۱۶۵)

☆ (حضرت عماد، حضرت یاسرؓ اور حضرت سعیہ کے واقعات ۱/۲۲۹-۲۳۰) حوالے مذکور نہیں۔ مولانا نے پیش جزئیات ابن سعد سے نقل کی ہیں اور ابن سعد کا اخذ و اندی ہیں (ابن سعد ۳/۲۳۶-۲۳۷) حضرت عماد کے زمانہ اسلام کے بارے میں مولانا نے ابن الاشری کا حوالہ دیا ہے لیکن خود ابن الاشری کے یہاں کوئی حوالہ نہیں۔

(الکامل ۲/۲۳۷)

☆ (حضرت صہیبؓ کے نام و تسب اور وطن وغیرہ کا بیان ۱/۲۳۰) حوالہ مذکور

مولانا شیلی بھیت سیرت شمار

نہیں۔ ابن سعد کا قول ہے لیکن انھوں نے اپنی سند نہیں بتائی (ابن سعد ۲۲۶/۳)

☆ (آپ ﷺ نے اسلام کی ترقیب دی اور یہ مسلمان ہو گئے اور ۲۲۰) ابن سعد کی روایت ہے، جو واقعی سے مروی ہے۔ (ابن سعد ۲۲۷/۳)

☆ (قریش ان کو اس قدر راذہت دیتے تھے کہ ان کے حواسِ عقل ہو جاتے تھے اور ۲۳۰) مولانا نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ ابن سعد نے یہ مضمون واقعی سے نقل کیا ہے۔ (ابن سعد ۲۲۸/۳)

☆ (مہاجرین جہش کی فہرست ۱/۲۲۳-۲۲۴) مولانا نے طبری کا حوالہ دیا ہے طبری نے یہ روایت ابن سعد سے اور انھوں نے واقعی سے نقل کی ہے۔ (طبری ۲۲۷/۲)

☆ (صیہ کی طرف دوبارہ ہجرت ۱/۲۲۳) مولانا نے ابن سعد کا حوالہ دیا ہے۔ لیکن ابن سعد کا مأخذ واقعی ہیں۔ (ابن سعد ۱/۲۰)

☆ شعبابی طالب میں محسوسی (ایک دن حکیم بن حرام نے جو حضرت خدیجہ کا بھتیجا تھا۔ تحوڑے سے گیپوں اپنے غلام کے باٹھ حضرت خدیجہ کے پاس بیٹھے۔ راه میں ابو جہل نے دیکھا اور جھین لیتا چاہا اغ ۱/۲۲۶) مولانا نے کوئی حوالہ نہیں دیا ہے۔ اصلًا یہ ابن الحنفی کی روایت ہے جس کی سند نہ کوئی نہیں (ابن هشام ۱/۳۵۲)

موی بن عقبہ نے بھی زبری سے مرسل نقل کیا ہے۔ (تاریخ اسلام للذہبی ۲۲۱/۲)

☆ (متصل تین برس تک آنحضرت ﷺ اور تمام آل ہاشم نے یہ صیہیں جھیلیں، بالآخر دشمنوں ہی کو رحم آیا اور خود انھیں کی طرف سے اس معابر سے کتوڑ نے کی تحریک بولی۔ اغ ۱/۲۲۶) ابن الحنفی کی روایت ہے جس کی سند نہ کوئی نہیں۔ (ابن هشام ۱/۳۷۱-۳۷۵)

یہ کلرا بھی موی بن عقبہ کے بیان موجود ہے، لیکن مرسل ہے۔ (حوالہ بالا)

☆ (بقول ابن سعد یہ (شعبابی طالب سے رہائی) تھے جوی کا واقع ہے اور ۱/۲۲۷) ابن سعد کا مأخذ واقعی ہیں۔ (ابن سعد ۱/۲۱۰)

☆ (آنحضرت ﷺ کی دعائے البوطالب کی خطا یا بی اغ ۱/۲۲۹) مولانا نے اصابتہ کا حوالہ دیا ہے۔ وہاں اس کی سند دیکھنے سے معلوم ہوا کہ یہ روایت شمشاد کا،

کے طریق سے مردی ہے، جو ایک ضعیف راوی ہے۔ (اصالۃ ۱۱۵/۲) تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوئے ان الامثلیات مذکورہ ہیں (۳۱۹/۲)

☆ (ابوطالب اور خدیجہ کے اٹھ جانے کے بعد (قریش) نہایت بے رحمی دبے باکی سے آنحضرت ﷺ کو ستاتے تھے۔ ۲۵۰) مولا نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ اب ان سخنے اسے واقعی سے نقل کیا ہے۔ (۲۱۱) اور طبری نے این احراق سے (۳۲۹/۲) موسیٰ بن عقبہ کے بیہاں بھی زہری سے مرسل امر وی ہے۔
 (تاریخ الاسلام ۲۸۴/۲)

☆ (ایک دفعہ آپ راہ میں جانے تھے۔ ایک شقی نے فرق مبارک پر خاک ڈالدی... آپ کی صاحبزادی نے دیکھا تو پانی لے کر آئیں آپ کا سرد ہوتی تھیں اور جوش محبت سے روٹی جاتی تھیں۔ آپ نے فرمایا جان پدر رودا نہیں خدا تیرے باب کو بچائے گا (۲۵۰/۱) ابن الحنفی کی مرسل روایت ہے، جس کی سند حضرت عروہ پر فتح ہو جاتی ہے۔ (ابن رشام ۳۱۶/۱) حافظہ ذہنی نے اسے ”غريب مرسل“ کہا ہے۔

☆ (طاائف کا تجملی سفر، دہلی کے روشنائیں عبدالیل، مسعود اور جبیب سے
عکشیوں کی تفصیل۔ اور ۱۹۵۷ء) این اعلیٰ کمیاب رواجت مرسل ہے۔ محمد بن کعب قریشی پر
اس کی سند ختم ہو جاتی ہے۔ (این ہشام ۱۹۸۳ء)

☆ طائف کے بازاریوں کی آنحضرت ﷺ کے ساتھ بدسلوکی۔ پھر مارنا
کالیاں دینا، تالیاں بھانا وغیرہ ادا (۲۵۱) اس روایت کی سند بھی محمد بن کعب قریب پختم
ہو جاتی ہے۔ (ابن ہشام ۳۱۶، طبری ۲۲۹، ۲۴۰) یہ مضمون زہری اور مزدہ سے بھی
مردی ہے۔ لیکن دونوں روایتیں مرسل ہیں۔ (تاریخ الاسلام للدہبی ۲۸۳-۲۸۴،
ولائل المعرفة للجعفی ۳۱۶-۳۱۵) المغازی ابی رودة (۱۱۹)

☆ (مطعم بن عدی کے جوار کا واقعہ ۲۵۱-۲۵۲) مولانا نے این سعد کا حوالہ دیا ہے۔ لیکن ان کا مأخذ واقعی ہے۔ (اين سعدا ۲۱۳) طبری کی روایت میں سند نہ کوئی

مولانا شیخ الحنفیہ سیرت فار

نہیں۔ (بلبری ۲۳۱/۲۲۳)

☆ (قبائل عرب کا دورہ ۲۵۲/۱) مولانا نے قبائل کے نام کے سلسلے میں ابن سعد کا حوالہ دیا ہے۔ لیکن ان کا مأخذ و اقدی ہیں۔ (ابن سعد ۲۲۶/۱)

☆ (بنی حنین بنی میں آباد تھے۔ ان لوگوں نے نہایت تخفی کے ساتھ جواب دیا ۲۵۳/۱) ابن الحنفیہ کی روایت ہے۔ اس کی سند میں انقطاع بھی ہے اور ارسال بھی۔

(ابن هشام ۱/۲۲۳)

☆ (قہیلہ بخاری میں تبلیغی دورہ۔ شیراز بن فراس کی گفتگو ۲۵۳/۱) ابن الحنفیہ کی روایت ہے، جو راستل زہری میں ہے۔ (بلبری ۲۳۲/۲)

☆ (قریش کی جانب سے رسول اللہ ﷺ کی ایذا رسانیاں ۲۵۳/۱) مولانا نے ابن سعد کا حوالہ دیا ہے۔ ان کا مأخذ و اقدی ہیں۔ (ابن سعد ۱/۲۰۰)

☆ (آنحضرت ﷺ کی سوید بن صامت سے طلاقات اور گفتگو ۲۶۰/۱-۲۶۱) ابن الحنفیہ کی روایت ہے جس کی سند عامم بن عمر بن قادہ پر فتنی ہو جاتی ہے۔

(ابن هشام ۱/۲۲۵)

☆ (واحہ بحرت) (صحیح کوثریش کی آنکھیں کھلیں تو پنگ پر آنحضرت ﷺ کے بجائے حضرت علیؓ تھے۔ غالباً نے آپ کو پکڑ کر اور حرم میں لے جا کر تموزی دبری محبوب رکھا اور چھوڑ دیا ۲۷۲/۱) ابن الحنفیہ کی رسول روایت ہے اس کی سند محمد بن کعب القرطی پر فتنی ہو جاتی ہے۔ (بلبری ۲۳۵/۲)

☆ (ابن سعد نے طلاقات میں اس مقدس سفر کی تمام منزلیں مکنائی ہیں۔ اخ ۲۷۲/۱) ابن سعد کی پر روایت و اقدی کے طریق سے مردی ہے۔

(ابن سعد ۱/۲۳۲-۲۳۳)

☆ (لوگ ہر روز ترک کے سے نکل نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دو پہر تک انتظار کر کے حضرت کے ساتھ وابس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا پچکے تھے کہ ایک یہودی نے قلمے سے دیکھا اور قرآن سے پیچان کر پکارا کہ اہل عرب لو تم جس

کا انتظار کرتے تھے وہ آگیا۔ تمام شہر عجیب کی آواز سے گونج اٹھا۔ انصار تھیا رجع جع
کر بے تابانہ گروں سے نکل آئے ۲۷۵۱)

مولانا نے اس پیر اگراف کے لیے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ پورا بیان لفظ بے لفظ
ابن سعد سے ماخوذ ہے اور روایت اصلہ واقدی کی ہے (ابن سعد ۲۳۳/۱)

☆ (قباء میں بن عمر و بن عوف میں قیام "اکثر اکابر صحابہ جو آنحضرت ﷺ سے پہلے مدینہ آپکے تھے وہ بھی کلثوم بن ہرم کے گھر اترے تھے" - ۲۷۵۱)
مولانا نے ابن سعد کا حوالہ دیا ہے، روایت واقدی کی ہے (ابن سعد ۲۲۳/۳)
☆ (مدینہ میں آکر آپ نے حضرت زینب اور اپنے غلام ابو رافع کو دو اونٹ اور
پانچ سورہم دے کر بھیجا کہ مکہ چاکر صاحبزادیوں اور حرم نبوی کو لے آئیں... اخ
(۱۸۰) مولانا نے ابن سعد کا حوالہ دیا ہے۔ روایت واقدی کی ہے۔
(ابن سعد ۲۳۸/۸ و ۱۶۵/۸)

☆ (حضرت ام سلمہ، حضرت ام جبیہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت
میمونہ، حضرت زینب بنت جحش کے مکانات شامی جانب تھے اور حضرت عائشہ،
حضرت صفیہ، حضرت سودہ مقابل جانب تھیں۔ ۲۸۲/۱)

مولانا نے ابن سعد کا حوالہ دیا ہے۔ روایت واقدی کی ہے (ابن سعد ۱۶۳/۸)
☆ (حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ، حضرت عمرہ بن حزم اور
حضرت ابوالیوب رئیس اور دولت مند لوگ تھے۔ یہ لوگ آنحضرت ﷺ کی خدمت
میں دو دھنچ دیا کرتے تھے اور اسی پر آپ پرس فرماتے تھے۔ ۲۸۲/۱)

حوالہ نہ کوئی نہیں ہے۔ ابن سعد نے یہ روایت واقدی نے نقل کی ہے۔ لیکن وہاں دو دھنچ
کے بجائے دھنچ کا ذکر ہے۔ (ابن سعد ۱۶۳/۸)

☆ (حضرت سعد بن عبادہ نے التزام کر لیا تھا کہ رات کے کھانے پر بیٹھ اپنے ہاں
سے ایک بڑا باری بھیجا کرتے تھے، جس میں کبھی سالم کبھی دودھ کبھی سیبی ہوتا تھا۔ ۱۶۳/۸)
مولانا نے ابن سعد کا حوالہ دیا ہے۔ روایت اصلہ واقدی کی ہے (ابن سعد ۱۶۳/۸)

☆ (بنفسیر کی جلاوطنی کے بعد آنحضرت ﷺ نے انصار کو پیش کش کی کہ تم مهاجرین سے اپنے نخلستان والوں لے لو۔ نئے مقبوضات تھا ان کو دے دیئے جائیں.....انج ۲۸۶/۱)

مولانا نے فتوح البلدان کا حوالہ دیا ہے۔ بلاذری نے اس کی تحریک علیحدگی کے طریق سے کی ہے۔ جو شیعیت اور دروغ گوئی کے ساتھ میم ہے۔ (فتاح البلدان ۳۰)

☆ (حضرت عثمان، حضرت مقداد، حضرت عبد گو انصار نے اپنے مکانات کے پہلوں زمینیں دیں۔ ۲۸۸/۱) مولانا نے بجم البلدان کا حوالہ دیا ہے۔ لیکن وہاں اس روایت کی کوئی سند نہ کوئی نہیں۔ (بجم البلدان ۸۶/۵)

☆ (مواخاة کے رشتے سے جو لوگ آپس میں بھائی بھائی بنے، ان میں سے بعض حضرات کے نام یہ ہیں.....انج ۲۸۸/۱)

ابن الحنفی کی روایت ہے جس کی سند نہ کوئی نہیں انہوں نے "فیما بلغنا" کہہ کر روایت بیان کی ہے۔ (ابن ہشام ۱/۵۰۷-۵۰۸)

☆ یہودیہ (ایک بڑے مؤرخ یعقوبی نے صاف تصریح کی ہے کہ قریظہ اور نظری عرب تھے۔ ۲۹۵)

یعقوبی (متوفی ما بعد ۲۹۲ھ) عصر عباسی کا آدمی ہے۔ اس نے اس بیان کے لیے کوئی سند ذکر کی، نہ اپنا مأخذ خریکیا۔ (تاریخ یعقوبی ۲۹۰/۲)

☆ واقعات مفترقة (آنحضرت ﷺ نے بنو جار سے فرمایا: میں خود تمہارا نائب ہوں۔ ۱/۲۹۷) ابن الحنفی کی یہ روایت مرسل ہے، عاصم بن عمر بن قادہ پر اس کی سند ختم ہو جاتی ہے۔ (بلبری ۲/۲۵۷، ابن ہشام ۱/۵۰۷)

☆ سلسلہ غزوہات (حرم کی تولیت کی وجہ سے تمام عرب قریش کا احترام کرتا تھا۔ مکہ سے مدینہ تک کے قبائل قریش کے زیر اثر تھے۔ ۱/۲۹۷)

ابن الحنفی کا قول ہے جس کی سند نہ کوئی نہیں (ابن ہشام ۱/۵۰۷)

☆ تعلیٰ حضری (تمام را یاں جو قریش سے پیش آئیں، سب کا سبب یہ حضری

کا قتل ہے۔ علامہ طبری لکھتے ہیں اخ (۳۱۲)۔

یہ روایت حضرت عزیزہ بن زبیر سے مرسلاً مروی ہے (طبری ۲۶۷/۲)

☆ غزوہ بدر (ابن سعد میں ابوسفیان سردار قافلہ کا قول لکھا ہے : والله مابیکة من قرشی ولا قرشیة له نش فصاعداً الا بعث به معنا ۱، ۳۱۵ حاشیہ) ابن سعد کا یہ بیان واقعی سے ماخوذ ہے۔

(ابن سعد ۲/۱۳، ۱۲، کتاب المغازی للواقدی ۱/۲۷)

☆ (غرض ۱۲ اور رمضان ۲) کو آپ تقریباً تین سو جال شاروں کے ساتھ شہر سے نکلے۔ ایک میل چل کر فوج کا جائزہ لیا، جو کم عمر تھے واپس کر دیے گئے ۱۳۱۶ (۱۲۳) یہ پرا بیان ابن سعد نے واقعی سے اور انہوں نے جمع روایات کے اپنے طریقے کے مطابق مختلف شیوخ سے نقل کیا ہے۔ (ابن سعد ۱۲/۲، واقدی ۱/۱۲۳)

☆ (غزوہ بدر کے موقع پر لٹکر قریش کو کھانا کھلانے والوں کی فہرست ۱/۳۱۷) ابن الحنف کا بیان ہے جس کی سند نہ کوئی نہیں (ابن ہشام ۱/۳۶۳)

☆ (حضرت حباب بن منذر نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کی کہ جو قیام انتخاب کیا گیا ہے، وہی کے رو سے ہے، یا فوجی تدبیر ہے؟ اخ (۳۱۸) ابن الحنف کی روایت یہی جس کی سند نہ کوئی نہیں۔ (ابن ہشام ۱/۶۰)

☆ (جگ نانے کے لیے حکیم بن حرام کی کوشش، عتبہ کی رضامندی ابو جہل کا انکار و عناد ۱/۳۱۹، ۳۲۰)

مولانا نے طبری کا حوالہ دیا ہے اس بیان میں عتبہ کی رضامندی تک کا واقعہ طبری کے بیان موصول امرودی ہے لیکن ابو جہل کے انکار کی تفصیل جو سیرۃ النبی (۳۲۳) میں نہ کوہ ہے وہ ابن الحنف کی روایت ہے جس کی سند اوری ہے۔ (ابن ہشام ۱/۳۲۳، طبری ۲/۹۴)

☆ (عماجری کا علم حضرت مصعب بن عسیر کو حادیت فرمایا، خرزج کے علم بردار حضرت حباب بن منذر را دراویں کے حضرت سعد بن معاذ مقرر ہوئے۔ ۱/۳۲۰) مولانا نے کوئی حوالہ نہیں دیا لیکن ان کا یہ بیان میں وہیں ابن سعد سے ماخوذ ہے (۱/۳۲۲)

اور این حدیکی عمارت لفظ بلطف واقعی سے ماخوذ ہے۔ (کتاب المغازی ۱/۵۸)

☆ (حضرت ابو بکرؓ کے بیٹے میدان جگ میں بڑھے تو حضرت ابو بکرؓ تواریخ پنج کر نکلے ۱/۳۲۲) مولا نے ابن عبدالبرکی الاستیعاب کا حوالہ دیا ہے لیکن ابن عبدالبرک نے اس روایت کی کوئی سند کو نہیں کی (الاستیعاب ۲/۳۹۳)

☆ (حضرت عمرؓ کی تکوار مامون کے خون سے نکلنے تک ۱/۳۲۲) ابن هشام نے یہ روایت ابو عبیدہ سے نقل کی ہے، لیکن آگے کی سند کو نہیں ان کے الفاظ یہ ہیں۔ وحدشی ابو عبیدہ وغيره من اهل العلم بالمفازی (ابن هشام ۱/۶۳۶)

☆ (اسی ران جگ میں ام المؤمنین حضرت سودہ کے عزیز سنتل بن عمر بھی تھے۔ ان پر نکاہ پڑی تو بے ساختہ بول اٹھیں کہ تم نے بھی عورتوں کی طرح خود بیڑیاں پہن لیں یہہ بوس کا کڑک مر جاتے ۱/۳۴۹)

ابن الحنفی کی روایت ہے جس کی سند صحیح بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن احمد بن زرارہ پختم ہو جاتی ہے۔ (ابن هشام ۱/۶۲۵)

☆ (ان قیدیوں میں ابو عزیز تھے، جو مصعبؑ بن عیسیٰ کے بھائی تھے۔ ان کا یہاں ہے کہ مجھ کو جن انصاریوں نے اپنے گھر میں قید کر کھاتا تھا، جب سعیٰ یاشام کا کھانا لائی تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود بھجوڑیں اٹھا لیتے تھے ۱/۳۰) یہ روایت ابن الحنفی کی بے اور بیہقی بن وہب بن عثمان العبدی سے مرسل امرودی ہے۔ (طبری ۲/۲۸۷)

☆ (بدر کی خبر کے میں بھی تو گمراہ گرام تھا، لیکن غیرت کی وجہ سے قریش نے مساوی کراوی کر کوئی شخص رونے نہ پائے، اسود کا اپنے بیٹوں کا ارثیہ ۱/۳۳۲) مولا نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ یہ ابن الحنفی کی روایت ہے، جو عبد بن عبد اللہ بن الحنفی سے مرسل امرودی ہے۔ (ابن هشام ۱/۶۲۷-۶۲۸)

☆ (حضرت خیثہ بن سعد کا شوق شہادت ۱/۳۵۹)

مولانا نے الاستیعاب کا حوالہ دیا ہے، لیکن وہاں اس روایت کی کوئی سند کو نہیں

ثیں (الاستیعاب ۲، رج ۵۳۷) الا صابر کا بھی حوالہ ہے، لیکن وہاں امام زہری اور سلیمان بن ابیان سے مرسل امردی ہے۔ (الاصلۃ ۲، رج ۲۵۲)

☆ (غزہ بدر سے متعلق عروہ بن زبیر کا خط عبد الملک کے نام ۱/۳۶۱) طبری کی روایت ہے۔ حضرت عروہ سے مرسل امردی ہے۔ (طبری ۲/۲۶۷)

☆ (غزہ سوقی ۱/۳۶۶-۳۶۵) اس غزوے سے متعلق مولا نانے کہیں کوئی حوالہ نہیں دیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کا مأخذ ابن الحسن کی روایت ہے جو عبد اللہ بن کعب بن مالک سے مرسل امردی ہے (ابن رشام ۲/۳۳۷-۳۵)

ابوسفیان کی مت کا یہ فقرہ کہ متوالین بدر کا انتقام لیے بغیر وہ سر میں تیل نہ ڈالے گا، ابی سعد سے ماخوذ ہے اور ابن سعد کا مأخذ واقعی ہیں۔

(ابن سعد ۲/۳۰، واقعی ۱/۱۸۱)

☆ حضرت قاطمه زہرا کی شادی ذی الحجه ۲ (حضرت قاطمه جو آخرت علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں سب سے کم سن تھیں اب ان کی عمر اخبارہ بریس کی ہو چکی تھی ۱/۳۶۶) مولا نانے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ حضرت قاطمه کی عمر کے سلسلے میں یہ ابن سعد کی روایت ہے، جو واقعی سے امردی سے مروی ہے۔ (ابن سعد ۲/۲۸)

☆ (شادی کے بعد حضرت قاطمه کی رخصتی کے لیے مکان کا انتقام ۱/۳۷۴) مولا نانے نے یہاں بھی کوئی حوالہ نہیں دیا، لیکن ان کا مأخذ واقعی کی روایت ہے جو ابن سعد نے منتقل کی ہے۔ (ابن سعد ۲/۲۸)

☆ غزوہ احد (ان گورتوں کے نام جو لٹکر کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کفار کی طرف سے جنگ احمد میں شریک تھیں ۱/۳۷۵) مولا نا طبری کا حوالہ دیا ہے۔ یہ ابن الحسن کی مرسل روایت ہے۔ انھوں نے امام زہری، محمد بن سیفی بن حباب، عاصم بن عمر بن قادہ اور حسین بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن معاذ کے پیاتاں کو جمع کر کے ایک روایت کی شکل دنے دی ہے۔ (طبری ۲/۱۱/ابن رشام ۶۶۲)

☆ (کفار کی پیش قدمی کی اطلاع حضرت عباس نے کم سے خط پیش کر کی

اول (۳۷۲) حوالہ مذکور نہیں۔ مولانا نے یہ روایت ابن سعد سے لی ہے اور ابن سعد کا مأخذ واقعی ہیں۔ (ابن سعد ۳۷۲، واقعی ۱۴۰۳-۲۰۳)

☆ (۵) رشوال ۳^و کو آنحضرت ﷺ کا انس اور منس کو خبر رسانی کے لیے اور جباب بن منذر کو فوج قریش کی تعداد معلوم کرنے کے لیے بھیجنा۔ حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذؓ کو پھرے پر مقرر کرنا۔ (۳۷۲-۳۷۱)

مولانا نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ ان کا مأخذ طبری اور ابن سعد ہیں اور ان دونوں نے یہ تفصیلات واقعی سے لی ہیں (ابن سعد ۳۷۲، واقعی ۱۴۰۳-۲۰۳)

☆ (آنحضرت ﷺ کا صحابہ سے مشورہ۔ مہاجرین نے عموماً اور انصار میں سے اکابر نے رائے دی کہ عورتیں باہر قلعوں میں بھیج دی جائیں اور شہر میں پناہ گیر ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ (۳۷۱)

حوالہ مذکور نہیں۔ مشورے کی یہ تفصیل مولانا نے ابن سعد سے لی ہے اور ان کا مأخذ واقعی ہیں۔ (ابن سعد ۳۸۲، واقعی ۱۴۰۴-۲۰۹)

☆ (جنگ احمد کے موقع پر مسلمانوں میں ایک سوزہ پوشی تھے) (۳۷۲) حوالہ مذکور نہیں۔ طبری نے واقعی کے حوالہ سے نقل کیا ہے (طبری ۱۴۲، واقعی ۱۴۵)

☆ (ان صحابہ کے نام جو کم سن ہونے کی بنا پر جنگ احمد میں واپس بھیج دیے گئے۔ (۳۷۲) حوالہ مذکور نہیں۔ ناموں کی فہرست طبری نے واقعی کے حوالے سے نقل کی ہے۔ (طبری ۱۴۳)

☆ (حضرت رافع بن خدیج کا انگوٹھے کے بل تن کرخڑے ہونے کی بنا پر ساتھ لے لیا جانا) (۳۷۳) مولانا نے طبری کا حوالہ دیا ہے، لیکن طبری نے اسے واقعی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ (طبری ۱۴۳، واقعی ۱۴۶)

☆ (حضرت سرہ بن جنبد کا رافع کو کشتی میں پچھاڑنے کی بنا پر لے لیا جانا) (۳۷۳) حوالہ مذکور نہیں۔ طبری نے یہ روایت بھی واقعی کے حوالے سے نقل کی ہے۔ (طبری ۱۴۳، واقعی ۱۴۶)

☆ (کفار کے لشکر کی ترتیب، خاتون قریش کی مرشیدہ و رجڑ خانی، آغاز جنگ، ابو عاصر کی گفتگو حضرت علیؑ کے ہاتھوں قریش کے علم بردار طلحہ کا قتل، حضرت حمزہؓ کے ہاتھوں طلحہ کے بھائی عثمان کا قتل ۱۳۷۳-۱۳۷۲)

مولانا شبلی نے ان تمام واقعات کو کسی سند و حوالہ کے بغیر تحریر کیا ہے۔ ان سب کے سلسلے میں مولا نا کا مأخذ ابن سعد ہیں اور ابن سعد کا مأخذ و اقتدی ہیں۔

(ابن سعد ۱۳۰/۲۳۱، واقدی ۱۴۰/۲۲۷-۲۲۸)

☆ (کفار کے علم بردار صواب کی دلیری وجہ بازی ۱۳۷۱) ابن الحنفی کی روایت ہے جس کی سند مذکور نہیں۔ ابن ہشام (۷۸۷) طبری کے یہاں بھی اسی روایت کا حوالہ ہے۔ (۱۷۰/۳)

☆ (حضرت حظہؓ کی جاں بازی و شہادت، ۱۳۷۲) ان واقعات کے لیے بھی مولا نا نے کوئی حوالہ نہیں دیا ہے۔ ابن الحنفی نے عاصم بن عمر بن قتادہ سے نقل کیا ہے۔ (ابن ہشام ۷۵۰/۲)

☆ (سریٰ ابی سلمہ) ۱۳۸۹ اس سریہ کی تاریخ اور دوسری تفصیلات کے لیے مولا نا نے ابن سعد کا حوالہ دیا ہے، لیکن ابن سعد کی روایت لفظ بالفاظ و اقتدی کی کتاب المغازی پر مبنی ہے۔ (ابن سعد ۵۰۰/۲، واقدی ۱۴۱/۳)

☆ (سریٰ ابن انس ۱۳۸۹) مولا نا نے ابن سعد کا حوالہ دیا ہے لیکن ابن سعد کا مأخذ و اقتدی ہیں۔ (ابن سعد ۵۰۰/۲، واقدی ۵۳۱/۲)

☆ غزوہ بنی قینقاع (قبائل یہود نے سب سے زیادہ جری اور بہادر قینقاع تھے، ۱۳۰/۳) مولا نا نے ابن سعد کا حوالہ دیا ہے۔ لیکن ابن سعد کا بیان لفظ بالفاظ و اقتدی سے ماخوذ ہے۔ (ابن سعد ۱۴۰/۲ واقدی ۱۷۸/۱)

☆ (ابن ہشام اور طبری نے ابن الحنفی کے طریق سے عاصم بن قتادہ انصاری کی روایت نقل کی ہے: ان بنی قینقاع کا نوا اول یہود نقضوا.... الخ ۱۴۰/۱) یہ روایت مرسل ہے۔

☆ (ابن سعد نے بوقیقاع کے ذکر میں لکھا ہے : "فلمَا كَانَتْ وَقْعَةُ بَدْرِ اَظْهَرُوا الْبَغْيَ وَالْحَسْدَ الْغَيْرِ") (۲۰۳۱)

ابن سعد کا یہ بیان واقعیت سے مخالف ہے۔ (ابن سعد ۲۴۹ و اقدی ۱۷۶)

☆ (ایک مسلمان خاتون کی یہودیوں کے ہاتھوں بے حرمتی ۲۰۳۱) مولانا نے کوئی حوالہ نہیں دیا ہے۔ یہ روایت ابن ہشام نے نقل کی ہے۔ اس کی سند ایک یونانی پرچار کرختم ہو جاتی ہے۔ (ابن ہشام ۲۷۲)

☆ (آس حضرت ﷺ سے بنی قیقاع کی بدکلائی ص ۲۰۳) کوئی حوالہ نہیں۔ ابن الحنفیہ کا قول ہے، جس کی سند نہ کوئی نہیں۔ (ابن ہشام ۲۷۲)

☆ (بنو قیقاع کا محاصرہ اور جلاوطنی ۲۰۵-۲۰۵) کوئی حوالہ نہ کوئی نہیں۔ ابن الحنفیہ نے عاصم بن عمر بن قادہ سے مرسلاً نقل کیا ہے (ابن ہشام ۲۸۲)

☆ (بنو قیقاع کی کل تعداد، ان کے زرہ پوشوں کی تعداد ۲۰۵) حوالہ نہ کوئی نہیں۔ ابن الحنفیہ نے عاصم بن عمر بن قادہ سے مرسلاً روایت کیا ہے۔ (ابن ہشام ۲۸۲)

☆ (قتل کعب بن الاشرف۔ کعب بن اشرف کے حسب و نسب اور اس کی دولتندی کا بیان ۲۰۵) مولانا نے اخیریں کا حوالہ دیا ہے، لیکن یہ اصلاً ابن الحنفیہ کی روایت ہے، جس کی سند نہ کوئی نہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوئی المباری ۲۳۹/۸)

☆ (آس کو اسلام سے ختم عداوت تھی۔ بدر کی لڑائی میں سردار ان قریش مارے گئے تو اس کو نہایت صدمہ ہوا۔ تعزیت کے لیے مکہ گیا۔ کشتیگان بدر کے پر در در رہیے... نہایت درد سے پڑھتا اور روتا اور لاتار تھا۔)

یہ بیانات ابن الحنفیہ کی روایت پر مبنی ہیں، جو مرسل ہے۔ (ابن ہشام ۲۵۱)

☆ (علامہ یعقوبی اپنی تاریخ میں ہونفسیر کے واقعے میں لکھتے ہیں کعب بن الاشرف اليهودی الذی أراد ان یمکر برسول اللہ ﷺ ۱۷۶) تاریخ یعقوبی میں اس واقعے کی کوئی سند نہ کوئی نہیں۔

☆ (ایک روایت میں ہے کہ مکہ میں چالیس آدمی لے کر گئیا۔ وہاں ابوسفیان

مواد و مشتملات

۸۲

سے طا اور اس کو بدر کے انقام پر برائیختہ کیا اور ابوسفیان سب کو لے کر حرم میں آیا۔ سب نے حرم کا پردہ تحام کر معابدہ کیا کہ بدر کا انقام لیں گے) مولانا نے اس بیان کے لیے تاریخ انہیں کا حوالہ دیا ہے۔ لیکن مجھے اس کتاب میں اسکی کوئی روایت نہیں ملی۔ البتہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ابن عائذ کے خواہی سے اس مضمون کی ایک روایت کا ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ روایت کلھی کے طریق سے مردی ہے، جو محمد شین کے نزد یہ ضعیف ہے۔ (فتح الباری ۳۲۰/۸)

☆ غزوہ بنی نضیر (قبیلہ عامر کے دو متوالوں کی دیت کے سلسلے میں آنحضرت ﷺ کی بنو نضیر کی سازش قتل ۳۰۹) ابن الحنفی کی مرسل روایت ہے جو یزید بن رومان سے مردی ہے۔ (ابن ہشام ۱۹۰/۲)

☆ (بالآخر بنو نضیر اس شرط پر راضی ہوئے کہ جس قدماں و اسباب لے جائیں اور مدینے سے باہر نکل جائیں..... ان میں سے محزر روز ساء... خیر چلے گئے۔ وہاں لوگوں نے ان کا اس قدر احترام کیا کہ خیر کارخیں تسلیم کر لیا۔) (۳۱۲/۱)

ابن الحنفی کا قول ہے جس کی سند نہ کوئی نہیں (ابن ہشام ۱۹۱/۲ طبری ۳۸۰/۳) (بنو نضیر اگر چہ وطن چھوڑ کر نکلے، لیکن اس شان سے نکلے کہ جشن کا دھوکا ہوتا تھا.... اخ ۳۱۲/۱)

ابن الحنفی کی مرسل روایت ہے۔ (ابن ہشام ۱۹۱/۲ طبری ۳۸۰/۳) (ہتھیاروں کا ذخیرہ جوان لوگوں نے چھوڑا، اس میں پچاس زرہیں، پچاس خود اور تین سو چالیس (۳۲۰) تکواریں تھیں۔)

مولانا نے اس تفصیل کے سلسلے میں اپنے مأخذ کی ثابتی نہیں کی۔ لیکن اصل میں یہ تفصیلات والقدی نے کتاب المغاذی میں تحریر کی ہیں (ار ۳۷۳) وہیں سے ابن سعد نے بھی لیا ہے۔ (۵۸/۲)

☆ غزوہ ذات الرقاع (سب سے پہلے انمار اور غلبہ نے یہ ارادہ کیا (یعنی مدینے پر حملہ کا) لیکن آنحضرت ﷺ کو خبر ہو گئی۔ ۱۰ محرم ۵ھ کو آپ مدینے سے

۲۰۰ مصحاب کو لے کر نکلے اور (۳۱۳) مولانا نے ابن سعد کا حوالہ دیا ہے، لیکن ابن سعد کا مأخذ واقعی ہیں۔ (ابن سعد ۲۶۱، واقعی ۱۴۹۵)

☆ دومنہ الجند (ربیع الاول ۵ھ میں خبر آئی کہ دومنہ الجند میں ایک عظیم الشان فوج جمع ہو رہی ہے۔ آنحضرت ﷺ ایک ہزار کی جمیعت لے کر مدینے سے نکلے۔ ان کو خبر ہوئی تو وہ بھاگ گئے۔ (۳۱۳)

مولانا نے اس بیان کے لیے کوئی حوالہ نہیں دیا، لیکن انہوں نے یہ تفصیلات ابن سعد سے لی ہیں اور ابن سعد کا مأخذ واقعی ہیں۔ (ابن سعد ۲۶۱، واقعی ۱۴۹۵-۳۰۳)

☆ حدیث الحمس (قریش نے اپنا لقب حمس رکھا، اس کی وجہ اور اس سلطے کی دوسری تفصیلات اور (۳۱۳-۳۱۴) ابن الحنفی کا قول ہے، جس کی سند نہ کوئی نہیں۔ (ابن ہشام ۱۹۹)

☆ غزوہ بنی المصطافیق (غزوے کا سبب، اس کا نام اور تاریخ، مقتولین اور قیدیوں کی تعداد، مال غنیمت کی تفصیلات (۳۱۴) مولانا نے ابن سعد کا حوالہ دیا ہے لیکن ابن سعد کا مأخذ واقعی ہیں۔ (ابن سعد ۲۶۱-۲۶۲، واقعی ۱۴۹۵-۳۰۳)

☆ (مهاجرین و انصار کے درمیان بعض منافقین کی فتنہ گری کی کوششیں، پھر بچاؤ، عبد اللہ بن ابی کام مناقبتہ کردار اور (۳۱۵) ابن الحنفی کی مرسل روایت ہے۔

(ابن ہشام ۲۹۰-۲۹۳، طبری ۶۳-۶۵)

☆ تزویج حضرت جویریہ (اصل واقعی یہ ہے کہ حضرت جویریہ کا باپ رئیس عرب تھا..... چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان سے شادی کرنی (۳۱۸)

ابن سعد کی یہ روایت ارجو قلابے سے مرسل مروی ہے (ابن سعد ۱۱۸/۸)

☆ (ابن سعد نے طبقات میں یہ روایت بھی کی ہے کہ حضرت جویریہ کے والد نے ان کا زرفدیہ ادا کیا اور جب وہ آزاد ہو گئیں تو آنحضرت ﷺ نے ان سے نکاح کیا۔ (۳۱۸)

ابن سعد کی یہ روایت واقعی کے طریق سے مروی ہے۔ (ابن سعد ۱۱۷/۸)

مما و مشکلات

۸۶

☆ غزوہ خندق (رساء بن فضیر کا مکہ جا کر قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا، اگر ہمارا ساتھ دلو تو اسلام کا استیصال کر دیا جاسکتا ہے۔) (۲۲۰/۱)

ابن الحنفی کی مرسل روایت ہے، یہ روایت انہوں نے عبد اللہ بن کعب بن مالک محمد بن کعب القرطی اور زہری سے حاصل شدہ معلومات کو جمع کر کے نقل کی ہے۔

(ابن ہشام ۲۱۳/۲)

☆ (عطفان، بنو سعد، بنو سیم اور بنو سعد کی قریش اور بنو فضیر کے ساتھ شرکت۔ ۲۲۰/۱)

مولانا نے ابی سعد کا حوالہ دیا ہے۔ لیکن ابی سعد کا مأخذ و اقدی ہیں۔

(ابن سعد ۲/۲۶، واقدی ۲/۲۲۲-۲۲۳)

☆ (یہ شکر تین مستقل نوجوں میں تقسیم تھا۔ عطفان کی فوجیں عینیہ بن حصن فزاری کی کمان میں تھیں جو عرب کا مشہور سردار تھا۔ بنو سعد طیجہ کی افسری میں تھے اور ابوسفیان پر سالار کل تھا۔) (۲۲۰/۱)

ابن سعد کا حوالہ دیا گیا ہے۔ لیکن ان کا مأخذ و اقدی ہیں (ابن سعد ۲/۲۶، واقدی ۲/۲۲۳)

☆ (آنحضرت ﷺ نے تین ہزار صحابہ کے ساتھ... خندق کی تیاریاں شروع کیں۔ یہ ذوق درہ ۵ھ کی تاریخ تھی، ۱/۲۲۱) حوالہ مذکور نہیں۔ مولانا کا بیان ابی سعد سے ماخوذ ہے اور ابن سعد کا مأخذ و اقدی ہیں۔ (ابن سعد ۲/۲۷، واقدی ۲/۲۲۰)

☆ (بنو قریظہ کی بد عہدی کی تفصیلات ۱/۲۲۳)

ابن الحنفی کا قول ہے جس کی سند مذکور نہیں۔ (ابن ہشام ۲/۲۲۰)

☆ (محاصرہ کی تھی کی ہا پر آنحضرت ﷺ کا مدینے کی ایک تھائی پیداوار پر عطفان سے ارادہ صلح، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ سے مشورہ ان دونوں حضرات کی عدم رضا مندی (۲۲۵/۱)) امام زہری کی مرسل روایت ہے جو ابن الحنفی نے نقل کی ہے۔ (ابن ہشام ۲/۲۲۳، طبری ۳/۲۷-۲۸)

☆ (حملہ عام، بعض قریشی سرداروں کا خندق کو عبور کر لیا، حضرت علی اور عمر بن ڈو کا کام کالہ م مقابلہ۔ ۱۷-۳۲۶)

مولانا نے ابن سعد اور انجیس کا حوالہ دیا ہے، لیکن مذکورہ بالا امور سے متعلق انہوں نے جو جزئیات و تفصیلات قلمبند کی ہیں وہ عمومی تغیر کے ساتھ تقریباً لفظ بالفاظ واقعی سے ماخوذ ہیں (کتاب الحمازی ۲۷۱-۲۷۲)

☆ (اس (عمر بن ڈو) نے کہا میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ آپ (حضرت علی) نے فرمایا لیکن میں چاہتا ہوں۔ عمر واب غصے سے بے تاب تھا۔ پر تسلی سے تکوار نکالی اور آگے بڑھ کر وار کیا۔ ۱۷-۳۲۷)

یہ ابن اخْلَق کا قول ہے جس کی سند نہ کوئی نہیں (ابن ہشام ۲۲۵/۲)

☆ (قاموس میں لکھا ہے کہ حضرت علی کو ذوالقرنین بھی کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی پیشانی پر دوزخوں کے نشان تھے.... الخ ۲۲۸/۱)

صاحب انجیس کا بیان ہے جس کی سند نہ کوئی نہیں (انجیس ۱۷-۳۸۷)

☆ (ضرار اور جیرہ کا حملہ، حضرت علی کا دفاع۔ حضرت عمرؓ کی جانب سے ضرار کا تعاقب، ضرار کا حضرت عمر پر بر جھے سے وار، لیکن پھر انجیس چھوڑ دیا اور یہ کہنا کہ عمر اس احسان کو یاد رکھنا ۱۷-۳۲۸) مولانا نے انجیس کا حوالہ دیا ہے، دباؤ یہ بیان الکلاعی کی الاکتفاء کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، لیکن اس کی سند نہ کوئی نہیں۔ (انجیس ۱۷-۳۸۷)

☆ (نوفل بھاگتے ہوئے خندق میں گرا۔ صحابہ نے تیز مارنے شروع کیے۔ اس نے کہا مسلمانو! میں شریفانہ موت چاہتا ہوں حضرت علیؓ نے درخواست منظور کی اور خندق میں اتر کر کوarse مارا کہ شریفوں کے شایان تھا ۱۷-۳۲۸)

ابن اخْلَق کی روایت ہے، جسے طبری نے نقل کیا ہے (۳۸۳-۳۹۳) حافظ ابن کثیر اسکو غریب کہا ہے نہ ہذا غریب من و جهیں (المبدیۃ والتجہیۃ ۱۰۲/۳)

☆ غزوہ بنی قریظہ (قریظہ نے احزاب میں علامیہ شرکت کی اور شکست

کما کہت آئے تو اسلام کے سب سے بڑے دشیں جی بن اخطب کو ساتھ لائے
(ابن الحنفی کا قول ہے جس کی سند نہ کوئی نہیں (ابن هشام ۲۳۵/۲، طبری ۳۷۳/۱))

☆ (جب حضرت علی ان کے قلعوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے علائیہ آنحضرت
علیہ السلام کو (نحوذ باللہ) گالیاں دیں اور ۲۳۵/۱) ابن الحنفی کا قول ہے جس کی سند نہ کوئی نہیں
(ابن هشام ۲۳۳/۲، طبری ۳۷۳/۲)

☆ (مقتل میں جی بن اخطب کی گفتگو ارجمند ۳۳۶-۳۳۷) ابن الحنفی کا قول ہے
جس کی سند نہ کوئی نہیں۔ (ابن هشام ۲۳۱/۲، طبری ۵۶۳/۲)

☆ سلطین کو اسلام کی دعوت (حدیبیہ کی صلح سے کی تدریط میان نصیب ہوا تو وقت
آیا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا کے کافنوں میں پہنچا دیا جائے... جو لوگ خطوط لے کر گئے ان کی
تفصیل یہ ہے... ارجمند ۳۶۲/۱)

یہ ابن هشام کی روایت ہے لیکن اس کی سند میں انتظام ہے (۶۰۶/۲)
طبری کے یہاں بھی یہ روایت ہے لیکن واقعی کے طریق سے ہے۔ (۸۵-۸۳/۳)
☆ (کرمی کے نام آنحضرت علیہ السلام کا خط) ”خرونے اس کو اپنی تحقیر سمجھا اور
بولا کہ میرا غلام ہو کر مجھ کو یوں لکھتا ہے“ ۳۶۸/۱ یہ یزید بن ابی جبیب کی مرسل
روایت ہے۔ (طبری ۹۱-۹۰/۳)

☆ (مکتب نبوی کے جواب میں نجاشی کا خط) ”نجاشی نے اپنے بیٹے کو سامنہ
محاجموں کے ساتھ بارگاہ اور رسالت میں عرضی نیاز کے لیے بھیجا، لیکن چہاں سند رہ میں
ڈوب گیا، اور یہ سفارت ہلاک ہو گئی“ ۱۰۰/۲-۲۷۰) ابن الحنفی کی روایت ہے، جس کی سند
نہ کوئی نہیں۔ (طبری ۸۹/۳)

ابن هشام نے اسے حذف کر دیا ہے۔

☆ زواج حضرت ام حبیبہ (جو لوگ بھرت کر کے جہش چلے گئے تھے، ان میں
حضرت ام حبیبہ (حضرت امیر محاویہ کی بیوی) بھی تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا
تھا اس لیے آنحضرت علیہ السلام نے نجاشی کو لکھ کر بھیجا کہ ام حبیبہ کو شادی کا پیغام سنا دو اور
میرے پاس بیٹھ دو... ارجمند ۳۷۴)

مولانا شیلی بحیثیت سیرت نگار

مولانا نے اس سلسلے میں جو جزئیات اور تفصیلات قلم بند کی ہیں، ان کے لیے سید سلیمان ندوی نے طبری کا حوالہ دیا ہے۔ لیکن طبری کی روایت واقعی کے طریق سے مردی ہے۔ (طبری ۳۷۰-۸۹۰)

☆ (مکتب نبی ﷺ کے جواب میں موقوس (عزیز مصر) کا خط اور ہدایا و تھائے کی تفصیلات ارجاع ۲۷۲-۳۷۲) مولانا نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ انہوں نے اس خط کا متن طبقات ابن سعد سے نقل کیا ہے اور ابن سعد نے واقعی اور دیگر شیوخ کے واسطے سے اس کی روایت کی ہے۔ (ابن سعد ۲۶۰)

☆ خیبر (غزوہ خیبر کی تمهید میں سریہ اسیر بن رزام کی جزئیات تفصیلات ۵۷۵-۴۷۲) مولانا نے ان تفصیلات کے لیے طبقات ابن سعد کا حوالہ دیا ہے لیکن ابن سعد کا مأخذ واقعی ہیں، جیسا کہ طبقات ابن سعد اور کتاب المغازی کے مقابلے سے واضح ہے۔ (ابن سعد ۹۰۲، واقعی ۲۶۶)

☆ (ای زمانے میں راس المذاقین عبداللہ بن ابی بن سلوان نے اہل خیبر کے پاس کہلا بھیجا کہ محمد ﷺ تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم ان سے نہ ڈرتا، ان کی ہستی کیا ہے؟... یہود نے یہ سن کر کنانہ اور ہودہ بن قیس کو غطفان کے پاس بھیجا کہ ہمارے ساتھ مل کر مدد پر حملہ کرو تو نخلستان کی نصف پیداوار تم کو دیں گے۔ اخ ۱۷۸۱)

صاحب انہیں کا بیان ہے، جس کی سند نہ کوئی نہیں (انہیں ۲۳۳)

☆ (خیبر کے یہود کے ساتھ بخواہ کا عہد کہ ہم تھمارے شریک ہو کر مسلمانوں سے لا ریس گے اخ امام زہری کی مرسیل روایت ہے۔

(بیہقی البدران للجموی ۱۷۲۲)

☆ (ذی قرد، محرم ۷۷) مولانا نے اس غزوہ سے کی بعض تفصیلات طبقات ابن سعد سے لی ہیں۔ لیکن ابن سعد کا مأخذ واقعی ہیں (ابن سعد ۸۰۲-۸۱۰، واقعی ۵۲۸-۵۳۱) اسی طرح بعض جزئیات ابن الحنف سے لی ہیں لیکن ان کی سند عامم بن عمر بن قاتم اور عبداللہ بن ابی بکر بن حزم تک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔

مودود مشتغلات

۹۰

(ابن ہشام ۲۸۱/۳۔ دلائل المذوة للبيهقي ۱۸۷/۳ - ۱۸۷/۴)

☆ خیبر (جب آپ نے خیبر کا قصد کیا تو اعلان عام کر دیا کہ: لا یخرجن معنا الا راغب فی الجہاد (ابن سعد) ہمارے ساتھ وہ لوگ آئیں جو طالب جہاد ہوں۔ اب ۲۸۰) مولانا نے اس بیان کے لیے ابن سعد کا حوالہ دیا ہے۔ لیکن ابن سعد کا مأخذ و اقتدی ہیں۔ (ابن سعد ۲۰۶/۲، واقعی ۲۳۲/۲)

☆ (حضرت سباع بن عرفط غفاریؓ کو مدینے کا افسر مقرر کر کے مدینے سے روانہ ہوئے... اس وقت تک لڑائیوں میں علم کا روانج نہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی جمڈیاں ہوتی تھیں۔ یہ پہلا مرتبہ تھا کہ آپ ﷺ نے تم علم تیار کرائے۔ وہ حضرت حباب بن منذر اور حضرت سعد بن عبادہ کو عنایت ہوئے اور خاص علم بنبوی جس کا پھر یہ حضرت عائشہؓ چادر سے تیار ہوا تھا، جتاب امیر گور حست ہوا فوج جب روانہ ہوئی تو حضرت عامر بن الاؤع جو مشہور شاعر تھے، یہ رجز پڑھتے ہوئے آگے چلے۔ اب ۲۸۱) مذکورہ بالا جزئیات و تفصیلات مولانا نے ابن سعد سے لی ہیں اور ابن سعد کا مأخذ و اقتدی ہیں۔

(ابن سعد ۲۰۶/۲ او القردی ۲۳۹/۲)

☆ (جو کوئکہ معلوم تھا کہ غطفان الہ خیبر کی مد کو آئیں گے۔ آنحضرت ﷺ نے مقام رجیع میں فوجیں اتاریں جو غطفان اور خیبر کے بیچ میں ہے۔ اسباب بار برداری خیبر و خرگاہ اور مستورات یہاں چھوڑ دی گئیں۔ اب ۲۸۳)

حموی نے یہ تفصیلات بحیم البلدان میں ابن اسحاق سے نقل کی ہیں اور ابن الحنفی نے اپنی سندیں بیان کی۔ (بحیم البلدان ۳/۲۹)

☆ (غطفان یہ سن کر کہ اسلامی فوجیں خیبر کی طرف بڑھ رہی ہیں، بھیجا رج کر نکلے لیکن آگے بڑھ کر ان کو معلوم ہوا کہ خود ان کا گھر خطرہ میں ہے تو واپس چلے گئے۔ اب ۲۸۳) ابن الحنفی کا قول ہے، جس کی سند نہ کوئی نہیں۔ (ابن ہشام ۲۳۰/۲، طبری ۲۸۳)

(۹۲/۳)

☆ (اسلامی فوج جب خیبر کے سواد میں پہنچ گئی تو آپ نے یہ دعا مانگی: إنا

نسائل خیر هذه القرية (الغ ۳۸۷)

ابن الحنفی کی روایت ہے، لیکن اس کی سند منقطع ہے۔ (ابن حشام ۲۲۹/۲)

☆ (آنحضرت ﷺ کا مقصود جنگ نہ تھا لیکن جب یہود نے بڑے ساز و سامان کے ساتھ جنگ کی تیاری کی تو آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے وعظ فرمایا اور جہاد کی ترغیب دی۔ ارج ۲۸۵)

مولانا نے تاریخ غمیں کا عوالہ دیا ہے اور اس کی عبارت بھی نقل کی ہے لیکن صاحب غمیں نے نہ تو اپنے بیان کی کوئی سند ذکر کی اور نہ اپنے مأخذ کی نشاندہی کی۔ (ملاحظہ ہو غمیں ۲۵/۲)

☆ (صحابہ میں سے ۱۵ بزرگوں نے شہادت حاصل کی، جن کے نام ابن سعد نے تفصیل لکھے ہیں ارج ۳۸۹)

ابن سعد کے یہاں کوئی سند مذکور نہیں۔ مغازی و اقدی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بیان کیے ہوئے تمام نام و اقدی سے ماخوذ ہیں۔ یہاں تک کہ دونوں کی ترتیب اور بعض جملہ الفاظ اور عبارتیں بھی یکساں ہیں۔ مزید برآں یہ کہ دونوں نے مجموعہ میزان ۱۵ ابتدیا ہے اور نام ۷۶ اگنائے ہیں۔

(ابن سعد ۲/۱۰، و اقدی ۲/۶۹۹)

☆ (غزوہ موتہ) ”ارشاد ہوا کہ پہلے ان کو دعوت اسلام دی جائے۔ صحابہ نے پکار کر دعا کی کہ خدا اسلامت اور کامیاب لائے“ سیرت ارج ۵۰۶، مولانا کا پورا بیان ابن سعد سے ماخوذ ہے اور ان کا مأخذ و اقدی ہیں۔ (ابن سعد ۲/۱۲۸، و اقدی ۷۵۷، ۷۵۶/۲)

☆ ”فوج مدینہ سے روانہ ہوئی تو جاؤں نے شرحبیل کو خبر دی۔ پھر اس بے جگری سے لڑے کہ تکواروں سے چور ہو کر گر پڑے“ سیرت ارج ۵۰۷، ۵۰۶، ۱۱۷، تفصیلات ابن سعد نے و اقدی سے نقل کی ہیں۔

(ابن سعد ۲/۱۲۹، و اقدی ۲/۶۰، ۶۲-۷۴)

مودود مشکلات

☆ فتح مکہ (صلح حدیبیہ کے بعد بونوکر کا خزانہ پر حملہ ہوا، قریش کی طرف سے بونوکر کی مدد، خزانہ کا حرم میں پناہ لیتا، بونوکر کے رئیس، نوفل کا بونوکر کو اس کا کرم میں خوزیری کرنا۔ ۱۸۹-۵۰۹) (۵۱۰-۵۱۰)

یہ ابن الحنفی کی روایت ہے جس کی سند سیرہ ابن ہشام میں مذکور نہیں (ابن ہشام ۳۹۰۲) البتہ امام طحاوی نے ابن الحنفی کی اس روایت کو زہری سے مرسل نقل کیا ہے (شرح معانی الآثار ۱۸۷-۱۸۹) اس روایت کا ابتدائی حصہ عکرم سے بھی مروی ہے، لیکن وہ بھی مرسل ہے۔ (بحوالہ مذکورہ ۱۸۷-۱۸۹)

☆ (ابوسفیان کا مدینے آتا۔ حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ کو بیچ میں ڈالنا۔ مجبور ہو کر حضرت قاطرہ زہریؓ کے پاس جانا۔ آخر میں حضرت علیؓ کے ایما سے مسجد نبوی میں جا کر اعلان کرنا کہ میں صحابہ مدینیہ کی تجدید کر دی، اہل مکہ کا یہ تبرہ کہ یہ صلح ہے نہ جگ۔ ۱۸۹) (۵۱۱)

زہری اور عکرم سے مرسل مروی ہے (بحوالہ مذکورہ ۳۲۲/۳)

☆ (نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال نے باب کعبہ پر چڑھ کر اذان دی۔۔۔۔۔ عتاب بن اسید نے کہا خدا نے میرے باپ کی عزت رکھ لی کہ اس آواز کے سننے سے پہلے اس کو دنیا سے اخراج لیا۔ ۱۸۰) (۵۲۰)

ابن ہشام کا قول ہے، جس کی سند مذکور نہیں (ابن ہشام ۳۹۲)

☆ (متائم صفاتیں آپ ایک بلند مقام پر بیٹھئے، جو لوگ اسلام قبول کرنے آئے تھے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ مردوں کی باری ہو چکی تو مستورات آئیں۔۔۔۔۔) (۵۲۱)

مولانا نے کوئی حوالہ نہیں دیا ہے۔ ابن الحنفی کی روایت ہے جسے طبری نے نقل کیا ہے۔ یہ روایت حضرت قیادہ سے مرسل مروی ہے (طبری ۳۲۱)

☆ (عورتوں سے بیعت لینے کا یہ طریقہ تھا ان سے ارکان اسلام اور محاسن اخلاق کا اقرار لیا جاتا تھا پھر پانی کے ایک لبریز پیالے میں آنحضرت ﷺ دست

مولانا شیلی بھیت سیرت نگار

مبادر کر کر نکال لیتے تھے۔ آپ ﷺ کے بعد عورتیں اسی پیالے میں ہاتھ دالتی تھیں۔ (۵۲۱/۳)

مولانا شیلی نے یہاں بھی کوئی حوالہ نہیں دیا تھا۔ سید سلمان ندوی نے میں القوسین طبری کا حوالہ دیا ہے یہاں الحنفی کی روایت ہے جس کی سند اب ان بن صالح پر قائم ہو جاتی ہے (طبری ۱۲۱/۳)

☆ (ان مستورات میں ہند بھی آئی، جو رئیس العرب مقتبہ کی بیٹی اور امیر معاویہ کی ماں تھی، حضرت حمزہؓ کو اسی نے قتل کرایا تھا..... بیت کے وقت اس نے (نہایت دلیری بلکہ گستاخی سے) باتیں کی جو حسب ذیل ہیں، اخن (۵۲۱/۳)

مولانا نے یہاں بھی کوئی حوالہ نہیں دیا تھا۔ سید صاحب نے میں القوسین طبری کا حوالہ دیا ہے یہ روایت بھی ابن الحنفی کی ہے، جو حضرت قتادہ سے مرسلہ مروی ہے۔ (طبری ۱۲۱/۳)

☆ (عفوان بن امیہ کا جدہ بھائی جانا۔ عسیر بن وہب کی درخواست پر آنحضرت ﷺ کا علامت امان کے طور پر اپنا عمامہ عنایت فرمانا۔ اخن (۵۲۲/۱)

ابن الحنفی کی روایت ہے جو حضرت عروہ بن زبیر سے مرسلہ مروی ہے۔

(طبری ۱۲۱/۳، اخن ہشام ۲۴۷/۱)

☆ (ابو جہل کے بیٹے عکرمہ یمن چلے گئے۔ لیکن ان کی حرم (ام حکیم) نے آنحضرت ﷺ سے امان لی اور جا کر یمن سے لا کیں۔ اخن (۵۲۲/۱)

ابن الحنفی کی یہ روایت امام زہری سے مرسلہ نقل کی گئی ہے (طبری ۱۲۲/۲)

ابن ہشام ۲۴۸/۲

☆ (عبداللہ بن زبیری نجراں بھائی گئے۔ لیکن پھر آکر اسلام لائے۔ (۵۲۲/۱)

ابن الحنفی کی روایت ہے جس کی سند سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت پر ختم ہو جاتی ہے۔ (ابن ہشام ۲۴۸/۲)

☆ ہوازن و ثقیف۔ (غزوہ حسن و اد طاس و طائف) (۵۳۶/۱-۵۳۰)

ان غزوات سے متعلق مولانا شبلی کے پیشتر بیانات و اقدی کی کتاب المخازی سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ماخوذ ہیں۔ اگرچہ کہیں واقدی کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے۔ ذیل میں سیرۃ النبی کی ایسی عبارتوں کی مختصر طور پر نشاندہی کی جاتی ہے:-

☆ حنین (فتح کہ کے بعد ہوازن و ثقیف کی مسلمانوں کے خلاف عام ملنے کی سازش) فتح کہ کے بعد جملہ کر دیا جائے (سیرۃ النبی ارجمند ۵۳۱-۵۳۰) (۸۸۵/۳)

☆ (جو شکاری عالم تھا کہ ہر قبیلہ اپنے اہل دعیاں لے کر آیا تھا۔ ان کی حفاظت کی غرض سے لوگ جانیں دے دیں گے۔ سیرۃ النبی ارجمند ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵) (۸۸۷/۳)

☆ (اس مہر کے میں اگرچہ ہوازن اور ثقیف کی تمام شاخیں شریک تھیں تاہم کعب اور کلب الگ رہے۔ بدعتی سے اگر تھکست ہوئی تو عورتوں کی وجہ سے اور بھی ذات ہوگی۔ درید بن الصمرہ شاعر کی اپنے قبائل سے گفتگو) (سیرۃ النبی ارجمند ۵۳۲-۵۳۱، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵) (۸۸۶/۳)

☆ پھر پوچھا کعب اور کلب بھی شریک ہیں یا نہیں؟۔۔۔ آپ خرف ہو چکے آپ کی عقل بیکار ہو چکی، (سیرۃ النبی ارجمند ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵) (۸۸۶/۳)

سیرہ و ایت طبری اور ابن ہشام کے بیباں بھی ان احتجت سے منقول ہے لیکن اس کی سند نہ کوئی نہیں (طبری ۱۲۵/۳-۱۲۷، ابن ہشام ۲۷۰-۲۷۱ و مابعد)

☆ (رسول اللہ ﷺ کو ان واقعات کی خبر پوچھی تو آپ نے تصدیق کے لیے حضرت عبد اللہ ابن ابی حدرہ کو بھیجا وہ جاسوس بن کریمین میں آئے اور کہی دن تک فوج میں رہ کر تمام حالات تحقیق کیے۔ سیرۃ النبی ارجمند ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵) (۸۸۶/۳)

☆ (غزوہ حسن میں چھ بزرگ اسی سرتھے، سب چھوڑ دیے گئے اور آپ نے ان کے پہنچنے کے لیے چھ بزرگوں سے عنایت فرمائے۔ چنانچہ ابن سحد نے اس واقعہ کی تصریح کی ہے۔ ۶۱۱/۱)

مولانا کی بیان کردہ یہ تفصیلات ابن سعد کے یہاں نہیں ملتیں۔ انہوں نے اس واقعہ کا اجمالاً ذکر کیا ہے۔ البتہ واقعی کی کتاب المغازی میں یہ تفصیلات مذکور ہیں۔ (کتاب المغازی ۹۲۳/۳)

☆ اوطاس (حضرت ربیعہ بن رفیع کے ہاتھوں درید المصیرہ کا قتل) ذریعہ ایک شتر پر ہودج میں سوار تھا..... خدا کی قسم دریے نے تیری تین ماوں کو آؤ اور کرایا تھا، (سیرۃ النبی ارم ۵۲۰، واقعی ۹۱۳/۳-۹۱۵) طبری اور ابن ہشام نے ابن الحنف کے حوالے سے بھی یہ روایت نقل کی ہے، لیکن اس کی سند نہ کوئی نہیں۔

(طبری ۹۱۳/۳، ابن ہشام ۹۱۳/۳)

☆ (اسیر ان جگ میں آنحضرت ﷺ کی رضائی بہن حضرت شیماءؑ کی گرفتاری۔ آنحضرت ﷺ کا ان کے ساتھ حسن سلوک) ان میں حضرت شیماءؑ بھی تھیں..... اور گھر جانا چاہو تو وہاں پہنچا دیا جائے.... چنانچہ عزت و احترام کے ساتھ پہنچا دی گئیں۔ (سیرۃ النبی ارم ۵۲۰، واقعی ۹۱۳/۳-۹۱۵)

مولانا نے طبری اور اصلبۃ کا حوالہ دیا ہے۔ طبری کی روایت جو ابن ہشام کے یہاں بھی موجود ہے انہن الحنف سے مردی ہے۔ انہن الحنف نے حضرت شیماءؑ سے متعلق دو روایتیں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت کی کوئی سند نہ کوئی نہیں۔ دوسری روایت کی سند یہ ہے بن عبد اللہ بن عبید اللہ سعدی پر ختم ہو جاتی ہے۔ (ابن ہشام ۹۱۳/۳، طبری ۹۱۵/۳)

اصلبۃ میں حافظ ابن حجر نے ابن الحنف اور واقعی کی روایتوں کو جمع کر دیا ہے۔ (اصبابہ ۳۳۲/۳) حضرت شیماءؑ کے ساتھ اعزاز و اکرام کی ایک روایت حافظ ذہنی نے بھی نقل کی ہے، لیکن یہ فقادہ سے مرسلہ مردی ہے، نیز اس کا راوی حکم بن عبد الملک ضعیف ہے۔ (تاریخ الاسلام ۱/۶۰۱)

☆ محلصہ طائف، شیمن کی بقیہ بھکست خورده فوج طائف میں جا کر پناہ گزیں ہوئی اور جگ کی تیاریاں شروع کیں۔ (سیرۃ النبی ارم ۵۲۰، واقعی ۹۱۳/۳)

☆ عروہ بن مسعود اور غیلان بن سلمہ نے خوش میں جا کر قلعہ شکن آلات یعنی

دتا بہ، خبیر اور مجتہد کے ہنانے اور استعمال کرنے کا فن سیکھا تھا۔ (سیرۃ النبی ار ۵۳۱، واقعی ۹۲۲/۳)

مولانا نے اس بیان کے لیے، طبری اور ابن الجنح کا حوالہ دیا ہے۔ طبری کے یہاں بھی یہ روایت ابن الجنح کے حوالے سے ہی مقول ہے۔ لہذا دونوں روایتیں اصل کے حوالے سے ایک ہوئیں۔ مزید یہ کہ ابن الجنح نے اس بیان کے لیے کوئی سند ذکر نہیں کی۔ (طبری ۳/۱۳۲، ابن ہشام ۳/۲۸۸)

☆ یہاں ایک محفوظ قلعہ تھا۔ اہل شہر اور ختن کی نگست خورده فوج نے اس کی مرمت کی۔ سال بھر کا سامان رسد جمع کیا۔ (سیرۃ النبی ار ۵۳۱، ابن سعد ۲/۱۵۸، واقعی ۹۲۲/۳)

☆ اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ قلعہ میکن آلات یعنی دتا بہ اور مجتہد استعمال کیے گئے۔ دتا بہ پر اہل قلعہ نے لو ہے کہ گرم سلاحیں بر ساریں اور شدت کی تیرباری کی کہ حمل آوروں کو ہٹانا پڑا۔ (سیرۃ النبی ار ۵۳۲، مغازی واقعی ۳/۹۲۸-۹۲۸)

ابن الجنح کے یہاں بھی یہ مضمون موجود ہے، لیکن انہوں نے اپنی سند نہیں بتائی۔ (ابن ہشام ۳/۲۸۲)

☆ آنحضرت ﷺ نے نوفل بن معاویہ کو بلا کر پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا لمذری بحث میں محسن گئی ہے، اگر کوشش جاری رہی تو پکڑ لی جائے گی، لیکن چھوڑ دی جائے تب بھی کوئی اندیشہ نہیں۔ (سیرۃ النبی ار ۵۳۲، ابن سعد ۲/۱۵۹، واقعی ۹۲۲/۳)

☆ صحابہ نے عرض کی آپ ان کو پددعا دیں۔ آپ نے یہ دعا دی: اللهم اهد
قہیا وانت بهم، (سیرۃ النبی ار ۵۳۲، ابن سعد ۲/۱۵۱، واقعی ۳/۹۷۳)

ابن الجنح کے یہاں بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن سند ذکر نہیں۔ (۳/۲۸۸)

کامضمون حضرت عروہ سے بھی سروی ہے، لیکن یہ روایت بھی مرسل ہے۔
(تاریخ الاسلام ۱/۵۹۶)

☆ (نقسیم غنائم) "محاصرہ چھوڑ کر آپ ہزار نہ تشریف لائے۔ غنیمت کا بے شمار ذخیرہ تھا جو ہزار اسران جنگ، چونکہ ہزار اونٹ، چالیس ہزار سے زائد بکریاں اور چار ہزار اوقیٰ چاندی تھی۔" (سیرۃ النبی ۱/۵۳۲، ابن سعد ۱۵۲/۲، واقعیٰ ۳/۹۲۹-۹۳۳)

☆ آنحضرت ﷺ نے لوگوں کو نہایت فیاضانہ انعامات دیے، جن کی تفصیل یہ ہے..... ہر سوار کے حصے میں پارہ اونٹ اور ایک سو ہیں بکریاں آئیں۔

(سیرۃ النبی ۱/۵۳۲-۵۳۳، ابن سعد ۱۵۲/۲، واقعیٰ ۳/۹۲۹-۹۳۳)

☆ (غزوہ تبوک) شام کے نہضی سو دا گردینے میں روشنیں زیتون پیچنے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے خبر دی کہ رومیوں نے شام میں لشکر گراں جمع کیا ہے اور فوج کو سال بھر کی تجوہ میں تقسیم کر دی ہیں۔ اس فوج میں نعم، جذام اور عصان کے تمام عرب شامل ہیں اور مقدمہ لجھش بلقاء آگیا ہے۔ (۵۶۳/۱)

ان تفصیلات کے لیے مولا نانے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ لیکن یہ تمام تفصیلات اسی ترتیب کے ساتھ واقعی کی کتاب المغازی میں موجود ہیں (۹۹۰/۳) ابن سعد نے طبقات میں اس کی ترجیح کر دی ہے۔ (۱۶۵/۲)

☆ سو یالم ایک یہودی تھا، اس کے گمراہ منافقین جمع ہوتے ہیں اور لوگوں کو لڑائی پر جانے سے روکتے (۵۶۳/۱) یا ابن ہشام کی روایت ہے لیکن وہ نہ اپنے استاد کا نام بتاتے ہیں اور نہ استاد کے استاد کا نام بتاتے۔ اس لیے روایت "مشعل" ہے ان کے الفاظ ابتدائے سند میں یہیں وحدتی الثقة عن حديثه .. (ابن ہشام ۲/۵۱)

☆ آنحضرت ﷺ نے تمام قبائل عرب سے فوجیں اور مالی اعانت طلب کیں (۵۶۳/۱) مولا نانے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ سید سلیمان ندوی نے میں القویین ابن سعد کا حوالہ دیا ہے۔ ابن سعد کی عبارت یہ ہے: وبعث إلى مكة وإلى قبائل العرب يستنصرهم إلى غزوهם۔ (۱۶۵/۲) یا الفاظ واقعی کی کتاب المغازی سے ماخوذ ہیں: وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْقَبَائِلِ وَإِلَى مَكَّةَ يَسْتَنْصَرُهُمْ إِلَى

غزوہم۔ (وائلی ۹۹۰/۳)

☆ غرض آپ تک ہزار فوج کے ساتھ مدینے سے تکلی، جن میں دس ہزار گھوڑے تھے، (۵۶۵) مولانا نے ابن سعد کا حوالہ دیا ہے لیکن ان کا مأخذ و اقدی ہیں۔ حتیٰ قدم تبوك فی ثلاثین ألفاً من الناس، والخيل عشرة آلاف فرسن (ابن سعد ۱۶۶، ۲) وکان الناس مع رسول اللہ ﷺ ثلاثين ألفاً ومن الخيل عشرة آلاف فرسن۔ (وائلی ۱۰۰۳/۳)

☆ مسجد ضرار "آخرت علیہ السلام" جب تبوك تشریف لے جائے گے..... جب تبوك سے واپس پھرے تو مالک اور معن بن عدی کو حکم دیا کہ جا کر مسجد میں آگ لگادیں۔ (۵۶۸-۵۶۷)

ابن الحنفی نے زہری، یزید بن رومان، عبید اللہ بن ابی بکر اور عاصم بن عمر بن قادة سے مرسلاً نقل کیا ہے۔ (ابن بشام ۵۳۰-۵۲۹، تفسیر طبری ۱۱، ۲۲۳، تفسیر ابن کثیر ۳۸۸، ۲)

☆ سریۃ غطفان - اس سلسلے میں مولانا نے ابن سعد کے حوالے سے جو عبارت نقل کی ہے وہ لفظ بالفظ و اقدی کی کتاب المغازی میں موجود ہے۔ (سیرۃ النبی ۱/۱، ۵۹۱، ابن سعد ۳۲۲ و اقدی ۱۹۷)

☆ (سریۃ ابو سلمہ) مولانا نے یہاں بھی ابن سعد کی عبارت نقل کی ہے، لیکن ابن سعد کا مأخذ و اقدی ہیں۔

(سیرۃ النبی ۱/۱، ۵۹۱، ابن سعد ۲/۵۰، و اقدی ۱۳۱)

☆ (سریۃ عبدالله بن انس) یہاں بھی وہی صورت حال ہے، جس کا اوپر ذکر کیا گیا۔ ابن سعد کی عبارت میں وہن و اقدی سے منقول ہے۔ (سیرۃ النبی ۱/۱، ۵۹۱، ابن سعد ۲/۵۰، و اقدی ۱۳۱)

☆ (غزوۃ ذات الرقاب) مولانا نے ابن سعد کے حوالے سے عبارت نقل کی ہے جس کا مأخذ و اقدی ہیں۔ (سیرۃ النبی ۱/۱، ۵۹۱، ابن سعد ۲/۶۱، و اقدی ۱۹۵)

مولانا شبلی بحیثیت سیرت ثانی

- ☆ (غزوہ نومۃ الجنۃ) حسب سابق ابن سعد کی عبارت والقدی سے ماخوذ ہے۔ (سیرۃ البی ارج ۵۹۲، ابن سعد ۲۲۷، والقدی ارج ۳۰۳)
- ☆ (غزوہ مرویسیع) حسب سابق ابن سعد کی روایت مکوئی و مکوئی والقدی سے ماخوذ ہے۔ (سیرۃ البی ارج ۵۹۲، ابن سعد ۲۳۳، والقدی ارج ۳۰۴)
- ☆ (سریۃ علی بن ابی طالب جانب فدک) یہاں بھی وہی صورت ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا۔ (سیرۃ البی ارج ۵۹۳، ابن سعد ۲۹۰، والقدی ارج ۵۶۲)
- ☆ (سریۃ بشیر بن سعد) حسب سابق (سیرۃ البی ارج ۵۹۳، ابن سعد ۱۲۰، والقدی ارج ۲۷۷)
- ☆ (سریۃ زید بن حلوہ جانب ام قرفہ) مولانا نے ابن سعد کا حوالہ دیا ہے، لیکن ان کا مأخذ والقدی ہیں۔ (سیرۃ البی ارج ۵۹، ابن سعد ۲۹۰، والقدی ارج ۵۶۵-۵۶۶)
- ☆ (سریۃ زید بن حلوہ جانب حسنی) (حضرت دیوبھی کے لوٹے جانے کا واقعہ) مولانا نے ابن سعد کا حوالہ دیا ہے، لیکن ان کا مأخذ والقدی ہیں۔ (سیرۃ البی ارج ۵۹، ابن سعد ۲۸۸، والقدی ارج ۵۵۵)
- ☆ (غزوہ بنو سلیم) مولانا نے ابن سعد کے حوالے سے جو عبارت نقل کی ہے، اس کا مأخذ والقدی کتاب المغازی ہے۔ (سیرۃ البی ارج ۲۰۱، ابن سعد ۲۳۵، والقدی ارج ۱۹۶)
- ☆ (غزوہ ذات الرقاع) حسب سابق (سیرۃ البی ارج ۲۰۱، ابن سعد ۲۱۱، والقدی ارج ۳۹۶)
- ☆ (سریۃ عکاشہ) حسب سابق (سیرۃ البی ارج ۲۰۱، ابن سعد ۲۶۵، والقدی ارج ۵۵۰)
- ☆ (غزوہ بنو لحیان) حسب سابق (سیرۃ البی ارج ۲۰۲، ابن سعد ۲۷۹، والقدی ارج ۵۳۶)

☆ (سریہ عربین الخطاب جل قب توبہ) حسب سابق (سیرۃ النبی ﷺ، ابن سعد ۲/۱۷، واقدی ۷۲/۲)

☆ (سریہ کعب بن عمیر جانب ذات اطلاح) مولانا نے ابن سحد کے حوالے سے اس سریہ کا واقعہ نقل کیا ہے اور آخر میں ابن سحد کی ایک مختصر عبارت درج کی ہے۔ حالانکہ ابن سحد نے آغاز سند ہی میں تصریح کر دی ہے کہ یہ روایت واقدی سے مردی ہے۔ (سیرۃ النبی ﷺ، ابن سعد ۲/۱۷، واقدی ۷۵/۲)

☆ (سریہ خالد بن الولید جانب بنو جنیہ) حسب سابق یہاں بھی مولانا نے ابن سحد کا حوالہ دیا ہے، لیکن ان کا مأخذ واقدی ہیں (سیرۃ النبی ﷺ، ابن سعد ۲/۱۳، واقدی ۸۷۵/۳)

☆ (علامہ طبری اس موقع پر لکھتے ہیں: قد کان رسول اللہ ﷺ بعث فيما حول مکة السرایا تدعوا إلى الله عزوجل ولم يأمرهم بقتال (۲۰۵) طبری کا یہ بیان ابن الحنفی سے مردی ہے۔ لیکن ابن الحنفی نے اس کی سند نہیں بیان کی۔ (طبری ۲/۱۲۲، ابن رشام ۲/۳۸۸)

☆ (قبیله مزینہ کا اسلام) سب سے پہلے جو سفارت آئی، وہ قمیلہ مزینیہ کی تھی، اس میں چار سو آدمی شریک تھے..... فرمایا تم جہاں رہو مہاجر ہو، مولانا نے ابن سحد کا حوالہ دیا ہے۔ لیکن ابن سحد کی یہ روایت (۱۹۲) واقدی کے طریق سے مردی ہے۔ (ابن سعد ۱/۲۹۱)

☆ (بحرین میں اسلام) ۸ھ میں آنحضرت ﷺ نے علاء حضری کو تبلیغ اسلام کے لیے بحرین بیجا۔ اس زمانے میں یہاں منذر بن سادوی گورز تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ تمام عرب اور جو کچھ گم جو یہاں مقیم تھے مسلم ہوئے، (۳۷۲) مولانا نے بلاذری کی تلوخ البلدان کا حوالہ دیا ہے۔ لیکن بلاذری نے اس روایت کی سند نہیں بتائی۔ (۱۰۷)

☆ (وفود عرب) (مزینہ) ۵ھ میں اس قبیلے کے چار شخص قبیلے کے

سفیر بن کرآنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئے اور اسلام لائے۔ (۳۷۲) مولانا اصحابہ کا حوالہ دیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے مسند احمد کے حوالے سے روایت نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ اس کے رجال ثقہ ہیں، لیکن سند میں انقطاع ہے، ”رجالہ ثقات لکھنے منقطع“ (اصابہ ۳/۵۶۵)

☆ (وفد نومن) دوں عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ طفیل کی ترغیب اور ہدایت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسی (۸۰) خاندان جن میں ابو ہریرہؓ بھی تھے، تحریر کر کے مدینہ پہنچے آئے۔ (۳۲۲)

ابن الحنفی کی روایت ہے جس کی سند نہ کوئی نہیں۔ (زاد المعاذ ۳/۶۲۶-۶۲۷)

☆ (وفد ثقیف) آنحضرت ﷺ کی خدمت میں برض کی ہم منات کو ہاتھ نہیں لگاسکتے، آپ جو چاہیں کریں۔ آپ نے یہ درخواست منظور کر لی۔ (۳۷۲) مولانا نے موسیٰ بن عقبہ کی المغازی کے حوالے سے یہ تفصیلات نقل کی ہیں۔ بیہقی کی دلائل المنوۃ میں ابن عقبہ کی یہ روایت موجود ہے، لیکن خود موسیٰ بن عقبہ نے اس کی سند نہیں بیان کی۔ (دلائل المنوۃ ۵/۴۹۹-۵۰۳)

☆ (وفد کنڈہ) یہ حضرموت کے اضلاع میں سے ایک شہر تھا۔ اس زمانے میں اس خاندان کے حاکم افعون بن قیس تھے۔ یہ شاہی میں اسی (۸۰) سواروں کے سائبھ بڑی شان و شوکت سے حیرہ کی چادریں جن کے خلاف حریر کے تھے کا نہ صوں پر ڈالے بارگاؤں بھی میں حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے فوراً چادریں پھاڑ پھاڑ کر زمین پر ڈال دیں۔ (۵۶۲)

ابن الحنفی کی یہ روایت امام زہری سے مرسلہ مروی ہے (ابن ہشام تلبیی ۵/۴۰۵-۵۸۵)

☆ (ذکرہ) قیمۃ کم کے بعد آنحضرت ﷺ نے تمام ممالک مقبولہ میں زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لئے مصلحتی مقرر کیے۔ (۱۴۴/۲) این الحنفی کی روایت ہے، جس کی سند عبداللہ بن ابی کبر بن حزم پر قائم ہو جاتی

ہے۔ (طبری ۳/۱۶۷)

☆ وفات (جمیعت و علیؑ) (حضرت علیؑ نے جسم مبارک کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ حضرت عباس اور ان کے صاحب زادے قم اور فضل جسم مبارک کی کروشیں بدلتے تھے اور امام شعب بن زید اور پرستے پانی ذاتے تھے۔ (۱۸۵/۲)

طبری نے اس روایت کو ابن الحنفی کے طریق سے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے نقل کیا ہے، لیکن اس کی سند میں انقطاع ہے (طبری ۲/۲۰۷) سیرۃ ابن ہشام میں بھی ابن الحنفی کی یہ روایت موجود ہے، لیکن اس کی سند عبد اللہ بن ابی بکر بن حزم اور حسین بن عبد اللہ پڑھتہ ہو جاتی ہے۔ (ابن ہشام ۲/۲۶۶)

☆ (پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے نماز پڑھی۔ ۱۸۶/۲) اس ترتیب کے لیے مولانا نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ جس روایت میں یہ ترتیب مذکور ہے وہ ابن سعد نے واقعی سے نقل کی ہے۔ (۱۲۹۱/۲ ابن سعد)

تجزیہ و تبصرہ :

سیرۃ النبیؑ کے مواد مشتملات کا یہ تجزیہ تجھیس سے کہیں زیادہ طویل و غریض ہو گیا۔ حالانکہ ہم نے سیرۃ النبیؑ کے زیر بحث ابواب، موضوعات اور اقتباسات کے حوالوں اور نشان دہی کے سلسلے میں حتی الامکان ایجاد و اختصار سے کام لیا ہے۔ تاہم اس بحث کو اس قدر طویل ہوتا ہی تھا۔ کیونکہ اس کے بغیر ہمارا یہ دھوکی کسی طور پر قابل قبول تو در کنار قابل سماع بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ علامہ شبیل کی تحریر کردہ سیرۃ النبیؑ کی ڈیزی ۷ جلدوں میں مذکور روایات و ادعیات میں ۵۰ فیصد کے بقدر کم مستند یا غیر مستند ہیں۔

واضح رہے کہ کم مستند یا غیر مستند روایات کی اس فہرست میں ابھی بہت کم اضافے کی تعداد میں باقی ہے، جس کی تعداد سو تک بھی بہت سکتی ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ راقم نے فہرست مذکور اس طرح مرتب کی ہے کہ مولانا نے سیرۃ النبیؑ میں کتب سیرت و تاریخ کے جہاں جہاں حوالے دیے ہیں، انھیں اصل مأخذ میں تلاش کیا ہے، پھر روایت کی نویسیت واضح کی ہے۔

اس سلسلے میں جو کتابیں پیش نظر رہی ہیں ان کے نام یہ ہیں :

تاریخ یعقوبی	سیرۃ ابن ہشام
تاریخ الخمیس	طبقات ابن سعد
فتح البلدان	تاریخ طبری
معجم البلدان	الاصابة
اسد الغابة	الاستیعاب

کتاب المغازی للواقدی
الکامل لابن الاشیر

لیکن مولانا شبلی کے متعدد مراجع و مأخذ ایسے ہیں، جو راقم کے پاس موجود نہ تھے، اس لیے ان کے حوالوں کی اصل مأخذ سے مراجعت نہیں کی جاسکی، مثلاً قسطلانی کی "المواہب اللدنیہ" زرقانی کی "شرح المواہب اللدنیہ" اور سہلی کی "الروض الانف" وغیرہ۔ اس لیے اسکی کتابوں سے ماخوذ و منقول روایات و جزئیات کی تحقیق ہو سکی اور وہ ان کے استناد و عدم استناد کا پتہ لگایا جاسکا۔

ای طرح سیرۃ النبی میں ذکر صد ہایات جو کسی حوالے کے بغیر پر قلم کردیے گئے ہیں، ان میں سے پیشتر کی تحقیق کا کام بھی باقی ہے۔ اس لیے کم مستند یا غیر مستند روایات کی فہرست جو گذشتہ صفحات میں پیش کی گئی ہے طویل و عریض ہونے کے باوجود ابھی مختصر بھی ہے اور ناقص بھی۔

اس موقع پر یہ بحث بجا طور سے انٹھائی جاسکتی ہے کہ روایات سیرت کی تحقیق و تنتیش کے سلسلے میں محمد بن انصاریوں کو برداشت کارانا اور ارسال و انقطائی یا دوسرے وجہ ضعف کی بناء پر انھیں غیر مستند قرار دینا کس حد تک مناسب ہے؟ اور کیا اس قسم کی روایات سے مد لیے بغیر محض روایات تو صحیح مسند کے ذریعے کوئی کتاب سیرت مرتب کی جاسکتی ہے؟ اور کیا سیرت کے موضوع پر عربی و اردو میں اب تک جو صد ہایاتیں لکھی جا چکی ہیں، ان میں سے کوئی صحت و استناد کے اس معیار پر پوری ارتقی ہے، جس کا مطالبہ مولانا شبلی کی سیرۃ النبی سے کیا جا رہا ہے؟

سو جواباً عرض ہے کہ روایات سیرت، روایات سیرت اور کتب سیرت کی محمد بن انصاری

مواد مشکلات

۱۰۳

اصحیوں کے مطابق تحقیق و تفییش اور پھر ان کے استناد اور عدم استناد کی بحث مولانا شبی نے اٹھائی ہے اور مقدمہ سیرۃ النبی میں انھوں نے اس پہلو پر خاص طور سے زور دیا ہے کہ کتب سیرت اور روایات سیرت بالعلوم معتبر نہیں ہیں۔ اس لیے ان کے قائم کردہ اصولوں کی روشنی میں سیرۃ النبی کا جائزہ لینے میں کوئی مصالحتہ نہیں ہے، بلکہ بعض وجوہ کی بنا پر جن کی تفصیل آئندہ پیش کی جائے گی، یہ میں ایک حد تک ضروری بھی ہے۔ یہاں ہم اولاً مقدمہ سیرۃ النبی سے روایات سیرت اور کتب سیرت سے متعلق مولانا کے خیالات پیش کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں :

سیرت پر اگرچہ آج بھی سیکڑوں تصنیفیں موجود ہیں، لیکن سب کا سلسلہ جا کر ہرف تین چار کتابوں پر مشتمی ہوتا ہے۔ سیرت ابن حثی، واقدی، ابن سعد، طبری۔ ان کے علاوہ جو کتابیں ہیں، وہ ان سے متاخر ہیں، ان میں جو واقعات مذکور ہیں، زیادہ تر ان ہی کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ اس بنا پر ہم کو مذکورہ بالا کتابوں پر زیادہ تفصیل اور تدقیق سے نظر ڈالنی چاہیے۔

ان میں واقدی تو بالکل نظر انداز کرنے کے قابل ہے..... واقدی کے سواباقی اور تینوں مصنفوں انتبار کے قابل ہیں۔ ابن حثی کی نسبت اگر چنانام مالک اور بعض محدثین نے جرح کی ہے۔ تاہم ان کا یہ رتبہ ہے کہ امام بخاری اپنے رسالتہ "جزء القراءة" میں ان کی سند سے روایتیں نقل کرتے ہیں اور ان کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ابن سعد اور طبری میں کسی کو کلام نہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ان لوگوں کا مستند ہونا، ان کی تصنیفات کے مستند ہونے پر چند افراد نہیں ذالت۔ یہ لوگ خود شریک واقعہ نہیں۔ اس لیے جو کچھ بیان کرتے ہیں اور راویوں کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں۔ لیکن ان کے بہت سے روایات ضعیف الروایۃ اور غیر مستند ہیں۔ اس کے علاوہ ابن حثی کی اصلی کتاب موجود نہیں۔ ابن حشام نے ابن حثی کی کتاب کو زیاد

بکانی کے واسطے سے روایت کیا ہے۔ بکانی اگر چہ رجتبے کے شخص ہیں، تاہم محدثین کے اعلیٰ معیار سے فروتن ہیں۔ علیٰ مدینی کہتے ہیں کہ : وہ ضعیف ہے اور میں نے اس کو ترک کر دیا۔ ابو حاتم کہتے ہیں : وہ استناد کے قابل نہیں۔ نسائی کہتے ہیں : وہ ضعیف ہے۔ این سحد کی نصف سے زیادہ روایتیں واقعیت کے ذریعہ سے ہیں اس لیے ان روایتوں کا وہی رجتبہ ہے جو خود واقعیت کی روایتوں کا ہے باقی روایتوں میں بعض ثقہ ہیں بعض غیر ثقہ۔ طبری کے پڑے پڑے شیوخ روایت مشائسلہ امرش، این سلمہ وغیرہ ضعیف الروایت ہیں۔ اس ہنا پر مجموعی حیثیت سے سیرت کا ذخیرہ کتب حدیث کا ہم پلہ نہیں۔ البتہ ان میں سے صحیق و تقدیم کے معیار پر جو اتر جائے وہ جھٹ اور استناد کے قابل ہے۔

(سیرۃ ابنی ارش ۲۸۹-۳۹۷)

اس اقتباس کی روشنی میں کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ مولانا شیلی کتب سیرت اور روایان سیرت صحیق و تقدیم کے سلسلے میں محدثانہ اصولوں سے کام لینے کے قائل ہیں اور یہ کہ سیرت کی وہی روایات ان کے نزدیک معتبر ہیں، جو صحیق و تقدیم کے معیار پر پوری اتریں۔ باقی عام روایات تو سیرت جھٹ اور استناد کا درجہ نہیں رکھتیں۔

اس کے علاوہ اقتباسات ذیل سے بھی مضمون بالا کی تائید ہوتی ہے :

سیرت کی کتابوں کی کم پائی گئی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ صحیق و تقدیم کی ضرورت احادیث احکام کے ساتھ خصوص کر دی گئی۔ یعنی وہ روایتیں تقدیم کی زیادہ تماش ہیں، جن سے شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں۔ باقی جو روایتیں سیرت اور فتاویٰ وغیرہ سے متعلق ہیں، ان میں تشدید اور احتیاط کی چندال حاجت نہیں۔ (۳۹۷-۵۰)

مزید لکھتے ہیں :

اس موقع پر ایک خاص نکتہ لحاظ کے قابل ہے۔ یہ مسلم ہے کہ حدیث دروایت میں امام بخاری اور مسلم سے بڑھ کر کوئی شخص کامل فن پیدا نہیں ہوا۔ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ان کو جو عقیدت، خلوص اور شیفتگی تھی، اس کے لحاظ سے بھی وہ تمام محدثین میں ممتاز تھے۔ باوجود اس کے فضائل و مناقب کے متعلق جس قسم کی مبالغہ آمیز روایتیں ہیئتیں، ابو حیم، بزار، طبرانی وغیرہ میں پائی جاتی ہیں، صحیحین میں وہ بھی نہ کوئی نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس قدر تحقیق و تقدیم کا درجہ بڑھتا جاتا ہے، مبالغہ آمیز روایتیں تکشی جاتی ہیں۔ مثلاً یہ روایت کہ جب آنحضرت ﷺ عالم وجود میں آئے تو ایوان کسری کے چودہ (۱۲) کنگورے گر پڑے۔ آتش فارس بحمد گنی، بخیرہ طبریہ خلک ہو گیا۔ ہیئتیں، ابو حیم، خراشی، ابن عساکر، ابن جریر نے روایت کی ہے۔ لیکن صحیح بخاری اور مسلم بلکہ صحاح تحریک کی کتاب میں اس کا پتہ نہیں، سیرت میں جو کتابیں لکھی گئیں، وہ زیادہ تر اسی قسم کی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ اس لیے ان میں کثرت سے کمزور روایتیں درج ہو گئیں اور اسی بنابر محدثین کو کہنا پڑا ایمر میں ہر قسم کی روایتیں ہوتی ہیں۔ (۵۲۱-۵۲۳)

مذکورہ بالا دونوں اقتباسات سے صاف ظاہر ہے کہ مولا ہاشمی سیرت کی مردوج اور متداول کتابوں سے اسی لیے غیر مطمئن ہیں کہ ان میں ”ب دیاں“ ہر قسم کی روایات جمع کردی گئیں ہیں اور اصل محدثین کے اصول و طریق کے مطابق تحقیق و تقدیم کی کسوٹی پر کسانہیں کیا ہے۔ نیز یہ کہ سیرت کی کتابوں میں مذکور روایات کو آنکھ بند کر کے قول نہیں کرتا چاہیے۔ اب مرسل و منقطع روایات سے متعلق مولانا کے بیانات طاہر ہوں لکھتے ہیں :

محدثین نے جو اصول قرار دیے تھے، سیرت کی روایتوں میں لوگوں نے اکثر نظر انداز کر دیے۔ محدثین کا سب سے پہلا اصول یہ ہے

مولانا شبیث سیرت نگار

کہ روایت کا سلسلہ اصل واقعیت کہیں منقطع نہ ہونے پائے۔ لیکن آنحضرت ﷺ کے حالات ولادت کے متعلق جس قدر روایتیں مذکور ہیں، اکثر منقطع ہیں۔ صحابہؓ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کی عمر آنحضرت ﷺ کی ولادت کے وقت روایت کے قابل ہو۔ سب سے سفر حضرت ابو بکرؓ ہیں، وہ آنحضرت ﷺ سے عمر میں دو (۲) برس کم تھے۔ اسی بنا پر میلاد کے متعلق جس قدر روایتیں ہیں ان میں سے اکثر متصل نہیں۔ اور اسی بنا پر بہت دور از کار روایتیں پھیل گئیں۔ (۵۳/۱-۵۲)

مزید لکھتے ہیں :

مخازی کا بڑا حصہ امام زہری سے منقول ہے۔ لیکن ان کی اکثر روایتیں جو سیرت ابن ہشام اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں مذکور ہیں، منقطع ہیں۔ (۵۲/۱)

ان بیانات سے معلوم ہوا کہ مولانا شبیل کے نزدیک روایات حدیث کی طرح روایات سیرت کا بھی سند کے لحاظ سے انقطاع باعث قدح ہے، اور یہ کہ منقطع روایات حدیث کی طرح سیرت کے باب میں بھی اقتبار واستناد نہیں ہے۔

اب تک کی گنگو اصول و نظریات سے متعلق تھی۔ محلی طور پر بھی مولانا شبیل نے سیرۃ النبیؐ میں متعدد روایات سیرت کو محمد نانہ جرج و تغید کے بعد ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت علیؓ کے قلمخیر کے دروازے کو اکھاڑنے سے متعلق اسی کتاب کے پہلے باب میں گذر جگلی ہے۔ اس کی دوسری مثال بھیرتی راہب کی روایت ہے، جس پر مولانا کی جرج و تغید گذشتہ صفات میں نقل کی جا جگلی ہے۔

اب اس سلسلے میں سیرۃ النبیؐ سے چند اور اقتباسات بھی ملاحظہ ہوں :

(الف)

اب و معاشرات کی کتابوں میں عموماً اور بعض تاریخوں میں بھی

ذکور ہے کہ قس بن ساعدہ نے عکاظ میں جو مشہور خطبہ دیا تھا، آنحضرت ﷺ اس خطبے میں شریک تھے..... قس بن ساعدہ کی روایت اور اس کا خطبہ مختصر و مطول بھارت مختلف بغوی، ازدی، تیقی، حافظہ وغیرہ نے نقل کیا ہے، لیکن وہ سرتاپا مصنوعی اور موضوعی ہے اس کے روایۃ عموماً ناقابل سند بلکہ کذاب ہیں۔ چنانچہ سیوطی نے موضوعات میں اس روایت کے تمام طریقوں کو نقل کر کے ان کے روایۃ سے بحث کی ہے اور علامہ ذہبی اور حافظہ ابن حجر وغیرہ کے اقوال تفصیل سے نقل کیے ہیں۔ (قس بن ساعدہ کا خطبہ ۱۹۳)

(ب)

مشہور ہے کہ کفار غار کے قریب آگئے تو خدا نے حکم دیا۔ دفعہ پول کا درخت آگا اور اسکی نہنیوں نے بھیل کر آنحضرت ﷺ کو چھپا لیا۔ ساتھ ہی دو (۲) کبوتر آئے اور گھونسلہ بنا کر راغبے دیے۔ حرم کے کبوتر انہی کبوتروں کی نسل سے ہیں۔ اس روایت کو موہبہ لدنیہ میں تفصیل سے نقل کیا ہے اور زرقانی نے بزار وغیرہ سے اس کے مأخذ بتائے ہیں، لیکن یہ تمام روایتیں غلط ہیں۔ اس روایت کا اصل راوی حون بن عمرو ہے۔ اس کی نسبت امام فن بحقی بن معین کا قول ہے ”لاشی“ ”یعنی یقین ہے۔ امام بخاری نے کہا ہے کہ ”وہ مکر المحدث اور مجہول ہے“ اس روایت کا ایک اور راوی ابو معقب کی ہے، وہ مجہول الحال ہے۔ چنانچہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتراض میں حون بن عمرو کے حال میں یہ تمام اقوال نقل کیے ہیں اور خود اس روایت کا بھی ذکر کیا ہے۔ (بہرث ۲۷۲)

(ج)

طبری میں روایت ہے کہ جب خیری قلعے سے لفٹے تو حضرت عمر

کے پانوں جم سکے اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر
فکایت کی کہ فوج نے نامروہی کی، لیکن فوج نے ان کی نسبت خود
بھی شکایت کی۔

اس روایت کو طبری نے جس سلسلہ سند سے نقل کیا ہے،
اس کے راوی عوف ہیں، ان کو بہت سے لوگوں نے ثقہ کہا ہے۔
لیکن بندار جب ان کی روایت بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ
رانضی اور شیطان تھا۔ یہ لفظ بہت سخت ہے لیکن شیعیت سب کو تسلیم
ہے اور گوشیدھ ہونا بے اعتباری کی دلیل نہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ
جس روایت میں حضرت عمرؓ کے بھائی کا واقعہ بیان کیا جائے،
شیعہ کی زبان سے اس روایت کا رتبہ کیا رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ
اوپر کے راوی عبد اللہ بن بریدہ ہیں، جو اپنے والد سے روایت کر
تے ہیں۔ لیکن محمد شین کو اس بات میں شبہ ہے کہ ان کی جو
روایتیں باپ کے سلسلے سے منقول ہیں، صحیح بھی ہیں یا نہیں؟

(فتح خیر امر ۳۸۶)

ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مولانا شبلی جس طرح اصولی و نظری سلسلہ پر
روایات سیرت کو محدثان اصولوں کے مطابق جانچنے پر کئے کے قائل ہیں، اسی طرح عملی سلسلہ پر بھی
سیرۃ النبی میں انہوں نے ان اصولوں کو جا بجا برداشت ہے۔ لہذا نبی کے قائم کردہ اصولوں اور طریق
کار کے مطابق سیرۃ النبی کا جائزہ لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بلکہ جیسا کہ ہم پہلے عرض
کرچکے ہیں یہ میں ایک حد تک ضروری بھی ہے۔

اس ضرورت کی وضاحت یہ ہے کہ مولانا نے مقدمہ سیرۃ النبی میں روایات سیرت،
راویان سیرت اور کتب سیرت کے بارے میں بے اطمینانی کا انکھار کرتے ہوئے جس طرح
ایک غیر تعینیف سیرت کی ضرورت کا ذکر کیا ہے، جو نہایت محتقн و تقدیم کے ساتھ لکھی گئی ہو اور
جس میں روایات سیرت کے بجائے روایات حدیث پر اعتماد کیا گیا ہو، اس سے عام طور پر سیکھی

مودودی محدثات

۱۱۰

تاثر قائم کیا گیا کہ مولانا کی تصنیف سیرت مروج و متدابول کتب سیرت سے فلسفہ ہے۔ یعنی نہایت جامع المعلومات، اور عالمان اور محققان اور اس کی ہر روایت محدثانہ اصولوں کے مطابق تحقیق و تقدیم کے بعد داخل کتاب کی گئی ہے۔ بطور مثال اس سلسلے میں ذیل کے بیانات ملاحظہ ہوں۔ مولانا شاہ محسن الدین احمد مددی لکھتے ہیں :

سیرۃ النبی کی تالیف سے پہلے، اردو میں سیرت نبوی پر جس قدر کتابیں لکھی گئیں، وہ زیادہ تر مخازی و اخلاقی و شائقی نبوی پر مشتمل ہیں اور ان میں روایات کی صحت اور تحقیق و تقدیم کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ (معارف اعظم گذہ، سیماں نمبر)

شیخ محمد اکرم لکھتے ہیں :

سیرۃ النبی کی نسبت علامہ شبلی نے شیخ محمد امین زبری کو ایک خط میں لکھا تھا : ”اگر مرتہ گیا اور ایک سوچ کے بھی سلامت رہی تو انشاء اللہ دنیا کو ایسی کتاب دے جاؤں گا جس کی توقع کسی سورہ تک نہیں ہو سکتی۔“ اُسیں موت نے تحریک کار کی مہلت نہ دی لیکن پھر بھی حیات نبوی کی ذیڑھ جلد انہوں نے جس محنت، وقت نظر، وضعیت، غور و فکر، حسن استدلال اور ادبی شان کے ساتھ لکھی ہے، اس کی مثال عالم اسلام کے ادب میں مشکل سے ملے گی۔

(یادگار شبلی (۲۳۶))

ڈاکٹر انور محمد خالد اپنے تحقیقی مقامے میں لکھتے ہیں :

شبلی نے اپنی کتاب میں صرف وہی روایات ذکر کی ہیں، جنہیں وہ ہر اعتبار سے قابل استاد کہجھتے ہیں۔

(اردو نشر میں سیرت رسول (۵۹۰))

عبداللطیف اٹھی رقم طراز ہیں :

یوں تو دنیا کی ہر زبان میں آنحضرت ﷺ اور ان کے حالات میں

کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اس عظیم الشان تالیف کی نظریہ نہ تو عربی زبان باوجود اپنی قدامت اور باوجود اپنی اس خصوصیت کے کہ رسول اللہ ﷺ اور قرآن حکیم کی زبان ہے، پیش کر سکتی ہے اور نے فارسی یاد دینا کی کوئی اور ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ زبان۔ اسی وجہ سے اسے عربی اور بعض دوسری زبانوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔

(مولانا شبلی کا مرتبہ اردو و ادب میں ۹۲)

آخر وقار عظیم لکھتے ہیں :

شبلی کی تصانیف میں حرف آخر سیرۃ النبی ہے... آج تک سیرۃ النبی سے زیادہ محققاں، عمدہ اور جامع المعلومات کتاب رسول اللہ ﷺ پر نہیں لکھی گئی۔ (شبلی بحیثیت مورخ ۱۲۳)

اس لیے مناسب بلکہ ضروری تھا کہ خود مصنف کے اصول و نظریات اور طریق کا رکنی میں اس کتاب کا جائزہ لے کر بتایا جائے کہ اس میں مستند اور غیر مستند یا کم مستند روایات کا تناسب کیا ہے؟ سوجیسا کہ عرض کیا جا چکا، اس کتاب کے مواد و مشتملات کی تحقیق و تفتیش کے بعد یہ ہی تحقیق سامنے آئی کہ سیرۃ النبی میں غیر مستند یا کم مستند روایات کا تناسب کم از کم پچاس (۵۰) یا سماں (۶۰) فصد ہے اس کے علاوہ چند اور حقائق بھی سامنے آئے جنہیں آئندہ صور میں پیش کیا جاتا ہے۔

(الف) مولانا شبلی نے عربی کی قدیم کتب سیرت پر عمومی تحریک و تبرہ کرتے ہوئے حافظ زین الدین عراقي کی سیرت منظوم کا ایک شعر مقدمہ سیرۃ میں دو جگہ نقل کیا ہے :

ولیعلم الطالب أن السیرا طالب کو جانا چاہیے کہ سیرت میں سمجھی طرح کی تجمع ماصح و ما قد انکرا... بواستین جمع ہوتی ہیں، صحیح بھی اور غلط بھی۔

تعجب ہے کہ مولانا شبلی کو ہوشیار اور خیر دار کرنے رہے، لیکن خود ان کی "سیرۃ النبی" دوسری کتب سیرت سے مختلف نہ ہو گی۔ اس میں صحیح و سقیم ہر طرح کی روایات موجود ہیں۔

(ب) مولانا نے "سیرۃ النبی" میں جا بجا و اقدی سے سخت برہی و

مودود مشکلات

بیزاری اور تغیر و تکدر کا اظہار کیا ہے۔ مثلاً : امام شافعی فرماتے ہیں کہ : ”وَقَدِیٰ کی تمام تصانیف جھوٹ کا انبار ہے“۔ کتب سیرت کی اکثر بیرونی روایتوں کا سرچشمہ اُنہی کی تصانیف ہیں۔ (۳۳/۱)

محمد بن بالا تقاض لکھتے ہیں کہ: وہ خود اپنے مجی سے روایات گزرتا ہے۔ (۳۸/۱)

وَقَدِیٰ کو تو محمد بن علائیہ کذاب کہتے ہیں۔ (۱۸/۱)

وَقَدِیٰ کی نقویہ بیانی مسلمہ عام ہے۔ (۲۳/۱)

ان بیانات سے وَقَدِیٰ کے بارے میں مولانا کے تاثرات و خیالات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے اور یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ وَقَدِیٰ ان کے نزدیک کسی حال میں اور کسی درجے میں قابل قبول نہیں ہیں۔

اس کے بعد وَقَدِیٰ کے بازے میں مزید احتیاط برتنے کے خیال سے مولانا نے مقدمہ سیرہ میں ”مصنفوں سیرت کی تدبیس“ کا ایک ذلیل عنوان قائم کیا ہے۔ اس کے تحت رقم طراز ہیں :

سیرت میں اگلوں نے جو کتابیں لکھیں، ان سے بابعد کے لوگوں نے جو راویتیں نقل کیں، انہی کے نام سے نقل کیں۔ ان کے متعدد ہونے کی بنا پر لوگوں نے ان تمام روایتوں کو محترم کر لیا اور چونکہ اصل کتابیں ہر شخص کو با تحریکیں آ سکتی تھیں۔ اس لیے راویوں کا پتہ نہ لگ سکے اور رفتہ رفتہ یہ راویتیں تمام کتابوں میں داخل ہو گئیں۔ اس تدبیس کا یہ نتیجہ ہوا کہ مثلاً جو راویتیں وَقَدِیٰ کی کتاب مذکور ہیں، ان کو لوگ عموماً غلط سمجھتے ہیں لیکن انہی روایتوں کو جب این سعد کے نام سے نقل کر دیا جاتا ہے تو لوگ ان کو محترم سمجھتے ہیں، حالانکہ این سعد کی اصل کتاب ہاتھوں آئی تو پڑ لگا کہ این سعد نے اکثر راویتیں وَقَدِیٰ ہی سے لی ہیں۔ (۵۶-۵۵)

ان سب تنبیہات و تحدیرات کے باوجود تعجب اور سخت تجھب ہے کہ خود مولانا نے سیرۃ النبی میں واقعی سے قدم قدم پر استفادہ کیا اور حوالہ ہر جگہ ابن سعد کا دیتے چلے گئے۔ اس استفادے کی کیفیت و کیفیت اور کثرت و تو اتر کا اندازہ لگانے کے لیے گذشت صفحات میں مذکور فہرست کی طرف مراجعت کی سکتی ہے۔

(ج) اسی طرح ابن الحنفی کے بارے میں ایک جگہ لکھتے ہیں :

یہ روایت (خزانے کا پتہ نہ بتانے کے جرم میں کنانہ بن ابی الحنفی کے قتل کی روایت) طبری، اور ابن بشام دونوں نے ابن الحنفی سے روایت کی ہے لیکن ابن الحنفی نے اوپر کے کسی راوی کا نام نہیں بتایا۔

محمد شین نے رجال کی کتابوں میں تصریح کی ہے کہ ابن الحنفی یہودیوں سے مغازی نبوی کے واقعات روایت کرتے تھے۔ اس روایت کو بھی انھی روایتوں میں سمجھنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ ان راویوں کا نام نہیں لیتے۔ (۲۹۵/۱)

ایک دوسرے موقع پر لکھتے ہیں :

ارباب سیر کا بیان ہے کہ آنحضرت ﷺ نے گواہی مکروہ امن عطا کیا تھا، تاہم اٹھھوں کی نسبت حکم دیا کہ جہاں ملیں قتل کر دیے جائیں... جن لوگوں کی نسبت حکم قتل کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ کسی زمانے میں آنحضرت ﷺ کو تباہ کرتے تھے، وہ روایتیں ابن الحنفی تک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں، یعنی اصول حدیث کی رو سے وہ روایت منقطع ہے، جو قابل اعتیار نہیں۔ ابن الحنفی کافی نفس جو درج ہے وہ ہم کتاب کے دیباچے میں لکھائے ہیں۔

(۵۲۳/۱-۵۲۵)

ان دونوں روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابن الحنفی کی وہ روایتیں جن کی سند میں مذکور نہیں اور جن میں وہ اوپر کے راویوں کے نام نہیں بتاتے مولانا کے نزدیک منقطع اور ناقابل

مودود مشکلات

۱۱۳

اعتبار ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے سیرۃ النبی کے تقریباً ہر باب میں ابن حشش کی بے سند روایتیں سلسلہ اور بکثرت داخل کی ہیں۔ اس سلسلے میں بھی صفحات گذشتہ میں ذکر فہرست سے رجوع کیا جاسکتا ہے۔

(د) فہرست ذکر کی مراجعت سے یہ حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ سیرۃ النبی کی ذکورہ جلدیں میں مرسل، معصل اور منقطع روایتیں بھی درجنوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اسی طرح کلبی، یشم البراکاء اور متعدد ضعیف روایوں کی ضعیف روایات نے بھی اس کتاب میں جگہ پائی ہے۔ مزید برآں مولانا نے تاریخ انہیں، تاریخ یعقوبی اور متعدد متأخر مآخذ سے بے سند اقوال بھی نقل کر کے شامل کتاب کر لیے ہیں۔

پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیرۃ النبی کے بارے میں یہ تاثر کہ اس میں شامل تمام روایات صحیحت و استناد اور محمد ثانہ صحت کے معیار پر پوری اترتی ہیں مخفی حسن نظر پر بنی ہے۔ سمجھ صورت حال یہ ہے کہ اس کتاب کے تقریباً پچھاں (۵۰) فیصد مشکلات خود مولانا شبلی کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق محمد ثانہ صحت و استناد کے معیاروں پر پورے نہیں اترتے۔ اس لحاظ سے سیرۃ النبی اور سیرت کی قدیم یہ عربی کتابوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

چند وضاحتیں :

یہاں آخر میں بعض امور کی وضاحت نہایت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ اس باب میں ”سیرۃ النبی“ کے مودود مشکلات پر لفتگو کرتے ہوئے ہم نے بار بار دو لفظ استعمال کیے ہیں۔ ”کم مستند“ اور ”غیر مستند“ ظاہر ہے کہ یہ دونوں الفاظ مراد فہرستیں ہیں، بلکہ ”کم مستند“ سے وہ روایات و واقعات مراد ہیں، جو اگرچہ صحت کے اعلاء معیار پر پورے نہیں اترتے، لیکن فی الجملہ ان کی صحت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ یا تو اس لیے کہ وہ سیرت نثاروں کے درمیان مشہور و متداول ہیں، یا اس لیے کہ ان کے شواہد و متابعات موجود ہیں، یا اس لیے کہ سند کے ضعف کے باوجود ان کا مضمون فی نفس ثابت ہے وغیرہ۔ انہی اسباب وجودہ کی بنا پر اس باب میں ذکور روایات و واقعات کے لیے ”کم مستند“ اور ”غیر مستند“ کے الفاظ پہلو بہ پہلور کئے گئے ہیں۔

یہاں یہ وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ بعض اہل علم نے پیش نظر باب سے متعلق اپنے تبصرہ و تجزیہ کے دوران "کم مستند" اور "غیر مستند" کے اس فرق کو لحوظہ نہیں رکھا اور انہوں نے یہ تاثر قائم کر لیا کہ ناصیز راقم اس باب میں پیش کردہ تمام روایات و واقعات کو غیر مستند قصور کرتا اور ان کی صحت و ثبوت کا بالکلیہ منکر ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

دوسری اہم وضاحت یہ ہے کہ گذشتہ صفات میں پیش کردہ "کم مستند" یا "غیر مستند" روایات سیرت کی یہ فہرست مولانا شبلی کے نقطہ نظر سے ترتیب دی گئی ہے اور اس کے ذریعے چھ یہ باتا مقصود ہے کہ مولانا شبلی جس قسم کی روایتوں اور جن روایوں کی روایتوں کو ناقابل اعتنا تصور کرتے ہیں، خود ان کی "سیرۃ النبی" میں ان روایات کا تناسب کیا ہے۔

اس کے ساتھ ہی اس تفصیلی مفکروکے ذریعے ان لوگوں کی غلط فہمی یا خوش فہمی کا ازالہ بھی مقصود ہے، جو کسی تحقیق و تفییش کے بغیر "سیرۃ النبی" کو عربی، فارسی اور اردو کی سب سے جامع المعلومات اور محققانہ کتاب سیرت تصور کرتے اور اس کی تمام روایات کو صحیح و مستند گردانتے ہیں۔

تیسرا قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس باب میں پیش کردہ کم مستند اور غیر مستند روایات کی فہرست مولانا شبلی کے تحریر کردہ متن کی روشنی میں ترتیب دی گئی ہے، یعنی یہ ممکن ہے کہ مولانا نے کسی واقعے کو جس سیاق و سہاق اور جزویات و تفصیلات کے ساتھ قلم بند فرمایا ہو، وہ بھیثت مجموعی کم مستند یا غیر مستند کے ذیل میں آتا ہو، لیکن مترقب طور پر اس کے بعض اجزاء روایات سمجھو سے ثابت ہوں۔

ایک اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ مواد و مشتملات کی اس بحث میں اگر "سیرۃ النبی" سے پورے پورے اقتباسات نقل کیے جاتے پھر ان کے بارے میں بتایا جاتا کہ ان کا مأخذ کیا ہے، پھر متعلقہ عربی عبارت نقل کی جاتی، پھر سند کی کیفیت بیان کی جاتی تو محض اقتباسات ہی کے لیے کئی صفات کی وسعت درکار ہوتی۔ اس لیے متعلقہ مباحث کے عنوانات اور کہیں کہیں درمیان کی عبارتیں اشارے کے طور پر نقل کردی گئی ہیں، جس سے مقصود یہ ہے کہ متعلقہ مباحث و واقعات کا اصل کتاب میں دیکھ لیا جائے۔

لیکن یہاں بھی بعض اہل علم حضرات نے غلط فہمی کی بنیاد پر یہ سمجھا کہ عبارتوں کے جو

نکوے یا عنوانات نقل کیے گئے ہیں، انہی کا عدم استفادہ ثابت کرنا مقصود ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں بلکہ پوری بحث یاد قلعے کی طرف توجہ دلانا مطلوب ہے۔

اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ گذشتہ صفحات میں روایات سیرت پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے جا بجا لکھا ہے ”ابن الحنف کا قول ہے، جس کی سند نہ کہ رہیں“ اس سے ہماری مراد سند کی فحی نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ ابن ہشام نے سیرۃ ابن الحنف کی روایت کرتے ہوئے اس موقع پر سند ذکر نہیں کی۔ سبی وجہ ہے کہ دوسری کتب سیرت و حدیث میں کہیں کہیں اور کے راوی یا راویوں کے نام بھی مل جاتے ہیں، تاہم ایسی صورت میں بھی روایت عام طور پر مرسل ہی رہتی ہے۔ ہمیں جہاں اور کے نام مل گئے ہیں، انہیں بھی حوالے کے ساتھ درج کر دیا ہے۔ پھر بھی ممکن ہے کہ بعض مقامات پر قلت علم اور قلت مطالعہ کی بناء پر بقیہ سند کی نشان وہی نہ ہو سکی ہو۔ ہم اہل علم حضرات کے شکر گذار ہوں گے، اگر ہماری کوتایوں کی جانب وہ ہمیں متوجہ کریں۔

باب سوم

احادیث صحیحہ پر روایات سیرت کو ترجیح

مولانا شلی نے مقدمہ سیرت میں ایک اصول یہ تحریر فرمایا ہے کہ :
 احادیث صحیحہ کے سامنے سیرت کی روایتیں نظر انداز کر دی ہیں۔ جو
 واقعات بخاری و مسلم وغیرہ میں مذکور ہیں، ان کے مقابلہ میں
 سیرت یا تاریخ کی روایت کی کوئی ضرورت نہیں۔ (۱۰۰)

مولانا شلی کی ترجیحی کرتے ہوئے مولانا سید سلیمان ندوی نے ہمدون بالا کی تعبیر اس

طور پر فرمائی ہے :

سیرت کی روایتیں باعتبار صحت احادیث کی روایتوں سے فروتن
 ہیں۔ اس لیے پر صورت اختلاف احادیث کی روایت کو بحیث ترجیح
 دی جائے گی۔ (۸۱)

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مولانا نے متعدد مقامات پر اس اصول پر عمل کرتے ہوئے
 احادیث کو روایات سیرت پر ترجیح دی ہے۔ مثلاً سفر بھر کے موقع پر قیام قباد کی مدت کے
 بارے میں لکھتے ہیں :

تمام مؤمنین اور ارباب سیر لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے یہاں

احادیث صحیح پر روایات سیرت کو ترجیح

صرف چار دن قیام فرمایا، لیکن صحیح بخاری میں چودہ دن ہے اور یہی
قرین قیاس ہے۔ (۲۷۵)

اسی طرح نجاشی با شاہ جوش (جسے آپ نے دعوت اسلام کا خط بھیجا تھا) کی وفات
کے بارے میں لکھتے ہیں :

عام ارباب سیر لکھتے ہیں کہ نجاشی نے ۹۰۶ھ میں وفات پائی۔
آنحضرت ﷺ میں تشریف رکھتے تھے اور یہ خبر سن کر آپ
نے غالباً اس کے جنازے کی نماز پڑھائی، لیکن یہ غلط ہے، صحیح
مسلم میں تصریح کی ہے کہ جس نجاشی کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی،
وہ یہ نہ تھا۔ (۲۷۱-۳۷۰)

اسی طرح غزوہ ذی قرد کے ملے میں رقم طراز ہیں :

ارباب سیر نے حقاً اس واقعے کو خبر کے واقعے سے ایک سال
ماقبل بیان کیا ہے۔ لیکن امام بخاری نے صاف تصریح کی ہے کہ
خبر سے تین دن پہلے کا واقعہ ہے۔ (۳۷۹)

اسی طرح عرب کے مشہور پہلوان مرحب کے قتل کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں :
اہن الحق، موسی بن عقبہ اور وادی کا بیان ہے کہ مرحب کو محمد بن
مسلم نے مارا تھا۔ مند اہن حبیل اور نووی شرح مسلم میں حضرت
علیؑ کو مرحب کا قاتل اور فاتح خبر لکھا ہے اور یہ اسحاق الروایات
ہے۔ (۳۸۹)

لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ سیرۃ النبی میں جا بجا
اس مصوب کو نظر انداز کرتے ہوئے احادیث صحیح پر روایات سیرت کو ترجیح دینے کی کوشش بھی کی
گئی ہے۔ آئندہ صفحات میں ایسے مقامات کی نشاندہی کی جاتی ہے :

ایمان ابوطالب :

ابوطالب کی موت کفر پر ہوئی یا ایمان پر؟ مولانا شبلی نے اس ملے میں پہلے بخاری و

مولانا شیلی بحیثیت بیرت ناگر

مسلم کی روایت نقل کی ہے، جس سے کفر پر موت کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں :

بالآخر ابوطالب نے کہا میں عبدالمطلب کے دین پر مرتا ہوں، پھر

آنحضرت ﷺ کی طرف خطاب کر کے کہا :

میں وہ کفر کہہ دیتا، لیکن قریش کہیں گے کہ موت سے ذرگیا، ...

(ار ۲۳۷)

اسکے بعد ابن الحنفی کی روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

یہ بخاری اور سلم کی روایت ہے۔ ابن الحنفی کی روایت ہے کہ مرتبے وقت ابوطالب کے ہونٹ مل رہے تھے۔ حضرت عباس نے (جو اس وقت کافر تھے) کان لگا کر سنا، تو آنحضرت ﷺ سے کہا کہ تم نے جس کلے کے لیے کہا تھا، ابوطالب وہی کہر رہے ہیں۔ (ایضاً)

آگے لکھتے ہیں :

اس بنابر ابوقتالب کے اسلام کے متعلق اختلاف ہے۔ لیکن چونکہ بخاری کی روایت عموماً صحیح ترمانی جاتی ہے اس لیے محدثین زیادہ تر ان کے کفری کے قائل ہیں۔ (۲۳۸/۱)

یہاں مولانا شیلی کو اپنے اصولوں کے مطابق چاہیے تھا کہ صحیحین کی روایت کو ابن الحنفی کی روایت پر ترجیح دیتے ہوئے فیصلہ کر دیتے کہ ابوطالب کی موت کفر پر ہوئی۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں :

لیکن محمد ثانہ حیثیت سے بخاری کی یہ روایت چندال قابل جست نہیں

کہ اخیر راوی میتبہ ہیں جو فتح مکہ میں اسلام لائے اور ابوطالب کی

وفات کے وقت موجود نہ تھے۔ اسی بنابر علامہ عینی نے اس حدیث کی

شرح میں لکھا ہے کہ ”روایت مرسلا ہے“۔ ابن الحنفی کے سلسلہ

روایت میں عباس بن عبد اللہ بن عبد العزیز اور حضرت عبد اللہ بن عباس

ہیں یہ دونوں ثقہ ہیں۔ لیکن حق کا ایک راوی یہاں بھی رہ گیا ہے۔

اس بنا پر دونوں روایتوں کے درجہ استناد میں چند اس فرق نہیں۔

ابو طالب نے آنحضرت ﷺ کے لیے جو جاں شاریاں کیں، اس سے کون انکار کر سکتا ہے، وہ اپنے جگہ گوشوں تک کو آپ ﷺ پر شمار کرتے تھے۔ آپ کی محبت میں تمام عرب کو اپنا دشمن بنالیا، آپ ﷺ کی خاطر محصور ہوئے، فاتح اتحاد، شہر سے بٹا لے گئے۔ تین تین برس تک آب و دانہ بند رہا۔ لیکن یہ جوش محبت یہ جاں شاریاں سب ضائع ہو جائیں گی؟ (۲۲۸-۲۲۹)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ یہاں مولا نبیل سے متعدد فروع گذاشتیں سرزد ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے این الحق کی منقطع روایت کو بخاری و مسلم کی متصل روایت کے ہم پلے قرار دے دیا ہے۔ حالانکہ اگر یا الفرض سند کے لحاظ سے دونوں روایتیں ہم پلے ہوتیں جب بھی قاعدة مسلم کے مطابق صحیحین کی روایت کو سیرت کی روایت پر ترجیح دی جائیے تھی۔

دوسرے بخاری کی روایت کو مرسل کہہ کر خواہ مخواہ کمزور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

اس لیے کہ بخاری کے اخیر راوی حضرت میتب محبی ہیں اور مرائل محبی بالاتفاق مجت ہیں۔

تیسرا یہ کہ موضوع زیر بحث کی تمام روایات کو دکھ کر فیصلہ کرنے کے بجائے بعض اپنے ذوق کی شہادت پر این الحق کی روایت کو ترجیح دے دی ہے۔ حالانکہ حضرت میتب کی روایت کی تائید میں حضرت عباس بن عبدالمطلب اور حضرت ابوسعید خدری کی روایتیں خود صحیح بخاری میں اسی موقع پر موجود ہیں۔ لیکن مولا نبیل کے بارے میں سکوت اختیار فرمایا ہے۔

چوتھے یہ کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے الاصابة میں ابو طالب کے حالات کے ضمن میں ایمان ابو طالب کے سلسلے میں نہایت محققانہ گفتگو فرمائی ہے۔ ان کا فیصلہ یہی ہے کہ ابو طالب کی صوت کفر پر ہوئی۔ رہ گئیں ایمان ابو طالب سے متعلق روایات تو ان کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں : "أسانيد هذه الأحاديث وأهمية" "ان روايات کی سندیں ناقابل اعتبار ہیں" (الاصابة ۱۱۵-۱۱۹) قابل ذکر بات یہ ہے کہ مولا نبیل کی تباہ سے پوری بحث گذر بھی تھی، چنانچہ انہوں نے اگلے عین صفحہ پر "اصابة، ذکر ابو طالب" کا حوالہ بھی دیا ہے۔

تاہم انہوں نے اس پوری بحث کو نظر انداز کرتے ہوئے بالکل بمحض فیصلہ صادر کر دیا۔
نامناسب تھا گا اگر یہاں تحریک بحث کے طور پر سید سلیمان عدوی کا بیان بھی نقل کر دیا
جائے۔ موصوف حاشیہ سیرۃ النبی میں تحریر فرماتے ہیں :

معتمد کے اس نظریے سے بھی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے کہ
بخاری کی روایت کے آخری راوی حضرت میتبؑ ہیں، جو صحابی
ہیں۔ ظاہر ہے کہ صحابی کی روایت کسی صحابی عیؑ سے ہو گی۔ اسی لیے
مراہل صحابہ بحث ہیں اور ان الحلق کی روایت منقطع ہے اور چھوٹا
ہوا راوی صحابی نہیں ہے۔ خود این الحلق بھی استناد کا اعلاء درج نہیں
رکھتے۔ اس لیے دونوں روایتوں کو یکساں نہیں قرار دیا جاسکتا۔

علاوہ بریں حضرت میتبؑ کی اس روایت کی تائید میں،
خود حضرت عباسؓ کی وہ روایت ہے، جو اسی میتبؑ والی روایت
سے اوپر گنج بخاری میں موجود ہے۔ جس میں ذکر ہے کہ حضرت
عباسؓ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے چچا (ابوالطالب) کو
آپ سے کیا فائدہ پہنچا؟ کہ وہ آپ کی خانعت کرتے تھے، اور
آپ کے لیے آپ کے دشمنوں سے برس پر خاش رہتے تھے، فرمایا
وہ دوزخ کی آگ میں صرف ٹھنکے ٹک ہیں، مگر اس کا اثر بھی دماغ
ٹک ٹک جاتا ہے۔ اُگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے سب سے نیچے
لطیقے میں ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود حضرت عباسؓ کے علم
میں حقاً کہ ان کا خاتمه توحید کے اقرار پر ٹکیں ہوا۔ اسی مضمون کی
روایت حضرت ابوسعید خدراوی سے بھی ہے، جو گنج بخاری باب قصہ
ابی طالب میں اسی موقع پر موجود ہے۔ (۲۷۸)



غزوہ بنی امصار : غزوہ بنی امصار :

اس غزوے سے متعلق دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک کتب سیرت کی اور دوسری صحیحین کی۔ مولانا نے یہاں بھی اپنے اصول اور قاعدة مسلم کے برخلاف بخاری و مسلم کی روایت پر سیرت کی روایت کو ترجیح دے دی ہے اس کی توضیح یہ ہے کہ اس غزوے سے متعلق مولانا نے اولاً درج ذیل تفصیلات قلم بند فرمائی ہیں:

خراس کا ایک خاندان بنو امصار مغل کھلا تھا، وہ مقام مریمیع میں جو مدینہ منورہ سے ۹ مزلا ہے، آباد تھا۔ اس خاندان کا رئیس حارث بن ابی ضرار تھا، اس نے قریش کے اشارے سے یا خود میں پر حملے کی تیاریاں شروع کیں۔ آنحضرت ﷺ کو خبر ہوئی تو مزید تحقیقات کے لیے حضرت زید بن خصیب (کذ) کو بیجا۔ انہوں نے واپس آ کر خبر کی قدیقی کی۔ آپ نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا۔ ۲ مرشیبان کو فوجیں مدینے سے روانہ ہوئیں۔ مریمیع میں خرپچی تو حارث کی جیعت منتشر ہو گئی اور وہ خود بھی کسی طرف نکل گیا۔ لیکن مریمیع میں جو لوگ آباد تھے، انہوں نے صفات آرائی کی اور دیر تک جم کر تیر برساتے رہے۔ مسلمانوں نے دفعۃ ایک ساتھ حملہ کیا، تو ان کے پانواکھڑ گئے۔ وہ آدمی مارے گئے اور باقی گرفتار ہو گئے، جن کی تعداد تقریباً ۲۰۰ (کذ) تھی۔ غنیمت میں دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں باتحاذ آئیں۔ (۳۱۲)

اسکے بعد ذکرہ بالا روایت کا مأخذ بتاتے ہوئے صحیحین کی روایت کے بارے میں لکھتے ہیں:

یہ ابن سعد کی روایت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بنو امصار مغل پر اس حالت میں حملہ کیا کہ وہ بالکل نبے خبر اور عاقل تھا اور اپنے مویشیوں کو پانی پلار ہے تے۔ (ایضاً)

اب ان دونوں روایتوں پر مولا نا کا تصریح ملاحظہ ہوا :

ابن سعد نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے، لیکن لکھا ہے کہ پہلی روایت زیادہ صحیح ہے۔ اس پر حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ صحیحین کی روایت پر سیرت کی روایتوں ترجیح نہیں ہو سکتی لیکن واقعی یہ ہے کہ صحیحین کی روایت بھی اصول حدیث کی رو سے قابل جست نہیں کہ اس روایت کا سلسلہ نافع تک پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے اور جنگ میں شریک ہونا تو ایک طرف، نافع نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا بھی نہ دیکھا تھا۔ اس لیے یہ روایت اصطلاح محدثین میں منقطع ہے۔ (ار ۳۱۵)

مولانا کے اس بیان سے متعلق چند امور قابل ذکر ہیں :

(الف) سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بخاری و مسلم کی مولہ بالا روایت منقطع نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے موصولة مردی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ اس جنگ میں شریک بھی تھے۔ چنانچہ بخاری کے الفاظ یہ ہیں :

حدثنا على بن الحسن، أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن عوف قال : كتبت إلى نافع فكتب إلىه : إن النبي عليه السلام أغاز على بني المصطلق وهم غازون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم، وسيبني ذرارיהם، وأصاب يومئذ جويرية. حدثني به ابن عمر وكان في ذلك الجيش. (البخاري كتاب العنق).

باب من ملك من العرب رقيقةا)

بخاری کے علاوہ یہ حدیث مسلم (كتاب الجهاد) ابو داؤد (كتاب الجهاد باب فی دعاء المشرکین) مسند امام شافعی، مسند احمد بن حنبل (۵۱ و ۳۱۲) طحاوی (كتاب السیر) اور السنن الکبری للبیہقی (باب قسمة الغنیمة فی دارالحرب) میں

احادیث صحیحہ پر روایات سیرت کو ترجیح

۱۲۳

بھی موجود ہے اور موصولة مروی ہے۔ پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ مولا شبلی کا اس حدیث کو منقطع کہنا سچا پر منی ہے انہوں نے روایت کے آخری حصے کو بغور نہیں دیکھا، جہاں "حدشی بہ ابن عمر" کی تصریح موجود ہے۔

(ب) ثانیاً یہ کہ مولا نے ابن سحد کے حوالے سے غزوہ نبی مصطفیٰ سے متعلق جو روایت نقل کی ہے، وہ ابن سحد کے یہاں کی مستقل سند سے مروی نہیں ہے۔ بلکہ انہوں اسے "قالوا" کہہ کر بیان کیا ہے اور "قالوا" سے ان کی مراد ان کے یہ چار شیوخ ہیں، جن کے نام انہوں نے ابتدائے جزء مغازی میں بتیری ذیل تحریر کیے ہیں :

(۱) محمد بن عمر الواقدی (۲) رویم بن یزید المقری (ان کی سند بیک واسطہ ابن اسحاق تک جا پہنچتی ہے) (۳) حسین بن محمد (یہ ابو مسٹر السندي کے شاگرد ہیں) (۴) اسماعیل بن عبد اللہ المدینی (ان کی سند بیک واسطہ موسیٰ بن عقبہ سے مل جاتی ہے) قائل ذکر بات یہ ہے کہ ابن سحد کی محولہ بالا روایت کا مقابلہ اگر مغازی واقدی سے کیا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ابن سحد کی روایت درحقیقت واقدی کی روایت پر منی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کا یہ کہنا کہ "پہلی روایت زیادہ صحیح ہے" یہ بھی ابن سحد کی اپنی رائے نہیں ہے، بلکہ واقدی کے بیان کی حکایت ہے۔ ذیل میں دونوں کی متعلقہ عبارتیں اختصار کے ساتھ نقل کی جاتی ہیں :

قالوا : إن بل مسلط من خزاعة..... وكانوا

ينزلون على بئر لهم يقال لها المربيسيع. وبينها وبين
الفرع نحو من يوم، وبين الفرع والمدينة ثمانيه
برد، وكان رأسهم وسيدهم الحارث بن أبي
الضرار، فصاروا في قومه ومن قدر عليه من العرب،
فدعاهم إلى حرب رسول الله ﷺ فبلغ ذلك
رسول الله ﷺ فبعث بريدة بن الحصيبة الأسلمي
يعلم علم ذلك ... فأخبره خيرهم، فندب رسول الله

عَلَيْهِ النَّاسُ إِلَيْهِ ... وَخَرَجَ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ لِلْيَلَتَيْنِ
 خَلَّتَا مِنْ شَعْبَانَ، وَبَلَغَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ضَرَّارٍ وَمِنْ
 مَعِهِ مَسِيرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ... فَسَيَّئَ بِذَلِكَ الْحَارِثُ
 وَمِنْ مَعِهِ وَخَافُوا خَوْفًا شَدِيدًا، وَتَفَرَّقُ عَنْهُمْ مَنْ كَانَ
 مَعَهُمْ مِنَ الْعَرَبِ، وَأَنْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى
 الْمَرِيسِيعِ ... فَرَمَوْا بِالنَّبْلِ سَاعَةً، ثُمَّ أَمْرَ رَسُولَ اللَّهِ
 عَلَيْهِ، أَصْحَابَهُ، فَحَمَلُوا حَمْلَةً رَجُلًا وَاحِدًا. فَمَا أَفْلَتَ
 مِنْهُمْ إِنْسَانٌ، وَقُتِلَ عَشْرَةُ مِنْهُمْ وَأُسْرَ سَائِرُهُمْ ...
 وَكَانَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَغَارَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ
 غَارُونَ ... وَالْأُولُو أَثْبَتُ ... وَكَانَتِ الْإِبْلُ أَلْفَيْ
 بَعِيرٍ، وَالشَّاءُ خَمْسَةُ آلَافٍ شَاهٍ، وَكَانَ السَّبْيُ مَائَيْ
 أَهْلَ بَيْتٍ. (طبقات ابن سعد ٢/٦٣-٦٤)

فِي سَنَةِ خَمْسٍ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوْمَ
 الْاثْنَيْنِ لِلْيَلَتَيْنِ خَلَّتَا مِنْ شَعْبَانَ ... قَالُوا إِنَّ
 بِلْمَصْطَلِقَ مِنْ خَزَاعَةٍ كَانُوا يَنْزَلُونَ نَاحِيَةَ الْفَرْعِ ...
 وَكَانَ رَاسَهُمْ وَسِيدُهُمُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ضَرَّارٍ، وَكَانَ
 قَدْسَارٌ فِي قَوْمِهِ وَمِنْ قَدْرِ عَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ فَدَعَاهُمْ
 إِلَى حَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ... فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ
 عَلَيْهِ، فَبَعَثَ بَرِيْدَةَ بْنَ الْحَصِيبِ الْأَسْلَمِيَّ يَعْلَمُ
 عِلْمَ ذَلِكَ، ... فَأَخْبَرَهُ خَبِيرُ الْقَوْمِ، فَنَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ
 عَلَيْهِ النَّاسُ ... ثُمَّ أَنْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى
 الْمَرِيسِيعِ ... وَخَافُوا خَوْفًا شَدِيدًا، وَتَفَرَّقُ عَنْهُمْ مَنْ
 كَانَ قَدْ جَمَعَ إِلَيْهِمْ مِنَ أَفْنَاءِ الْعَرَبِ ... ثُمَّ أَنْ رَسُولُ

الله ﷺ امر أصحابه أن يحملوا، فحملوا حملة
رجل واحد، فما أفلت منهم إنسان، وقتل عشرة
منهم، وأسر سائرهم ... وكان ابن عمر يحدث أن
النبي ﷺ أغاث على بنى المصطلق وهم غارون ...
والحديث الاول أثبت عندنا ... وكانت الايل ألفي
بعير وخمسة آلاف شاة، وكان السبب مأتى اهل
بيت. (المغازي للواقدي ۳۰۳-۳۰۴)

ان تفصیلات کے ذکر کا مقصد اس طرف توجہ دلانا ہے کہ مولانا شبیل نے غزوہ مذکور کے
سلسلے میں جس روایت پر اعتماد کیا اور جس کا انتساب ابن سعد کی جانب کیا ہے، وہ روایت
درحقیقت واقعی کی ہے۔ نیز یہ کہ اس روایت کو صحیحین میں مردی حضرت ابن عمرؓ کی روایت کے
مقابلے زیادہ صحیح کہنے والے بھی اصحاب و ائمہ اور صحابہ ایں ہیں۔ یہ بھی ملاحظہ ہے کہ واقعی
مولانا شبیل کے نزدیک وضاءع، کذاب، ناقابل التفاس اور بالکل نظر انداز کردیے جانے کے لائق
ہیں۔ لہذا مولانا کے لیے مناسب تھا کہ وہ اس روایت کو سرے سے اپنی کتاب میں جگہ ہی نہ
دیتے، چہ جائے کہ انہوں نے اسے صحیحین کی روایت کے مقابلے میں لاکھڑا کیا۔

(ج) اس بحث کے آخر میں اس حقیقت کا اظہار بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح
حافظ ابن حجر عسقلانی نے "فتح الباری" میں غزوہ مذکور کے سلسلے میں صحیحین کی روایت کو راجح
اور روایات سیرت کو مرجوح قرار دیا ہے، اسی طرح ان سے پہلے ابن عبد البر مالکی نے "الدرر
فی اختصار المغاری والسیر" میں امام ابن حزم ظاہری نے "جوامع السیرة" میں اور
علامہ ابن القیم نے "زاد المعاد" میں صحیحین کی روایت کو ترجیح دی ہے۔

اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر نے دونوں طرح کی روایتوں کے
درمیان جمع و تطبیق کی بھی کوشش کی ہے (ملاحظہ ہو فتح الباری)۔ غزوہ بنی المصطلق

(۳۳۵۸-۳۳۶۲)



حضرت جویر یہ کا واقعہ :

ام المؤمنین حضرت جویر یہ بنو اصلق کے سردار حارث بن ابی هرارہ کی بیٹی تھیں۔ ان کے شوہر غزوہ بنو اصلق میں مارے گئے اور وہ دوسرے قیدیوں کے ہمراہ گرفتار ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ تقسیم غنیمت کے بعد حضرت ثابت بن قیس بن شناس کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے حضرت ثابت سے اپنی آزادی کے لیے کچھ رقم طے کر لی، جسے اصطلاح میں ”مکاتبت“ کہتے ہیں۔ پھر رقم کی فراہمی کے سلسلے میں وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئیں۔ اس وقت حضرت عائشہؓ کے پاس پہنچی ہوئی تھیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ جویر یہ صاحب جمال اور دلکش شکل و صورت کی ماں کیں ہیں اس لیے مجھے ان کا آپ ﷺ کے پاس آنا ناگوار ہوا مباراً آپ بھی ان کے حسن و جمال سے متاثر ہو جائیں۔ بہر حال انہوں نے جب آپ ﷺ سے اپنی آزادی کے لیے مالی تعاون کی درخواست کی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ اس سے اچھا برداشت کیا جائے تو کیا تم اسے قبول کرو گی؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف سے رقم ادا کر دوں اور تمہیں اپنی زوجیت میں لے لوں۔ حضرت جویر یہؓ نے اسے منظور کر لیا اور از واج مطہرات میں شامل ہو گئیں۔

یہ روایت ابن الحنفی کی ہے اور حضرت عائشہؓ سے سند متصل ٹکے ساتھ مروی ہے۔ اس روایت کے تمام راوی قابل اعتبار و استناد ہیں۔ خود ابن الحنفی مدرس ہیں، لیکن چونکہ اس روایت کے بعض طریق میں انہوں نے تحدیث کی تخریج کر دی ہے، اس لیے روایت بے غبار ہے اور درجہ حسن کی ہے۔ سیرت دثار الخ کے علاوہ کتب حدیث میں بھی اس کی تخریج کی گئی ہے، چنانچہ امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں (کتاب الحنف) امام احمد بن حبیل نے مسند احمد میں، حاکم نے المسند رک میں، امام تیہیقی نے السنن الکبری میں (۹/۲۸۷) اور ابو یعلی الموصی نے مسند ابی یعلی میں ابن الحنفی کے طریق سے حضرت عائشہؓ سے موصول اس روایت کی تخریج کی ہے۔

مولانا شمسی کے خیال میں اس روایت کے بعض مندرجات قابل اشکال ہیں، اس لیے وہ روایت مذکور کے مقابلے میں الاصلیۃ اور طبقات ابن سعد کی ایک دوسری روایت کو واضح

بیحکم ہیں۔ چنانچہ ابن الحنفی کی حوصلہ بالا روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: یہ ابن الحنفی کی روایت ہے، جو ابن ہشام اور ابو داؤد دونوں میں موجود ہے۔ لیکن دوسرے طریق روایت میں اس سے زیادہ واضح بیان موجود ہے۔

اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت جویریہ کا باپ (حارت) رَسُولِ عَلِیٰ کی خدمت آیا، اور کہا کہ سیری بیٹی کنیثہ بن سعید کی، میری شان اس سے بالاتر ہے، آپ اس کو آزاد کر دیں۔ آپ نے فرمایا: کیا یہ بہتر نہ ہو گا کہ خود جویریہ کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ حارت نے جویریہ سے کہا کہ محمد نے تیری مرضی پر رکھا، دیکھنا مجھ کو رسوائی کرنا۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں رہنا پسند کرتی ہوں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ان سے شادی کر لی۔

یہ روایت حافظ ابن حجر نے "الاصابة" میں ابن منده سے نقل کر کے لکھا ہے کہ "اس کی سند صحیح ہے" اben سعد میں بھی یہ روایت مذکور ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں یہ روایت بھی کی ہے کہ "حضرت جویریہ کے والد نے ان کا زر فدیہ ادا کیا اور جب وہ آزاد ہو گئیں تو آنحضرت ﷺ نے ان سے نکاح کیا" (۳۱۸-۳۲۸)

رقم المخدوف عرض کرتا ہے کہ الاصابة اور طبقات ابن سعد کی مذکورہ بالا روایت جس کے ہمراں کو مولا ناشیلی نے زیادہ واضح قرار دیا ہے اور جس پر اعتماد کرتے ہوئے "اصل واقعہ یہ ہے" سے اس کی تعبیر کی ہے، اگر سند کے لفاظ سے درست اور قابل استناد ہوتی، جب بھی مولا ناشیلی کے اپنے اصول اور قاعدہ مسلم کے مطابق ابن الحنفی کی حضرت عائشہؓ سے مردی روایت کے مقابله میں مرجوح قرار پاتی، کیونکہ سیرت کی روایت ہے اور حضرت عائشہؓ کی روایت کی تخریج کتب حدیث میں کی گئی ہے۔ یہ نکلو بر سنبھل فرض و احتمال فتحی، ورنہ صحیح صورت حال یہ ہے

کے الا صابة اور طبقات کی روایت مرسل ہونے کی ہنا پر پند اس قابل استناد نہیں، چہ جائیداً اسے حضرت عائشہؓ کی روایت کے بالقابل پیش کیا جائے۔ اس کی تفصیل ذیل میں ملاحظہ ہو: اول ایسے کہ الا صابة اور طبقات کی روایت سند کے لفاظ سے متصل نہیں بلکہ مرسل ہے۔ چنانچہ طبقات سے اس کی ابتدائی عبارت مع سند نقل کی جاتی ہے:

خبرنا عبد الله بن جعفر الرقی قال : حدثنا عبد الله بن عمرو، عن أبی قلابة أن النبی ﷺ سبی جويرية بنت الحارث، فجاء أبوها إلى النبی ﷺ فقال : إن ابنتی لا يسبی مثلها.....
(الحدیث) (طبقات) (۱۸۸)

حافظ ابن حجر نے بھی الا صابة میں اسے مرسل ہی کہہ کر نقل کیا ہے۔ چنانچہ لمحتہ ہیں:
ومن مرسل ابی قلابة قال : سبی النبی ﷺ جويرية يعني وتزوجها، فجاء ها أبوها
(الحدیث) (الاصابة) (۲۶۵۳)

یہی خلاصہ کلام یہ ہے کہ مولا ناشیلی کی پیش کردہ مذکورہ بالا روایت مرسل ہے، اس لیے بھی اسے حضرت عائشہؓ متصل روایت کے مقابل نہیں رکھا جاسکتا۔

ثانیاً یہ کہ سیرۃ النبی کے مذکورہ بالاقتباس میں مولا ناشیلی کا یہ فرمान کہ یہ روایت حافظ ابن حجر نے اصابة میں ابن منده سے نقل کر کے لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ تابع اور غلط فہمی پر بنی ہے۔ دراصل حافظ نے ابو قلابة کی اس روایت کے سلسلے میں ابن مندہ کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ ترمذی کی ایک روایت کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ترمذی کی فلاں حدیث ابن مندہ کی المعرفة میں ہمیں سند عالی سے پہنچی ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ چنانچہ حافظ کی اصل عبارت یہ ہے:

ومن طریق شعبۃ عن محمد بن عبد الرحمن مولیٰ ال طلحة عن کریب، عن ابن عباس قال : كان اسم جويرية برة فسموها رسول الله ﷺ جويرية -

وآخر الترمذى من طريق شعبة بهذا الاسناد الى ابن عباس، عن جويرية بنت الحارث أن النبي ﷺ مر عليها وهي فى مسجدها، ثم مر عليها قريباً من نصف النهار، فقال : ما زلت على ذلك؟ قالت : نعم قال : ألا اعلمك كلمات تقولهن : سبحان الله عدد خلقه (الحديث). ووقع لنا بعلو فى المعرفة لابن مندة وسند صحيح (الاصابة ۲۶۵/۳)

سیرت النبی کے مذکورہ بالاقتباس میں طبقات ابن سعد کی ایک اور روایت کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جس کے مطابق حضرت جویریہؓ کے والد نے ان کا زرفدیہ ادا کیا، اور جب وہ آزاد ہو گئی تو آخر پر حضرت ﷺ نے ان سے نکاح کیا۔
اس روایت کا ستم یہ ہے کہ واقعی کی روایت ہے، چنانچہ ابن سعد نے اپنی سند میں پہلًا نام واقعی کا ہی لیا ہے :

خبرنا محمد بن عمر، حدثنا عبد الله بن أبي الأبيض مولى جويرية عن أبيه قال : سمع رسول الله ﷺ بنى المصطلق، فوquit جويرية في السبي ف جاء أبوها فافتداها، فأنكحها رسول الله ﷺ بعد،
(ابن سعد ۸, ۱۱۷)

ہذا مولا ناشیلی کے نقطہ نظر کے مطابق اسے سیرۃ النبی میں جگہ ہی نہیں ملنی چاہیے تھی،
چنانچہ حضرت عائشہؓ کی مصل روایت کے بعد اسے بطور بیان واقعہ پیش کیا جائے؟

باب چہارم

حدیث کے بجائے سیرت کی کتابوں پر اعتماد

مولانا شلی نے اپنی تصنیف سیرت کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی ہے کہ سیرت کے جو واقعات بخاری و مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہیں، ان کے سلسلے میں کب سیرت و تاریخ کی روایات سے انہوں نے صرف نظر کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

جو واقعات بخاری و مسلم وغیرہ میں مذکور ہیں، ان کے مقابلے میں سیرت یا تاریخ کی روایت کی کوئی ضرورت نہیں۔

(سیرۃ النبی ارجمند ۱۰۰)

اس اصول کی صحت اور درستگی میں کوئی کلام نہیں۔ لیکن ”سیرۃ النبی“ کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعض دوسرے مفید اور کارآمد اصولوں کی طرح مولانا نے اس پر بھی ہر جگہ عمل نہیں کیا ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں اس اصول کی خلاف ورزی کی مثالیں جا بجا موجود ہیں۔ اس کی تفصیلات آئندہ صفحات میں پیش کی جاتی ہیں۔

قبل کعب بن اشرف :

معنف سیرۃ النبی نے اس واقعے کے ضمن میں سیرۃ ابن ہشام، تاریخ غمیس، تاریخ

یعقوبی اور طبقات ابن سعد کے حوالے سے مختلف جزئیات و تفصیلات نقل کی ہیں، جن میں سے از روئے سند کوئی بھی قابل استاد نہیں۔ اس کے علاوہ عکرم سے مردی ایک ضعیف روایت، نیز بلکل سے مردی ایک دوسری روایت کے حوالے سے بھی بعض بیانات نقل کیے ہیں۔ (سیرۃ النبی ارجمند ۲۰۵)

دوسری طرف صحیح بخاری میں اس واقعے سے متعلق جو تفصیلات مذکور ہیں ان کا پیشتر حصہ مولانا نے قلم انداز کر دیا ہے۔ بعد میں مولانا سید سلیمان ندوی نے یہنے القوسین ان کا اضافہ کیا ہے۔ مزید برآں یہ ک صحیح بخاری کے حوالے سے مولانا شبلی نے بعض باتیں جوکھی ہیں، ان پر تاویل و توجیہ اور مخذرات کا انداز غالب ہے۔ اس ضمن میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کعب بن اشرف کی خباشوں اور ایڈ ار سانیوں کی تفصیلات کے سلسلے میں مولانا نے ابن الحنفی کی مرسل روایت پر اعتماد کیا ہے: حالانکہ ابو داؤد کی ایک مندرجہ روایت میں اس کی شرارتیں کا بیان موجود ہے۔ مولانا کو اصولاً اسی پر اپنے بیان کی بنیاد رکھنا چاہیے تھی، پھر زائد تفصیلات ابن الحنفی سے لے سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، صرف حاشیے میں ابو داؤد کی طرف اشارہ کر دیا، واضح رہے کہ ابو داؤد کی روایت زیادہ مفصل اور مکمل شکل میں تبیخی کی دلائل النبوة (۱۹۶/۳) ۱۹۸ موجود ہے۔ اس کے علاوہ تبیخی نے اسی کتاب میں حضرت جابر بن عبد اللہ کی بھی ایک روایت نقل کی ہے، جس میں کعب بن اشرف کی عداوتیں اور ایڈ ار سانیوں کا تذکرہ ہے۔

حضرت سعد بن معاویہ کا واقعہ :

غزوہ خندق کے واقعات کے ضمن میں مولانا شبلی نے اس واقعے کی تفصیل اس طرح

تلمیز بند کی ہے:

حضرت عائشہؓ بھس قلعے میں پناہ گزیں تھیں، حضرت سعد بن معاویہ کی ماں بھی وہیں ان کے ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ میں قلعے سے نکل کر باہر پھر رہی تھی، عقب سے پاؤں کی آہٹ معلوم ہوئی، مڑ کر دیکھا تو سعدؓ ہاتھ میں خربہ لیے جوش کی حالت میں بڑی تیزی سے ہڑھے جا رہے ہیں اور یہ شعر زبان پر ہے:

لبث قليلاً تدرك الهيحا جمل لابأس بالموت إذا الموت نزل
ذر شہر جاتا کر لزاں میں ایک اور شخص پہنچ جائے وقت جب آگیا تو موت سے کیا ذر ہو
حضرت سعدؑ کی ماں نے سنا تو پکاریں ہیٹا! دوز کر جاتو نے دری
لگادی۔ سعدؑ کی زرہ اس قدر جھوٹی تھی کہ ان کے دونوں ہاتھ باہر
تھے۔ حضرت عائشؓ نے سعدؑ کی ماں سے کہا کاش سعدؑ کی زرہ لمبی
ہوتی۔ اتفاق یہ کہ ابن العرقہ نے تاک کر کھلے ہوئے ہاتھ پر تیر
مارا، جس سے اکحل کی رگ کٹ گئی اخ... (سیرۃ النبی ۲۲۲/۱)

مولانا شبیل نے اس واقعہ کے لیے سیرۃ ابن ہشام، تاریخ طبری اور تاریخ غمیس کا
حوالہ دیا ہے۔ لیکن یہ سیرت و تاریخ کی کتابیں ہیں۔ ان کے بجائے مصنف کو اپنے قائم کردہ
اصول کے مطابق مسند امام احمد (۱۳۲) کا حوالہ دینا چاہیے تھا۔ جس میں یہ روایت حضرت
عائشؓ سے موصولة مردوی ہے۔ بالخصوص اس لیے بھی کہ سیرۃ ابن ہشام کی روایت سند کے لحاظ
سے منقطع ہے اور تاریخ غمیس ایک متاخر ماذد ہے، جس کا مصنف حسین بن محمد بن الحسن الدیار
بکری (متوفی ۹۶۶ھ) دسویں صدی ہجری کا آدمی ہے۔

پیداوار خبر کی عادلانہ تقسیم :

اس سلسلے میں مولانا لکھتے ہیں:

فتح کے بعد ز میں مفتوحہ پر قبضہ کر لیا گیا، لیکن یہود نے درخواست
کی کہ ہمارے قبضے میں رہنے دی جائے، ہم پیداوار کا نصف حصہ
ادا کریں گے۔ یہ درخواست منظور ہوئی، بنائی کا وقت آتا تو
آنحضرت ﷺ عبد اللہ بن رواحہ کو سمجھتے تھے۔ وہ غلے کو دھوکوں
میں تقسیم کر کے یہود سے کہتے تھے کہ اس میں سے جو حصہ چاہو لے
لو۔ یہود اس عدل پر تحسیر ہو کر کہتے تھے کہ ”زمین و آسمان ایسے ہی
عدل سے قائم ہیں۔“ (۳۸۹-۳۹۰)

حدیث کے بجائے سیرت کی کتابوں پر اعتماد

مولانا نے ان تفصیلات کے لیے فتوح البلدان اور تاریخ طبری کا حوالہ دیا ہے۔ حالانکہ ان امور کا تذکرہ سنن الیبی داؤد (كتاب البيهقی : باب المساقاة) اور تیہقی کی دلائل الشیوه (باب ماجری بعد الفتح فی الکنز الخ ۲۳۰/۲) میں بھی موجود ہے، مولانا کو اپنے اصول کے مطابق کتب حدیث کا حوالہ دینا چاہیے تھا۔ بالخصوص طبری کا حوالہ اس لیے بھی غیر ضروری تھا کہ اس میں ذکور سلسلہ زیر بحث کی روایات بعض بے سند ہیں (۹۵/۳) اور بعض مرسل ہیں (۹۸/۳) اس کے برخلاف ابو داؤد کی روایت حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے اور تیہقی کی روایت حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے موصولة مروی ہے۔

قتل ابی رافع :

مولانا شبیل نے اس واقعے کا بیان چند سطروں میں سرسری اور اجمالی انداز میں کیا ہے، حالانکہ اس سے متعلق صحیح بخاری میں حضرت براء بن عازبؓ کی دو مفصل روایات موجود ہیں۔ (كتاب المغارزی: باب قتل ابی رافع)

ثانیاً ابو رافع کی شرارت کے سلسلے میں ابن سعد کے ایک بیان پر اعتماد کیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں:

كَانَ أَبُورَافِعَ بْنَ أَبِي الْحَقِيقِ قَدْ أَجْلَبَ فِي غَطْفَانٍ
وَمِنْ حَوْلِهِ مِنْ مَشْرُكِي الْأَرْبَابِ وَجَعَلَ لَهُمْ الْجَعْلَ
الْعَظِيمَ لِحَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ۔ (سیرۃ النبی ۳۷۶)

لیکن درحقیقت ابن سعد کا یہ بیان لفظ بلفظ واقدی سے ماخوذ ہے، چنانچہ مغارزی واقدی کی عبارت یہ ہے:

وَكَلَّ أَبْنَ أَبِي الْحَقِيقِ قَدْ أَجْلَبَ فِي غَطْفَانٍ وَمِنْ
حَوْلِهِ مِنْ مَشْرُكِي الْأَرْبَابِ، وَجَعَلَ لَهُمْ الْجَعْلَ الْعَظِيمَ
لِحَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى۔ (المغارزی للواقدی ۳۹۳)

اس لیے بہتر تھا کہ مولانا نے یہاں ابن الحکیم کا حوالہ دیا ہوتا، کیونکہ وہ واقدی کے

مقابلے میں زیادہ مستند ہیں اور اس سے زیادہ بہتر یہ قہا کہ اس سلسلے میں حضرت عروۃ بن زبیر کی اس مرسل روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے جسکی نے دلائل النبوة میں اور ابن عبد البر نے "الدرر" میں نقل کیا ہے۔ کیونکہ عروۃ واقعی اور ابن الحنفی دونوں سے زیادہ معترض اور زیادہ قدیم ہیں، روایت کے الفاظ دلائل النبوة سے نقل کیے جاتے ہیں۔

وكان سلام بن أبي الحقيق قد أجلب فی غطفان
ومن حوله من مشرکي العرب، يدعوهم إلى قتال
رسول الله ﷺ، ويجعل لهم الجعل العظيم،
فاجتمعوا معهم غطفان وحيى بن أخطب بعكة، قد
استغفوا أهل مكة، حدثهم أن عشيرتهم يتربدون
بتلك البلاد، ينتظرون المدد والأموال، وأطاعت
لهم غطفان، وبعث رسول الله ﷺ إلى ابن أبي
الحقيقة عبدالله بن عتيك بن قيس بن الأسود،
واباقتادة بن ربعي، وأسود الخزاعي وأمر عليم
عبدالله بن عتيك، فبيتواه ليلاً فقتلوه. (۳۸/۳)

غزوہ موتہ :

اس غزوے کے سیاق میں مولانا لکھتے ہیں :

جب یہ شکست خورده فوج مدینے کے قریب پہنچی اور اہل شہر ان کی
مشایعت کو نکلے تو لوگ غنواری کے بجائے ان کے چہروں پر خاک
پھینکتے تھے کہ افرار یا تم خدا کی راہ سے بھاگ آئے۔

(سیرۃ النبی ارجے ۵۰)

مولانا کے اس بیان پر خود مولانا سید سلیمان ندوی نے تعقب کرتے ہوئے لکھا ہے:
مصنف نے یہاں ابن الحنفی کی روایت پر اعتماد کر کے اس فوج کو
شکست خورده لکھا ہے اور ان کی واپسی پر ان سب کو بلا امتیاز فراری

حدیث کے بجائے سیرت کی کتابوں پر اعتماد

ہونے کا سختق ظاہر کیا ہے، لیکن جیسا کہ صحیح بخاری غزوہ موت میں ہے کہ حضور انور ﷺ نے ازروے وحی فرمایا کہ پھر اللہ کی ایک تکوار یعنی خالد سیف اللہ نے مسلمانوں کے علم کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے دشمن پر غالبہ دیا۔ (فتح اللہ علیہم) الخ... (حاشیہ سیرۃ النبی ارجے ۵۰۸-۵۰۸)

راقم عرض کرتا ہے کہ مولانا شبلی کو یہاں بھی کتب سیرت کے بجائے حدیث کی کتابوں سے استفادہ کرنا چاہئے تھا۔ مثلاً سنن ابی داؤد (كتاب الجهاد: باب في الدابة تعرقب في الحرب) مسند احمد بن حنبل (مسند عبدالله بن جعفر بن ابی طالب ۲۰۵-۲۰۳) اور سنن سعید بن منصور (باب جامع الشهادة: رقم الحديث ۳۸۳۵) قسم ثانی مجلد ثالث ص ۳۲۱-۳۲۲)

ان میں سے بعض کتابیں مولانا کی وفات کے بعد شائع ہوئی ہیں، لیکن ان کے متعلق اقتباسات حافظ ابن حجرؓ نے فتح الباری میں نقل کر دیے ہیں اور یہ کتاب مولانا کے سامنے موجود تھی۔

غزوہ حنین :

مولانا نے اس غزوے کے ملے میں لکھا ہے :

فتح کے بجائے وبلہ اول میں مطلع صاف تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے نظر انہا کر دیکھا تو رفقائے خاص میں سے کوئی پہلو میں نہ تھا۔

(سیرۃ النبی ۵۳۳)

مولانا سید سلیمان ندوی نے اس بیان پر بجا گرفت فرمائی ہے، چنانچہ تحریر فرماتے ہیں :

مصنف نے اول وبلہ میں مسلمانوں کی شکست تسلیم کی ہے۔ یہاں انھیں غیرہ اہل سیر کی رائے ہے لیکن حدیث صحیح کا بیان ہے کہ مسلمانوں کو پہلے کامیابی ہوئی لوگ غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن

کے تیر اندازوں نے موقع پا کر تیر اندازی شروع کر دی، جس سے مسلمانوں کی صفوں میں بے ترتیبی، انتشار اور پراگندگی پیدا ہو گئی۔

بخاری میں حضرت براء کے الفاظ یہ ہیں :

وإِنَّا لَمَا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ، أَنْكَشَفُوا فَأَكْبَبْنَا عَلَى الْغَنَامِ،
فَاسْتَقْبَلْنَا بِالسَّهَامِ (بخاری غزوه حشیخ) "اور ہم نے جب ان پر حملہ کیا تو وہ شکست کھا کر بچپے ہٹ گئے تو ہم لوگ مال نیمت پر ٹوٹ پڑے، تو انہوں نے ہم کو تیروں پر دھر لیا۔

(حاشیہ سیرۃ النبی ارجمند ۵۲۲)

یہ مشائیں ہمارے اس دعویٰ کی تقدیق کے لیے کافی ہیں کہ مولانا شیلی نے کتب سیرت و تاریخ کے بجائے کتب حدیث پر اعتماد کے اصول پر سیرۃ النبی کی تصنیف کے دوران پوری طرح عمل نہیں کیا۔

باب پنجم

روايات صحیحہ پر تنقید

گذشتہ مباحث کے ضمن میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ سیرۃ النبی کی تصنیف میں باوجود دعوائے صحت روایات صحیحہ کا التزام نہیں کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس میں رطب و یابس ہر طرح کی روایات موجود ہیں۔ اسی طرح کتب سیرت کے مقابلے میں کتب احادیث کی روایات کو رانچ قرار دینے کے اصول پر بھی ہر جگہ عمل نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طرح کتب سیرت کے بجائے کتب حدیث پر اعتاد کے وعدے کو بھی ہر جگہ نہیں بھایا جا سکا ہے۔ یہ گویا تفسیریہ کی شکل تھی۔ اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں افراط کا پہلو بھی موجود ہے۔ وہ اس طور پر کہ متعدد روایات صحیح پر کلام کر کے مولانا نے انھیں روکر دیا ہے حالانکہ محمد شین کے نزدیک وہ روایات قابل اعتقاد و استناد ہیں۔ آئندہ صفحات میں اس سلسلے کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

حدیث بدؤ الوجی :

اگرچہ سیرۃ النبی کی کتابی شکل میں طبع و اشاعت مولانا شبلی کی وفات کے بعد عمل میں آئی، لیکن اس کے دیباچے کا معتقدہ حصہ ”دیباچہ سیرۃ نبوی“ کے عنوان سے، مولانا آزاد کے ہفت روزہ الہلائیکلٹر میں: جنوری ۱۹۱۳ء سے فروری ۱۹۱۴ء تک چار قسطوں میں مولانا نے خود

شائع کر دیا تھا۔ جو تمی قسط میں مولا ناصر فرماتے ہیں :

ایک عجیب بات یہ ہے کہ سیرت نبوی کے نہایت اہم واقعات جو آج تک معرکہ الاراء ہیں اور جن پر ارباب آراء کے مختلف گروہ قائم ہو گئے ہیں، اکثر ان راویوں سے منقول ہیں، جوں بلوع کو نہیں پہنچ سکتے۔ حدیشوں میں ہے کہ جب آپ نے پہلی دفعہ حضرت جبریل کو دیکھا تو کانپتے ہوئے مگر میں تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھ کو اپنی جان کا ڈر ہے۔ بخاری کتاب التبیغہ میں روایت ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گردادنا چاہا۔ طبری میں ہے کہ آپ کو خیال ہوا کہ میرے حواس میں فرق آگیا ہے، حضرت خدیجہ نے کہا کہ ”نہیں خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا“ پھر وہ آپ کو ورقہ کے پاس لو آگئیں۔ ورقہ نے آپ کا بیان سنایا اور آپ کو تسکین دی۔

یہ روایت کس قدر تجھب انگیز ہے۔ سید المرسلین کو حضرت جبریل نظر آتے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کا نپتے ہیں، اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گردادنا چاہتے ہیں۔ حواس کی نسبت شہبز ہوتا ہے، پھر ایک عیسائی تسکین دیتا ہے، پھر کہیں تسکین ہوتی ہے۔

عالم ملکوت کے واقعات اور مشاہدات ہر شخص ادا نہیں کر سکتا۔ انحضرت نے جو کچھ دیکھا، جن الفاظ میں ادا فرمایا، اس کو راوی نے کس طرح سمجھا؟ کیونکہ ادا کیا؟ پھر درجہ بدرجہ راویوں تک آتے آتے کیا تبدیلیاں ہو گئیں؟ اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔

یہ خدا خواستہ رواۃ کی شان میں بدگمان نہیں بلکہ اقتضائے

حالت ہے۔ (ہفت روزہ الہلال ۱۲ افروری ۱۹۱۳ء ص ۸۹-۹۰)

مولانا شلی کے اس بیان پر تعجب کرتے ہوئے مولا ناصر کلتوی مدرسہ عالیہ

کلکت نے ”سیرت نبوی اور نقد روایات و آثار“ کے عنوان سے ایک مضمون تحریر کیا، جو ۲۱۴ اور ۱۹۱۳ء کے الہال میں شائع ہوا، ہم ذیل میں اس کے بعض اجزاء قلم کرتے ہیں۔

روایت کے ساتھ درایت کی پلیہ بہ پلہ نگاہ داشت، ایک ایسا ضروری امر ہے، جس سے غالباً کسی کو اختلاف نہ ہوگا، اس لیے کہ درایت نقد روایت کے لیے ایک کسوٹی ہے جس سے جید کورڈی سے امتیاز کیا جاتا ہے۔ علمائے ربانیین نے اس سے جھوٹوں کا ناطقہ بند کر دیا، لیکن اس کا اس طرح استعمال جس سے قلب موضوع ہو جائے اور جس غرض کے لیے اس کا ایجاد ہوا اسی کو قلع و قع کر دے، انصاف کا خون کرنا ہے۔

بدایت و حجی کی حدیث صحیحین میں بطریق مختلف مردوی ہے، اس کی نسبت غایت استبعاد ظاہر کیا ہے..... اس کی راوی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ہیں۔ ان کا حفظ اور ضبط مستغنى عن البيان ہے۔

..... رہانا بالغی کا شہہ جو ناقد علامہ کوپیش آیا ہے تو وہ نہیں معلوم کر آیا وقت تخلی ہے یا پہ وقت ادا؟ پہ وقت ادا تو ہونیں سکتا کہ عروہ جوان کا بھانجما اور تائی ہے، ان سے روایت کرتا ہے۔ یہ زمانہ بعد زمانہ وفات نبوی ﷺ ہے اور حضرت کی وفات کے وقت عائشہ صدیقہؓ ۱۸ برس کی تھیں اور عروہ سے اس حدیث کا بیان کرنا یقیناً اس کے بعد ہو گا۔ رہا وقت تخلی، خواہ حضرت ﷺ سے نہا ہو، جیسا کہ ظاہر ہے، یا کسی اور صحابی سے، بہر حال اس وقت ان کے نابالغہ ہونے کا کیا ثبوت ہے؟..... فاضل ناقد کو اول یہ ثابت کرنا چاہیے کہ بوقت سننے کے حضرت عائشہ کم عمر تھیں۔

فاضل ناقد کو جوان و افات کے متعلق استبعاد ہوا ہے اور

اس کو درایت کے خلاف سمجھا ہے، اس پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ امور کچھ بھی درایت کے خلاف نہیں ہیں۔ انبیاء علیهم السلام آخر بشر تھے۔ «إِنَّنِي نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مُثْلِكُكُمْ وَلَكُنَ اللَّهُ يَعْلَمُ عَلَىٰ مَا يَعْمَلُونَ» اور نہ لوازم بشریہ ان سے منفک ہو سکتے ہیں اور نہ طبیعت بشری بدلتی ہے۔ انسان کی فطری عادت ہے جب وہ کسی غیر بالوف وغیر مانوس چیز کو، جس سے کبھی سابقہ نہ پڑا ہو دفعہ د دیکھتا ہے تو مرعوب اور خوف زدہ ہو جاتا ہے اور پھر کسی انہیں اور معتمد کے قابلی آمیز کلمات سے تشفی پانا بھی ایک امر طبعی ہے۔ (ہفت روزہ الہمال، ۲۱، جسمی ۱۲)

مولانا محمد اخلاق کلکتوی کے تقبی اور ان کے ردود افعال کا اتفاقاً نکدہ ضرور ہوا کہ حدیث مذکور سے متعلق تقدیم کا وہ حصہ مولانا شیلی نے اپنے دیباچے سے خارج کر دیا، جسے گذشتہ صفات میں اقتباس کی صورت میں ہم نقل کرائے ہیں۔ لیکن اس روایت کے پارے میں ازروئے درایت مولانا کو جو شکوہ و شبہات تھے، وہ بدستور قائم رہے۔ چنانچہ اصل کتاب میں جہاں اس روایت کے مندرجات انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں، وہیں اس سے متعلق اپنے خلبجان کا ذکر بھی پیرا یہ بیان بدلت کر دیا ہے، پھر آخر میں اس روایت کی سند پر کلام کرتے ہوئے اسے ناقابل اعتماد قرار دیا ہے۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں:

حافظ ابن حجر نے اس حدیث کے حصہ اول کی شرح میں مختصرین کا سیاعت ارض نقل کیا ہے کہ ”ایک پیغمبر کو نبوت میں کیونکر شک و شبہ ہو سکتا ہے اور ہوتا کسی عیسائی کے تسلیم دینے سے کیا تسلیم ہو سکتے ہے“ پھر ایک مشہور محدث کا یہ جواب نقل کیا ہے کہ ”نبوت ایک امر عظیم ہے۔ اس کا محل دفعہ نہیں ہو سکتا“ اس لیے آنحضرت ﷺ کو خواب کے ذریعے سے مانوس کیا گیا۔ پھر جب دفعہ فرشتہ نظر آیا تو آپ اتفاقاً بشریت سے خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت

خدیجہ نے آپ کو تسلیم دی، پھر جب ورقہ نے تصدیق کی تو آپ کو یقین ہو گیا۔ محدث مذکور کے الفاظ یہ ہیں :

”فَلَمَا سَمِعْ كَلَامَهُ أَيْقَنَ بِالْحَقِّ وَاعْتَرَفَ بِهِ“ جب آپ ﷺ نے ورقہ کا کلام سناؤ تو آپ کو یقین آگیا اور آپ ﷺ نے اس کا اعتراف کیا۔ محدث مذکور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وہی بار بار اس لیے رک جاتی تھی کہ آپ ﷺ رفتہ رفتہ اس کے برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں۔

لیکن جب ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ ”نبوت سے پہلے سفر شام میں جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے تھے، اس کی تمام شاخیں آپ پر جھک آئیں جس سے بھرا نے آپ کے نبی ہونے کا یقین کیا“ جب کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ”آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا“ جب کہ صحاح میں موجود ہے کہ ”نبوت سے پہلے فرشتوں نے آپ کا سینہ چاک کیا اور جسمانی آلاش نکال کر پھینک دی“ تو خود ان روایتوں کے روایت کرنے والے کیوں نکریا کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرشتے کا نظر آنا ایسا واقعہ تھا جس سے آپ اس قدر خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ایک دفعہ تسلیم ہو کر بھی بار بار اضطراب ہوتا تھا اور آپ اپنے آپ کو پہاڑ سے گردانیں کا ارادہ کرتے تھے اور بار بار حضرت جبریل کو طمینان دلانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ کیا اور کسی پیغامبر کو بھی ابتدائے وہی میں کبھی مشک ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ نے درخت سے آواز سنی کہ ”میں خدا ہوں“ تو کیا ان کو کوئی شبہ پیدا ہوا؟

حافظ ابن حجر وغیرہ کی پیروی کرنے کی ہم کو ضرورت

نہیں۔ ہم کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ خود اصل روایت بے سند مرفوع
متصل ہے یا نہیں؟ یہ روایت امام زہری کے بلاغات میں سے ہے
یعنی سند کا سلسلہ زہری تک ختم ہو جاتا ہے اور آگے نہیں پڑھتا۔
چنانچہ خود شارٹین بخاری نے تصریح کر دی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ
ایسے عظیم الشان واقعہ کے لیے سند مقطوع کافی نہیں۔

(سیرۃ ابن حبیب ۲۰۵-۲۰۶)

- گذشتہ صفات میں سنتوں مولانا شلی کے دونوں اقتباسات پر غور کرنے سے یہ نتیجہ
سامنے آتا ہے کہ حدیث مذکور سے متعلق امور ذیل مولانا کے لیے باعث فلنجان تھے۔
- (۱) فرشتے کو دیکھ کر آپ پر خوف و اضطراب کی کیفیت کیوں طاری ہو گئی؟
 - (۲) روایت کے سیاق سے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کو اپنی نبوت کے
بارے میں شک یا تردید تھا۔
 - (۳) ایک بیساکی کے تیکین دینے سے تیکن حاصل ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟
 - (۴) آپ ﷺ پر ایسا اضطراب کیوں طاری ہو جاتا تھا کہ آپ ﷺ بار بار اپنے آپ کو
پہاڑ سے گرا دینا چاہتے تھے۔

انھی اشکالات کی بنا پر مولانا نے اس روایت کی صحت پر استبعاد ظاہر فرمایا۔ چنانچہ اول نہ
اس پر یہ تقید کی کہ بعض نابالغ صحابہ سے مردی ہے اور اس میں جن واقعات و مشاہدات کا بیان کیا
گیا ہے، اس کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔ اس لیے اس کا اختلال ہے کہ راوی نے آنحضرت
ﷺ کے الفاظ کو پوری طرح نہ سمجھا، ہوا رکن و عن ادائے کر سکا ہو۔ یہ بھی اختلال ہے کہ درجہ بدرجہ
راویوں تک آتے آتے کچھ اور تبدیلیاں واقع ہو گئی ہوں۔ لیکن جب مولانا محمد اخْنَق کلکتوی نے یہ
وضاحت کی کہ یہ روایت بخاری و مسلم کی ہے اور حضرت عائشہؓ سے مردی ہے، جن کا ضبط وہم ایک
حقیقت سلسلہ ہے تو مولانا نے اس بیان کو اصل کتاب سے خارج کر دیا اور دوسری تقید یہ فرمائی
کہ یہ روایت بلاغات زہری میں سے ہے یعنی مقطع ہے اور آنحضرت ﷺ تک اس کا سلسلہ
سند نہیں پہنچتا۔

رقم المکرر عرض کرتا ہے کہ فام بخاری نے اس حدیث کا پورا من مجمع بخاری میں
تن جگہ نقل فرمایا ہے۔ اولاً: ”باب کیف کان بدؤ الوحی“ میں ثانیاً کتاب التفسیر:
سورہ اقرأ باسم ربک میں ہلأا۔ کتاب التعبیر باب أول مابدئی بہ رسول
الله ﷺ من الوحی الرویا الصالحة میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہر جگہ اس کی سند
متعلق ہے۔ چنانچہ امام زہری تصریح کرتے ہیں کہ ان سے یہ روایت حضرت عروہ بن زبیر نے
بیان کی ہے اور خود عروہ صاف لفکوں میں بتاتے ہیں کہ یہ روایت حضرت عائشہؓؑ کی بیان کردہ ہے
۔ (أخبارنی ابن شہاب أن عروة بن الزبیر أخبره أن عائشة زوج النبي
ﷺ قالت الله)

البتر روایت کا وہ حصہ یقیناً بلاغات زہری میں ہے جس میں سورہ علق کی ابتدائی
آیات کے نزول کے بعد کچھ مدت تک وہی کے رک جانے کا بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے
کہ اس زمانے میں آپ حزن و ملال کی شدت کی وجہ سے اپنے آپ کو بار بار پھر اسے گردانی
چاہتے تھے، تا آنکہ حضرت جبریلؐ سامنے آجاتے اور آپ کو تسلی دیتے تھے، واضح رہے کہ
روایت کا یہ حصہ صرف کتاب التعبیر میں نقل ہوا ہے اور اسی کے بارے میں شارحین بخاری
مشائش الدین کرمانی اور حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے یہ تصریح کی ہے کہ روایت کا یہ نکولا
متعلق سے مردی نہیں ہے۔ چنانچہ حافظ تحریر فرماتے ہیں :

ثُمَّ أَنَّ الْقَاتِلَ "فِيمَا بَلَغَنَا" هُوَ الْزَهْرِيُّ، وَمَعْنَى الْكَلَامِ: أَن
فِي جَمْلَةٍ مَا وَصَلَ إِلَيْنَا مِنْ خَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ فِي هَذِهِ
الْقَصَّةِ، وَهُوَ مِنْ بَلَاغَاتِ الْزَهْرِيِّ وَلَيْسَ مُوصَلًا، وَقَالَ
الْكَرْمَانِيُّ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ (فتح الباری ۱۲۱۶)

لہذا اس پوری روایت کے بارے میں مولانا کا یہ فرماتا کہ اس کی سند متعلق نہیں
مقطوع ہے یا غلط نہیں پرمی ہے یا ایک طرح کا مقابلہ ہے۔

روہ گئے حدیث مذکور سے متعلق مولانا کے اشکالات تو سب سے پہلے اشکال کا جواب
یہ ہے کہ فرضتے کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جانا پڑھا اور یہ نبوت کے منانی نہیں

مولانا شیلی بخشیت بیرت نگار

ہے۔ اس لیے کہ ایسا ہی خوف فرشتوں کو دیکھ کر حضرت ابراہیم پر بھی طاری ہوا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے خوف کی تعبیر کے لیے قرآن مجید میں "روع" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے 『فَلَمَا ذَهَبَ عَنْ أَبْرَاهِيمَ الرُّوعُ』 اور یہی لفظ حدیث مذکور میں آنحضرت ﷺ کے تعلق سے بھی استعمال ہوا ہے "حتى ذهب عنه الروع" اس کے علاوہ قرآن مجید میں خوف کی نسبت بھی حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ دونوں کی طرف کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے 『وَأَوْجَسْ مِنْهُمْ خِيفَةً』 اسی طرح فرماتے ہیں 『وَأَوْجَسْ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى』

دوسرے اشکال کے سلسلے میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مولانا سید فخر الدین احمد صاحب ایضاخ البخاری کی ایک عبارت نقل کردی جائے موصوف تحریر فرماتے ہیں :

حدیث شریف میں "لقد خشیت علی نفسی" فرمایا گیا ہے۔ بعض حضرات نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ یقین نہیں آیا کہ خداوندوں نے مجھے رسالت وہبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ بلکہ آپ کو یہ خیال تھا کہ کہیں میں دیوانہ تو نہیں ہو گیا ہوں۔ جس طرح اس عالم میں جن، بہوت دغیرہ انسان پر اپنے اثرات ڈال کر دماغی توازن کو خراب کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی معنی کے پیش نظر ان حضرات نے اس صحیح روایت کا انکار کر دیا ہے۔ کیونکہ کوئی شخص جب پیغمبر ﷺ نے اپنے تو اسے پیغمبری کا یقین ہوتا ہے اور یہ الفاظ تاریخ ہے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں۔ اس لیے کہ اس احساس خطرہ سے اشتباہ کا گمان ہوتا ہے۔ لیکن ایسا طریقہ بہت غلط ہے کہ ایک بالکل صحیح روایت کا صرف اس بناء پر انکار کر دیا جائے کہ آپ کی فہم کی رسائی حقیقت کلام تک نہیں ہو سکی ہے۔ دراصل اس "خشیت" کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اسے ماضی ہی کے معنی میں رکھیں یا مستقبل کے۔ اگر ماضی کے معنی

میں ہے تو آپ اس واقعے کی حکایت فرمائے ہے ہیں جو جریئل کے
دبانے سے پیش آیا تھا۔ مفہوم یہ ہے کہ جریئل نے اس شدت سے
نجھے دبایا کہ زندگی کا خطرہ ہو گیا، اس لیے کہ میری قوت برداشت
نے جواب دینا شروع کر دیا تھا۔ اور اگر اسے مستقبل کے معنی میں
لیں تو مفہوم یہ ہو گا کہ نبوت بڑی باوزن چیز ہے۔ دیکھا عالیٰ چاہیے
جو سنبھل جائے، مجھے تو اپنے متعلق خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ نبوت میں
اشتباه اس کا مفہوم نہیں ہے۔ (الیضاح البخاری جزء اول ص ۸۲)

مولانا شمسی کے تیرے اشکال کا باعث و فنا محدث امام علی کی ایک عبارت ہے۔
جسے حافظ نے فتح الباری میں نقل فرمایا ہے۔ عبارت کے الفاظ یہ ہیں۔ ”فلما سمع کلامہ
أَيْقَنَ بِالْحَقِّ وَأَعْتَرَفَ بِهِ“

مولانا نے اس عبارت کا مفہوم یہ سمجھا کہ آنحضرت ﷺ نے جب ورقہ کا کلام سن،
تو آپ کو حق کا یقین آگیا اور آپ نے اسے مان لیا۔ حالانکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ورقہ نے
جب آنحضرت ﷺ کی گفتگو سنی تو ورقہ کو حق کا یقین آگیا اور انہوں نے اسے تسلیم کر لیا۔
مولانا محمد ادریس کاندھلوی نے ”سیرۃ المصطفیٰ“ میں اس غلطی کی طرف متبنیٰ کر دیا ہے۔ چنانچہ
لکھتے ہیں :

علامہ شبیل نے یہ سمجھا کہ حضور پر نور کو اپنی نبوت و رسالت میں شک
تھا، ورقہ کے کہنے سے آپ کو اپنی نبوت کا یقین آیا۔ علامہ شبیل کا یہ
خیال بالکل غلط ہے۔ حضور پر نور کو اپنی نبوت و رسالت کا اول ہی
میں علم اور یقین حاصل ہو گیا تھا..... البتہ ورقہ کو آپ کا کلام سننے
کے بعد آپ کی نبوت کا یقین آیا اور پہچان لیا کہ وہی نبی ہیں جن کی
توبہت اور انجیل میں بشارت دی گئی ہے، اور آپ کی نبوت
و رسالت کی تصدیق کی، علامہ نے غلطی سے سمجھ دیا ہے۔ اور آپ کی نبوت
کی ضمیریں بجائے ورقہ کے حضور پر نور کی طرف راجح کیں اور غلطی

میں بتلا ہوئے۔ (سیرۃ المصطفی جلد اول ۱۳۰)

سلسلہ زیرِ بحث میں آخری اشکال سے متعلق مولا نا شبیر احمد عثمانی کا بیان بہت شانی ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسے یہاں نقل کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں :

اس فترت کا اثر حضور ﷺ پر بہت تھا۔ بعض وقت شدتِ حزن سے پھر اپنے پڑھ کر اپنے کو ہلاک کر لینے کا ارادہ کر لیتے، مگر ایسے وقت میں جریل سامنے آ کر کہتے تھے: انک لرسول اللہ حقا، یعنی کروہ کیفیت شدتِ حزن کی جاتی رہتی۔ متعدد بار ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ ہر بار جریل آ کر کہتے انک لرسول اللہ حقا، اس کو لوگوں نے یوں کہا کہ اگر آپ کونبوت کا یقین تھا تو پھر خود کشی کا ارادہ کیوں فرماتے تھے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تر دھما۔ مگر یہ غلط ہے کوئی لفظ دال علی التردید نہیں، بلکہ اس کے بعد میں یقین پر دال ہے۔ حدیث میں حزن کا لفظ ہے اور حزن کہتے ہیں غم کو، تو آپ کو اس کا غم تھا کہ جو نعمت ایک بار حاصل ہو چکی تھی، اس کا اعادہ نہ ہو رہا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کا محبوب چھوٹ جائے تو قدرتہ امہ حزن ہو گا۔ اسی طرح یہاں ہے کہ انتہائی اشتیاق تھا، اس میں ہلاک کر لانے کا خیال ہوتا تھا۔ یہ تو کمال یقین کی دلیل ہے۔

..... اس سے تردید کب ثابت ہوا؟ روع، خوف، اخطراب، برزہ وغیرہ کا پایا جاتا منافی یقین نہیں۔ (درس بخاری، از مولا نا شبیر احمد عثمانی ۶۲۳)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث سے متعلق مولا نا شبیلی کی تنقید میں خواہ درایتا ہوں یا روایتا، درست نہیں ہیں۔ رہ گئے اشکالاتِ لوان کے شانی جوابات بھی موجود ہیں۔

کنانہ اور اس کے بھائی کا واقعہ :

اس سلسلے میں مولا نا "سیرۃ النبی" میں لکھتے ہیں :

خیر کے واقعات میں ارباب سیر نے ایک سخت غلط روایت نقل کی ہے اور اکثر کتابوں میں منقول ہو کر متداول ہو گئی ہے، یعنی یہ کہ اول آپ نے یہود کو اس شرط پر امن عام دیا تھا کہ کوئی چیز نہ چھپائیں گے، لیکن جب کنان بن الربيع نے خزانہ بتانے سے انکار کیا تو آپ نے حضرت زبیرؓ حکم دیا کہ بختم کر کے اس سے خزانے کا پتہ لگائیں۔ حضرت زبیرؓ چھماق جلا کر اس کے سینے کو داغ نہ تھے۔ یہاں تک کہ اس کی جان لٹکنے کے قریب ہو گئی، بالآخر آپ نے کنان کو قتل کر دیا اور تمام یہودی لوگوں کی غلام بتالیے گئے۔ (۳۹۲/۱)

یہاں پہلی قائل اعتراض بات یہ ہے کہ مولا ناشبلی نے اس روایت کو "ارباب سیر" کی طرف منسوب کر کے اس کی حیثیت گھٹانے کی کوشش کی ہے، چنانچہ اس کے مأخذ میں صرف بلاذری کی فتوح البلدان کا حوالہ دیا ہے۔ حالانکہ صحیح صورت حال یہ ہے کہ یہ روایت خود بلاذری کے یہاں حضرت عبد اللہ بن عمر سے موصولة ہے مسند صحیح مردی ہے (فتوح البلدان ص ۳۵) پھر امام تیہقی کی "دلائل النبوة" میں بھی مذکور ہے (دلائل ۲۲۹/۳-۲۳۱) تیہقی ہی کے حوالے سے حافظ ابن کثیر نے بھی اسے "البدایۃ والتبایۃ" (۱۹۹/۲) میں نقل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں تیہقی کی اس روایت کی توثیق بھی کی ہے۔ لکھتے ہیں :

آخرجه البیهقی باسناد رجاله ثقات، (فتح الباری ۱۹۷۸)

اس کے علاوہ سن ابی داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ البتہ امام ابو داؤد نے اپنے طریقے کے مطابق روایت میں اختصار سے کام لیتے ہوئے حضرت زبیرؓ کے ذریعے کسی کو سزا دینے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ لیکن اس روایت کا سیاق صراحتاً اس پر دلالت کر رہا ہے کہ ابن ابی الحفیظ کو خزانہ چھپانے کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں :

فَغَيْبُوا مَسْكَاهِ حَبِيبِيْ بْنِ أَخْطَبٍ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ

لِسْعِيَةِ أَيْنَ مَسْكَاهِ حَبِيبِيْ بْنِ أَخْطَبٍ؟ قَالَ أَذْهَبْتُهُ

النَّفَقَاتِ وَالْحَرَوْبَ، فَوَجَدُوا الْمَسْكَاهَ، فَقُتِلَ أَبْنَ أَبِي

محکم دلائل و برایین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الحقیق و سبی نساء هم و ذراریہم الخ (کتاب الخراج
والفین و الامارة : باب ملقاء فی حکم ارض خیبر
(۲۲۳/۲)

بیہقی کے بیہاں یہی روایت مفصل طور پر مذکور ہے۔ اس میں حضرت زبیرؓ کے
ذریعے مزرا کا بھی ذکر ہے اس کی عبارت یوں ہے :

..... و اشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئاً،
فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكاً فيه
مال و حلّ لحيي بن أخطب، كان احتمله معه إلى
خیبر حين أجلیت النضیر، فقال رسول الله ﷺ
لعم حیی لـ ما فعل مسک حیی الذي جاء به من
النضیر فقال أذهبته التفقات والحروب، فقال: العهد
قریب، والمال أكثر من ذلك، فدفعه رسول الله ﷺ
إلى الزبیر، فمسنه بعذاب فوجدوا المسک في
الغربة، فقتل رسول الله ﷺ ابني أبي حقيقة
وأحدهما زوج صفية بنت حیی بن أخطب، موسببی
رسول الله ﷺ نساء هم و ذراریہم، وقسم اموالهم
بالنکث الذي نکشوا الخ (دلائل النبوة ۲۳۰/۲)

ان تصریحات کے علی الرغم مولانا تحریر فرماتے ہیں :

اس روایت کا اس قدر حصہ صحیح ہے کہ کنانہ قتل کر دیا گیا، لیکن اس کی
وجہ یہ ہے کہ وہ خزانہ بتانے سے انکار کرتا تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ
ہے کہ کنانہ نے محمود بن مسلم کو قتل کیا تھا۔ طبری میں تصریح ہے :

لے مجازی موسیٰ بن عقبہ کی ایک عبارت جو بیہقی نے دلائل النبوة میں نقل کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درج
بن ابی الحقیق کے بیٹے کا نام بھی تھی تھا۔ اس لیے تم جی سے مراد غائب اکاذب بن ابی الحقیق ہے

شہ دفعہ رسول اللہ ﷺ ای محدث بن مسلمہ، فضرب عنقه بأخیہ محمود بن مسلمہ (سیرۃ النبی ﷺ / ۳۹۲-۳۹۵)

راقم عرض کرتا ہے کہ سلسلہ زیر بحث میں نہیں، ابو داؤد اور بلاذری کی جن روایات کا حوالہ دیا جا چکا ہے، ان کی سند یہ صحیح ہیں اور وہ صحابی رسول حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے موصولة مردی ہیں۔ ان میں کنانہ کے قتل کی وجہ بھی صراحتاً مذکور ہے لیکن مولانا سے قول نہیں کرتے اور نہ حدیث کی ان کتابوں، ان کی روایتوں اور ان کی سندوں کی طرف کوئی اشارہ کرتے۔ بلکہ ان سب کے مقابلے میں طبری کا ایک بیان نقل کرتے ہیں، جو ابن اسحق سے بلا سند مردی ہے، یعنی خود ابن اسحق کا قول ہے اور اس پر اپنے استدلال کی بنیاد رکھتے ہیں، حالانکہ دونوں میں قوت وضعف کے لحاظ سے نہ میں آسان کافر ہے۔

اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ مولانا نے طبری کی جس روایت کا فقرہ اور نقل کیا ہے اسی روایت کے ابتدائی حصے میں وہ تمام باتیں مذکور ہیں، جن کا مولانا انکار کرنا چاہتے ہیں، یعنی اہل خبر کا خزانے کو چھپانا، حضرت زیرؓ کا کنانہ پر بخوبی کرنا اور خزانے کا سراغ لگانا وغیرہ۔ طبری کے الفاظ یہ ہیں :

قال ابن اسحق : وأتى رسول الله ﷺ
بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، وكان عنده كنز
بني النضير فسأله فجحد أن يكون يعلم مكانه،
فأتى رسول الله ﷺ ب الرجل من يهود، فقال لرسول
الله ﷺ أني قد رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل
غداة، فقال رسول الله ﷺ لكنانة أرأيت إن
وحدثناه عندك أقتلك؟ قال نعم، فأمر رسول الله
ﷺ بالخربة فحفرت، فأخرج منها بعض كنوزهم، ثم
سأله مابقى، فأبى أن يؤذيه، فأمر به رسول الله
ﷺ الزبير بن العوام فقال : عذبه حتى تستأهل

ما عنده، فكان الزبير يقدح بزندہ فی صدره، حتی
أشرف على نفسه، ثم دفعه رسول الله ﷺ الى
محمد بن مسلمة، فضرب عنقه بأخيه محمود بن
مسلمة (٩٥/٣)

حاصل کلام یہ ہے کہ روایت کا جس قدر حصہ مولانا کے حسب منشاء ہے اسے وہ بے تکلف
و بلا تردی قبول فرماتے ہیں اور جس حصے سے وہ مطمئن نہیں ہیں اس پر اس طرح کلام فرماتے ہیں :
ابن الحنفی سے روایت کی ہے کہ یہ روایت طبری اور ابن ہشام دونوں نے
ابن الحنفی سے روایت کی ہے، لیکن ابن الحنفی نے اپر کے کسی راوی کا
نام نہیں بتایا۔ محدثین نے رجال کی کتابیوں میں تصریح کی ہے کہ ابن
الحنفی یہودیوں سے مغازی نبوی کے واقعات روایت کرتے تھے۔
اس روایت کو بھی انہی روایتوں میں سمجھنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ ابن
الحنفی ان روایوں کا نام نہیں لیتے۔ (سیرۃ النبی / ۳۹۵)

گویا طبری کی روایت کا وہ فقرہ جس میں محمود بن مسلم کے قصاص میں کنانہ کے قتل
کیے جانے کا ذکر ہے، اور کی سند کے مذکور نہ ہونے، ابن الحنفی کی بے اعتباری اور یہودیوں سے
استفادے کے امکان و احتمال کے باوجود معتبر و مستند ہے، لیکن ان کی اسی روایت کے بقیہ اجزاء
مذکورہ بالا وجود کی بنا پر غیر معتبر اور غیر مستند ہیں۔ ع

ناطقہ سر مجریاں ہے اسے کیا کہیے؟

اس کے بعد مولانا نے ابن سعد کے خواں سے دور روایتیں ذکر کی ہیں اور یہ تاثر دینا
چاہا ہے کہ ان دونوں روایتوں میں اصل واقعہ پر اضافے کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں :
اضافے کا پہلا قدم یہ ہے کہ ابن سعد نے بکر بن عبد الرحمن سے جو
روایت متصل نقل کی ہے، اس میں کنانہ کے ساتھ اس کے بھائی کا
نام بھی بڑھادیا ہے، یعنی دونوں قتل کر دیے گئے۔ ”فضرب
أعناقهما، وسبى أهليهما“ (سیرۃ النبی / ۳۹۶)

راقم عرض کرتا ہے کہ ابن سعد کی مکملہ بالا روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے موصولة مردی ہے، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ سند کے لحاظ سے اس کا درجہ حسن ہے۔ لہذا مولانا شبیل کا یہ کہنا کہ ابن سعد نے کنانہ کے ساتھ اس کے بھائی کا نام بھی بڑھادیا ہے، نہایت نامناسب پیرایہ بیان ہے۔ بلکہ حدیث اور فتن حدیث کے ساتھ زیادتی ہے علاوہ ازیں کنانہ کے ساتھ اس کے بھائی کے قتل کیے جانے کا ذکر تبیہت کی روایت میں بھی موجود ہے، لہذا ابن سعد یا ان کے سلسلہ روایات میں سے کسی کو بھی اس پر مطعون نہیں کیا جاسکتا۔ ابن سعد کی روایت کی سند اور اس کے ابتدائی فقرے اس طور پر ہیں :

”أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قاضِي الْكُوفَةِ،

حَدَّثَنِي عَيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى

الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى

الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ الْحَكْمِ، عَنْ مَقْسُمٍ، عَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ

قَالَ: لَمَّا ظَهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ

يَخْرُجُوا بِأَنفُسِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ، لَيْسَ لَهُمْ بِيَضَاءٍ

وَلَا صَفَرَاءَ، فَأَتَى بِكَنَانَةَ وَالرَّبِيعَ“

ای روایت میں آگے چل کر یہ الفاظ بھی آتے ہیں :

فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمَا وَسَبَى أَهْلَيَهُمَا الْخَ (طبقات ابن سعد ۲/۱۲)

مولانا آگے تحریر فرماتے ہیں :

یہاں تک بھی خیریت تھی لیکن ابن سعد نے عفان بن مسلم سے جو

روایت نقل کی ہے، وہ اس سے زیادہ وسیع ہو گئی ہے، یعنی دونوں

بھائیوں کے ساتھ تمام یہودی گرفتار اور لوٹدی غلام ہنالیے گئے

”فَلَمَّا وَجَدَ الْمَالَ الَّذِي غَيْبُوهُ فِي مَسْكِ الْجَمْلِ سَبَى

نَسَاءَهُمْ“ (سیرۃ النبی ۱/۳۹۶)

یہاں مولانا نے ابن سعد کی جس روایت کا حوالہ دیا ہے، وہ بھی سند کے لحاظ سے قوی

ہے اور اصلاً تینیں، ابو داؤد اور بلاذری کی روایت کا اختصار ہے لیکن اس میں تمام یہودیوں کی گرفتاری اور انھیں لوٹی غلام بنا لیے جانے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ صرف ان کی عورتوں کی گرفتاری کا ذکر ہے اس لیے اس مضمون کے نقل کرنے میں ابن سعد کا کوئی قصور ہے، نہ عفان بن مسلم کا۔ بلکہ جیسا کہ عرض کیا جا پکا یہ مضمون حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے موصول امردی ہے اور اس کی سند ہر جگہ درست اور صحیح ہے۔ روایت کی سند اور ابتدائی فقرے یہ ہیں:

أخبرنا عاصفان بن مسلم، أخبرنا حماد بن سلمة قال :

أخبرنا عبيد الله بن عمر قال : وأظنه عن نافع، عن

ابن عمر قال أتى رسول الله ﷺ أهل خير

عندالفجر، فقاتلهم حتى أحاجهم إلى قصرهم وغلبهم

على الأرض والنخل الخ (طبقات ابن سعد/ ۲/ ۱۱۰)

آخر میں مولا نا لکھتے ہیں :

لیکن جب یہ روایتیں محدثانہ اصول تقدیم سے جانچی جاتی ہیں تو

چلکے اترتے جاتے ہیں اور اصل حقیقت رہ جاتی ہے۔ یہود کا قتل

اور زن و پچ کا گرفتار، وہ ایک طرف، خود صحیح بخاری سے ثابت ہے

کہ کنانہ کا بھائی سکھ قتل نہیں کیا گیا اور حضرت عمر کے زمانہ میں خلافت

تک موجود تھا۔ صحیح بخاری میں ہے۔ "فَلِمَا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى

ذلِكَ أَتَاهُ أَحَدٌ بْنِ أَبِي الْحَقِيقِ، قَالَ يَا مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

أَتَخْرُجُنَا؟ وَقَدْ أَفْرَنَا مُحَمَّدٌ وَعَامِلُنَا عَلَى الْأَمْوَالِ حَافِظٌ

إِنْ جَرَنَّ فِي الْبَارِيِّ مِنْ تَصْرِعَةٍ كَيْ ہے کہ یہ وہی کنانہ بن ابی

الحقیق کا بھائی تھا۔ (سیرۃ النبی / ۳۹۶ - ۴۹۷)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ مولا نا کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے واقعہ زیر بحث سے متعلق

روایات کو محدثانہ اصول تقدیم سے جانچا ہے، خود اصل حقیقت سے بہت دور ہے۔ بلکہ گذشتہ

صفحات میں پیش کردہ تفصیلات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ انہوں نے سلسلہ

زیر بحث میں محمد بنان اصول تقدیم سے بالکل کام نہیں لیا ہے۔ چنانچہ نہ روایات کے اصل مأخذ بتائے، نہ سندیں ذکر کیس، نہ سندوں پر کوئی کلام کیا نہ روایات کے وجہ ضعف بیان کیے اور نہ بعض روایات سے متعلق حافظ ابن حجر کی توثیق کا کوئی حوالہ دیا، بلکہ حق یہ ہے کہ محدثین کے اصول و طریق کے خلاف طرزِ عمل اختیار کیا اور متعدد روایات صحیح کو نشانہ تقدیم بنایا۔

ره گیا صحیح بخاری کے حوالے سے مولانا کا یہ ثابت کرتا کہ کنانہ کا بھائی بھی فتح خیر کے وقت قتل نہیں ہوا اور وہ حضرت عمر کے زمانہ خلافت تک زندہ موجود تھا اور اس کی تائید میں حافظ ابن حجر کی عبارت سے استدلال کرتا، تو یہ امور یقیناً قابل توجہ اور لاائق غور ہیں، لیکن اس باب میں بھی مولانا کا طریقہ کار محمد بنان اصول تقدیم کے مطابق نہیں ہے۔ کیونکہ جب روایات صحیح میں تعارض محسوس ہو تو اولاً ان میں تقطیق کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر تقطیق ممکن نہ ہو تو اسح اور اتوی کو راجح قرار دینا چاہیے۔ لیکن یہاں مولانا نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مزید برآں یہ کہ فتح الباری سے ابن حجر کا وہ بیان تو انہوں نے نقل کر دیا جو ان کے نقطہ نظر کے مطابق تھا، لیکن اسی فتح الباری میں ابن حجر کا ایک بیان اور بھی ہے، اس سے مولانا نے بالکل یہ صرف نظر کیا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ حافظ نے صحیح بخاری کتاب الشروط کی عبارت

”فَلَمَّا أَجْمَعَ عَمَرُ أَنَّاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحَقِيقِ“ کی شرح
کرتے ہوئے لکھا ہے: ”(قوله أحد بنى أبي الحقيق)
بِمَهْمَلَةٍ وَقَافِينَ مَصْغَرٍ، وَهُوَ رَأْسُ يَهُودِ خَيْرٍ، وَلِمَ
أَقْفَ عَلَى اسْمِهِ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْبَرْقَانِيِّ: فَقَالَ
رَئِيسُهُمْ: لَا تَخْرُجُنَا، وَابْنُ أَبِي الْحَقِيقِ الْآخِرُ
هُوَ الَّذِي زَوَّجَ صَفِيفَةَ بَنْتَ حَبِيْبِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقُتِلَ
بِخَيْرٍ، وَبَقَى أَخُوهُ إِلَى هَذِهِ الْغَايَةِ“ (فتاح الباری :
كتاب الشروط: باب اذا اشرط في المزارعة للخ ۲۵۶/۶)

مولانا شلی نے اسی عبارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں تصریح کی ہے کہ یہ وہی کنانہ بن ابی الحقیق کا بھائی تھا، لیکن کتاب المغازی: باب

قتل أبي رافع کے تحت حافظ نے یہ بھی لکھا ہے:

ولأبی رافع المذکور أخوان مشهوران من اهل خیبر، أحدهما: کنانة، زوج صفیہ بنت حیی قبل النبی ﷺ، وأخوه الربيع. بن أبی الحقيق، وقتلمها النبی ﷺ جمیعاً بعد فتح خیبر. (فتح الباری: کتاب المغاری: باب قتل أبی رافع، ۳۲۲-۳۲۳/۸)

حافظ کی ان دونوں عبارتوں کو پیش نظر رکھا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ فتح خیبر کے بعد کنانہ اور اس کا بھائی ربع رونوں مقتول ہوئے۔ رہ گیا اس کا وہ بھائی جو حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت تک زندہ تھا، تو حافظہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا نام نہیں معلوم (ولم أقف على اسمه) معلوم نہیں مولا ناشیلی نے حافظہ کی عبارت کے کس جزو سے یہ مفہوم برآمد کر لیا "یہ وہی کنانہ بن ابی الحقيق کا بھائی تھا؟" ظاہر ہے کہ مولا نا کا اشارہ ربع بن ابی الحقيق کی طرف ہے، حالانکہ حافظہ کی تصریح کے مطابق وہ فتح خیبر کے بعد ہی قتل ہو چکا تھا۔

اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ کنانہ کے قتل کے سبب کے سلسلے میں مصنف سیرۃ النبی نے جن روایات کو باہم متعارض سمجھ لیا ہے، درحقیقت وہ متعارض نہیں ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ خزانہ چھپانے کے علاوہ کنانہ کا ایک جرم محمود بن مسلم کا قتل بھی تھا۔ اب جب کہ خزانہ میں جانے کے بعد اس کے قتل کا فیصلہ کر لیا گیا تو آنحضرت ﷺ نے اسے محمد بن مسلم کے خواہی کر دیا تا کہ وہ اس سے خزانے پنے بھائی کا قصاص بھی لیں نہیں۔ اس حوالگی سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے خزانہ چھپانے کے جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ خود این الحق کی روایت میں اس کے دونوں جرائم کا تذکرہ ایک ہی جگہ موجود ہے اس کے علاوہ اس روایت میں "ثم دفعه" الخ

کے الفاظ بھی اسی صورت حال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس کا ذکر سطور بالا میں کیا گیا۔

اس بحث کی تکمیل کے لیے عرض کیا جاتا ہے کہ ان تمام امور کا تذکرہ حضرت عمروہ بن زہیر کی ایک روایت میں ہے تھیں نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے، صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اس کا اعلان حصہ درج ذیل ہے:

”وَكُنْتُ بْنُ أَبِي الْحَقِيقِ آنِيَةً مِنْ فَضْلَةٍ، وَمَا لَا كَثِيرًا،
كَانَ فِي مَسْكِ جَمْعٍ عِنْدَ كَنَانَةَ بْنَ رَبِيعَ بْنَ أَبِي
الْحَقِيقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَ الْآنِيَةُ وَالْمَالُ
الَّذِي خَرَجْتُمْ بِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ حِينَ أَجْلَيْنَاكُمْ؟ قَالُوا: ذَهَبَ،
وَخَلَفُوا عَلَى ذَلِكَ، وَأَعْلَمُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاءَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالْمَالِ الَّذِي عَنْهُمَا، فَدَفَعُوهُمَا
رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الزَّبِيرِ، يَعْذِيْهِمَا فَاعْتَرَفَ أَبِنُ عَمِ
كَنَانَةَ فَدَلَّ عَلَى الْمَالِ، ثُمَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ
الْزَبِيرَ، فَدَفَعَ كَنَانَةَ بْنَ أَبِي الْحَقِيقِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمَةَ، فَقُتِلَ، وَيُزَعَّمُ أَنَّ كَنَانَةَ هُوَ قُتْلُ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمَةَ“ (دلائل النبوة ۲۳۲/۳)

یہ روایت مرسل ہے اور اس کی سند میں ابن الحییع ضعیف ہیں۔ لیکن محدثین کے
نzdیک ان کی روایتوں سے استشهاد کی گنجائش موجود ہے۔ ابوکبر ایشی "مجموع الزوابع" میں جا بجا
لکھتے ہیں "حدیث حسن إذا توبع عليه"

ابوداؤد کی ایک روایت :

فتح کہ کے موقع پر آنحضرت ﷺ نے امن عام کا اعلان فرمایا تھا، لیکن بعض لوگ
جن کی تعداد میں اختلاف ہے، اس امن عام سے مستثنیٰ قرار دیے گئے تھے اور ان کے بارے
میں آپ ﷺ کا حکم تھا کہ جہاں میں قتل کر دیے جائیں۔ لیکن موالا ناشیلی کے نzdیک یہ روایات
خواہ کتب سیرت کی ہوں یا کتب حدیث کی، صحیح اور ثابت نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں ابوداود کی
ایک روایت کا حوالہ دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :

سب سے زیادہ معتبر روایت جو اس بارے میں پیش کی جاسکتی ہے،
وہ ابوداود کی روایت ہے جس میں مذکور ہے کہ آنحضرت ﷺ

مولانا شبیل بحیثیت سیرت نگار

نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ چار شخصوں کو کہیں امن نہیں دیا جاسکتا،
لیکن ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کر کے لکھا ہے کہ اس روایت کی
سن جیسی چاہیے مجھ کو نہیں ملی۔ (۵۲۵)

راقم المعرف عرض کرتا ہے کہ مولانا شبیل کا اس روایت پر تفاسیر اور ادب و جوہ صحیح نہیں ہے۔
ولذ: اس لیے کہ ابو داؤد کے قول کا مولانا نے صحیح ترجمہ نہیں کیا ہے۔ ابو داؤد کے الفاظ یہ ہیں:
لَمْ أَفْهَمْ اسْنَادَهُ مِنْ أَبْنَ الْعَلَاءِ كَمَا أَحَبَّ^۱ اس عبارت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس
روایت کی سن جیسی چاہیے مجھ کو نہیں ملی، بلکہ صحیح مطلب یہ ہے کہ اس روایت کی سند میں نے اپنے
استاد ابن العلاء سے اچھی طرح سمجھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی سند کا اچھی طرح نہ سمجھنا الگ بات
ہے اور سند مطلوب کا نہ سمجھنا الگ ہے۔ چنانچہ اول الذکر سے بے اعتباری پر استدلال نہیں کیا
جا سکتا اس کے برخلاف ثانی الذکر کو بے اعتباری کی دلیل شہرایا جاسکتا ہے۔
ثانیاً: اس لیے کہ اس روایت کے تمام راوی ثقہ اور قبل اعتبار ہیں عمرو بن عثمان کو حافظ ابن حجر
نے "تقریب التهذیب" میں "مقبول" کہا ہے۔ لہذا روایت کم از کم درجہ حسن کی ہے۔
ابوداؤد کے الفاظ یہ ہیں :

حدثنا محمد بن العلاء، ثنا زید بن حباب، أنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعید بن يربوع المخزومي قال: ثني جدي عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال ... الخ

ثالثاً: اس لیے کہ اس روایت کی تخریج اسی سند سے طبرانی نے بھی بحکم کبیر میں کی ہے اور طبرانی
کی روایت کے بازے میں یعنی نے مجمع الزوائد میں لکھا ہے: "رواہ الطبرانی ورجاله
ثقة" ۶/۲۷

(اس کی روایت طبرانی نے کی ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں) طبرانی کی سند اور
روایت کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں:

حدثنامعاذ بن المثنی، ثنا علی بن المدینی (ح)

وثنا موسی بن هارون، ثنا علی بن حرب الموصلي،

قالا ثنا زید بن الحباب، حدثني عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي، حدثني جدي عن أبيه سعيد، وكان يسمى الصرم أن رسول الله ﷺ قال يوم فتح مكة: أربعة لا أو منهم في حل ولا حرم ... الخ (المعجم الكبير للطبراني، تحقيق حمدى عبدالمجيد السلفي ۲۶/۶)

رابعاً: اس لیے کہ ابو داؤد اور طبرانی کی سندوں کو دیکھنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ زید بن الحباب کے تینوں شاگرد محمد بن العلاء، علی بن المدینی اور علی بن حرب الموصلي اس روایت کو ایک ہی طرح نقل کرتے ہیں، اس لیے یقین ہو جاتا ہے کہ روایت سند اور متن ہر دو لفاظ سے پوری طرح حفظ ہے۔

خامساً: اس لیے کہ اس روایت کو ایک ریب محمد بن العلاء سے جس طرح امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں، اسی طرح ابن العلاء سے اس حدیث کی روایت حسین بن محمد بن زیاد القبانی نے بھی کی ہے جو یہیں کی روایت النبوة میں موجود ہے اب اگر امام ابو داؤد یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ ابن العلاء سے اس کی سند اچھی طرح نہیں سمجھی، تو اس روایت کی صحت اس لیے متاثر نہیں ہوتی کہ ابن العلاء کے دوسرے شاگرد حسین بن محمد اس کو پوری طرح سمجھ کر نقل کرتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی روایت کے آخر میں سند کے الفاظ "حدتا بهدی عن ابیه" کا صداق بھی تتعین کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: أبو جده سعيد بن يربوع المخزومي (عمرو بن عثمان کے دادا کے والد سے مراد حضرت سعيد بن يربوع المخزومي ہیں)

یہاں اس کی وضاحت نامناسب نہ ہوگی کہ ابن العلاء کے شاگرد ذکر حسین بن محمد بن زیاد القبانی، ابو نصر کاباذی اور محمد شین کی ایک جماعت کے مطابق بخاری کے راویوں میں ہیں۔ حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء (۲۹۹/۱۳) میں ان کے لیے "الامام، الحافظ، الشقة، شیخ المحدثین بخراسان" کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اسی طرح امام ابو عبد الله المحکم نے انہیں "احد أركان الحديث وحفظ الدنيا" (فن حدیث کے ایک رکن) اور محکم دلائل و برائین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دنیا کے حافظوں میں سے ایک) کہا ہے، حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب (۲۳۶۹/۲) ان کے ترجیح میں ابو عبد اللہ بن یعقوب کا یقین قتل کیا ہے: "كان الحسين القباني أحفظ الناس لحديثه، واعرفهم بالأسماء والكنى، وكان مجتمع أهل الحديث بعد مسلم عنده" (حسین قبانی اپنی احادیث کے سب سے بڑے حافظ تھے، راویوں کے ناموں اور کہنوں کی انہیں سب سے زیادہ صرفت حاصل تھی، امام مسلم کے بعد ارباب حدیث کا سب سے زیادہ حجکھا انہیں کے یہاں رہتا تھا)

اب تیہن کی سند کے الفاظ ذیل میں قتل کیے جاتے ہیں:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَوْلَى الرُّوْذَبَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرَ بْنَ دَاسَةَ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو دَاوُدُ، قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَهُوَ أَبُوكَرِيبٌ (ح) وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكْرِيَاً الْأَرِيبِ، قَالَ حَدَثَنَا الْحَسِينُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ الْقَبَانِيُّ، قَالَ حَدَثَنَا أَبُوكَرِيبٌ، قَالَ حَدَثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ، قَالَ حَدَثَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ الْمَخْزُومِيِّ، قَالَ حَدَثَنَا جَدِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْخَ (دلائل النبوة للبيهقي ۶۲/۵)

ان تمام تفصیلات کا حاصل یہ ہے کہ ابو داؤد کی زیر بحث روایت کی تحریج دوسرے ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں کی ہے اور چونکہ اس کے زواہ ثقہ اور قابل اعتبار ہیں، لہذا روایت اور اس کا مضمون اپنی جگہ ثابت ہے۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ باقی رہ جاتا ہے کہ امام ابو داؤد کو اس سند میں کیا اتفاقاً و اشکناہ تھا؟ جسے وہ اپنے شیخ سے سمجھنا چاہتے تھے، لیکن کچھ نہ سکے۔ اس سوال کا جواب مولانا خلیل احمد سہار پوری بذریعہ محدثین یہ دیتے ہیں کہ اس روایت کی سند امام ابو داؤد نے شاید ابن العلاء کے کسی شاگرد سے معلوم کی ہوا اور وہ اسے اپنے شیخ سے

بھنگ کے خواہشند رہنے ہوں۔ موصوف کی اصل عبارت یہ ہے:

ولعله أقام له أسناد هذا الحديث بعض تلامذة

الشيخ محمد بن العلاء" (۱۸/۲)

لیکن اس جواب میں کمی یہ ہے کہ امام ابو داؤد نے آغاز سند ہی میں "حدثنا محمد بن العلاء" کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ روایت اپنے شیخ سے برآوراست سنی ہے، نہ ان کے کسی شاگرد سے۔

اس اشکال کا دوسرا جواب مولانا سید سلیمان عدوی نے سیرۃ النبی کے حاشیے میں دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس روایت کی تحریق امام دارقطنی نے بھی اپنی سنن میں کی ہے اور اس میں "حدثنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعید المخزومی" کے بعد "حدثني جدي عن أبيه" کے بجائے "حدثنا أبي عن جده" کے الفاظ آئے ہیں، ممکن ہے کہ امام ابو داؤد اپنے شیخ سے اسی فرق کے بارے میں سمجھنا چاہئے ہوں۔ سید صاحب کے الفاظ یہ ہیں:

"اس سے ظاہر ہے کہ سند کے اسی حصے میں ابو داؤد کوشک ہے" (۵۲۶/۱)

رقم الحروف عرض کرتا ہے کہ یہ جواب بھی تباحث سے خالی نہیں، ایک تو اس لیے کہ سند مذکور روایت زیر بحث کے ساتھ ابو داؤد، طبرانی اور نیقینی کے علاوہ امام مزی کی تہذیب الکمال (۱۱۳/۱) میں بھی منقول ہے اور ہر جگہ "حدثني جدي عن أبيه" کے الفاظ آئے ہیں یہی نہیں بلکہ خود سنن دارقطنی میں روایت زیر بحث کے بعد ایک اور روایت اسی سند سے مذکور ہے اور اس میں بھی "حدثني جدي عن أبيه" ہی آیا ہے۔ ذیل میں پوری روایت تقلیل کی جاتی ہے:

حدثنا ابراهیم بن حماد، نا علی بن حرب، نا زید

بن الحباب، حدثني عمر بن عثمان بن عبد الرحمن

بن سعید المخزومي، حدثني جدي عن أبيه سعید،

وكان يسمى الصرم، فقال رسول الله ﷺ : أنت

سعید، فأينا أكبر أنا أو أنت؟ فقال: أنا أقدم منك

مولانا شبلی بحیثیت سیرت نگار

و أنت أكبر مني، وأنت خير مني ”

(سنن الدارقطنی ۲۸۹/۲۔ اواخر کتاب الحج)

اس لیے ”حدثنا أبی عن جده“ کو املاء و کتابت کی غلطی یا کسی متاخر اوی کے وہم پر محکوم کیا جائے گا۔ لہذا اس بنیاد پر امام ابو داؤد جیسے امام حدیث اور صاحب فن کا بتلانے شک ہو جانا قرین قیاس نہیں معلوم ہوتا۔

دوسرے اس لیے بھی یہ جواب کمزور معلوم ہوتا ہے کہ دارقطنی کی سند میں مذکور

عبارت ”حدثنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعید المخزومی، نا أبی عن جده“ کا مطلب یہ ہوگا کہ روایت مذکور کو عمر نے اپنے والد یعنی عثمان سے اور عثمان نے اپنے والد یعنی حضرت سعید المخزومی سے نقل کیا۔ گویا عمر کے شیخ ان کے والد عثمان ہوئے اور عثمان کے شیخ ان کے والد حضرت سعید ہوئے لیکن اسماء الرجال کی کتابوں میں نتو عمر کا اپنے والد عثمان سے روایت کرنا ثابت ہے۔ اور حضرت سعید سے عثمان کی روایت کا ثبوت موجود ہے اس کے بخلاف کتب رجال میں تصریح کی گئی ہے کہ عمر اپنے والد عبد الرحمن بن سعید سے روایتیں نقل کرتے ہیں اور عبد الرحمن اپنے والد حضرت سعید کے شاگرد ہیں لہذا ثابت ہوا کہ سند مذکور میں ”حدثني جدي عن أبيه“ صحیح ہے اور ”حدثنا أبی عن جده“ املاء و کتابت کی غلطی یا بعد کے کسی راوی کا وہم ہے۔ ظاہر ہے کہ امام ابو داؤد سے بات مخفی نہیں رہ سکتی تھی۔

اس لیے بظاہر امام ابو داؤد کے اشکال کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس باب میں اختلاف ہے کہ صحیح نام عمر بن عثمان ہے یا عمر بن عثمان؟ چنانچہ اہن جوان نے کتاب الثقات (۷۴۹/۱)، دائرة المعارف حیدر آباد (۱۳۲/۲) میں اور اہن ابی حاتم نے الجرح والتتعديل (۱۳۲/۲) میں انھیں عمر بن عثمان لکھا ہے۔ امام مزی کی تصریح کے مطابق خود امام ابو داؤد نے اپنی کتاب

(الجرح والتتعديل کے مطبوعہ نسخے میں ”روی عن ابیه لکھا ہوا ہے، لیکن بیہاں بظاہر“ روی تکے بعد عن جده تجویٹ گیا ہے۔ اس کا تردید یہ ہے۔ ثقات اہن جوان میں ”یروی عن جده، عن ابیه“ کے لفاظ ملٹے ہیں۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ تہذیب الکمال اور تہذیب التہذیب دونوں میں ”روی عن جده عبد الرحمن“ مذکور ہے)

”التفرد“ میں اسی کو درست قرار دیا ہے۔ لکھتے ہیں : و قال فی کتاب ”التفرد“ : والصواب عمر بن عثمان (تهذیب الکمال ۱۵۲/۲۲) لیکن سنن ابو داؤد میں روایت زیر بحث کی سند میں ”أَبْيَانًا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ“ کے الفاظ آئے ہیں اس لیے لیکن ہے کہ ابو داؤد اپنے شیخ ابن العلاء سے اسی بارے میں استھنواب کرنا چاہتے ہوں، لیکن انھیں اس کا موقع نہ مل سکا ہولہذا انہوں نے روایت تو اسی طرح نقل کر دی جس طرح اپنے شیخ سے سنی تھی، البتہ چونکہ یہ نام ان کی تحقیق کے خلاف تھا، اس لیے انہوں نے اپنے خلبان کا اظہار بھی کر دیا۔

(والله اعلم و عليه انت و اعلم)

یہ بحث اگرچہ غیر متعلق نہ تھی، لیکن ضمی تھی۔ اصلاح اور اس بات پر دینا ہے کہ مولا نا شیلی کا ابو داؤد کی زیر بحث روایت کو قابل استدلال نہ تصور کرنا، درست نہیں۔ اس روایت سے متعلق یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس کے اخیر راوی حضرت سعید بن یربوع المجزوی فتح مکہ کے دن کے میں موجود تھے اور اسی دن مشرف پر اسلام ہوئے، اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہو گا وہ اپنی روایت میں جس واقعہ کو نقل کر رہے ہیں، اس کے معنی شاہد بھی ہیں۔

باب ششم

تضادات

مراستل صحابہ :

مطلوبہ سیرۃ انبی کے دوران متعدد مقامات پر تناقض و تضاد کا بھی احساس ہوتا ہے، یعنی مولا نا ایک موقع پر ایک بات کہتے ہیں اور دوسرے موقع پر اس کے بعد بخوبی ایک بات کہہ جاتے ہیں، یا کبھی ایک موقف اختیار کرتے ہیں اور دوبارہ اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ یا کبھی ایک طریق کا راضا تھے ہیں اور دوبارہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال مراستل صحابہ کی جیت اور عدم جیت کا مسئلہ ہے اس سلسلے میں مولا نا کے بیانات باہم مختلف اور متفاہ ہیں۔ چنانچہ ایک طرف حضرت عائشہؓ سے مردی حدیث بدء الوحی کے متعلق لکھتے ہیں:

یہ روایت حضرت عائشہؓ سے مردی ہے، لیکن حضرت عائشہؓ اس وقت تک پیدا نہیں ہوئی تھیں۔ محدثین کی اصطلاح میں اسی روایت کو مرسل کہتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا مرسل محدثین کے نزدیک قابل جمعت ہے۔ کیونکہ متروک راوی بھی صحابہ ہی ہوں گے۔

(حاشیہ سیرۃ انبیٰ (۲۰۲۷))

اسی طرح حدیث بھرتوں کے بارے میں رقم طراز ہیں:

امام بخاری نے باوجود اختصار پسندی کے اس کو خوب پھیلا کر لکھا ہے اور حضرت عائشہؓ کی زبانی لکھا ہے۔ حضرت عائشہؓ گواں وقت سات آنٹھ برس کی تھیں۔ لیکن ان کا بیان درحقیقت خود رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ کا بیان ہے کہ انھی سے من کر کہا ہو گا اور ابتداء ہے واقعہ میں خود بھی موجود تھیں۔ (۲۶۹/۱)

ان بیانات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مولا ناشبلی جہور کے مسلک کے مطابق صحابہ کی مرسل روایات کو جنت مانتے ہیں، کیونکہ متذکر راوی بھی صحابہ ہی ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف اسی کتاب میں موصوف کے ایسے بیانات بھی موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مراسیل صحابہ کو جنت نہیں مانتے۔ چنانچہ بخیر اراہب کی روایت پر نقد کرتے ہوئے لکھتے ہیں :
اس حدیث کے اخیر راوی حضرت ابو موی اشرفی ہیں۔ وہ شریک واقعہ نہ تھے اور اوپر کے راوی کا نام نہیں بتلاتے۔ (۱۸۱/۱)

اسی طرح ایمان ابوطالب سے متعلق حضرت میتب کی روایت پر اعتراض کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں :

محمد ثانہ حیثیت سے بخاری کی یہ روایت چندال قابل جنت نہیں کہ اخیر راوی میتب ہیں جو فتح مکہ میں اسلام لائے اور ابوطالب کی وفات کے وقت موجود نہ تھے۔ اسی بنا پر علامہ عینی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ”روایت مرسل ہے۔“ (۲۳۸/۱)

اجمال و تفصیل :

اسی طرح صحاح و سنن میں کسی روایت کے ذکر و عدم ذکر، یا اعداد میں اختلاف، یا اجمال و تفصیل کے فرق کے سلسلے میں بھی مولا ناکارویہ مختلف نظر آتا ہے، چنانچہ بسا اوقات وہ جہور کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے ان امور کو روایت میں باعث قدح تصور نہیں کرتے اور روایات میں جمع و تطبیق کی کوشش کرتے ہیں مثلاً ذیل کے بیانات ملاحظہ ہوں :

یہ واقعہ بخاری و مسلم میں بھی مذکور ہے، لیکن زیادہ تفصیل ابن الحنفی
و ابن سعد سے لی گئی ہے۔ ۱۸۷۹ (غزوہ ذی قردا)

اصل واقعہ صحیح بخاری میں کافی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے لیکن
تفصیل اور جزئیات حافظ ابن حجر نے بخاری کی شرح میں موسی بن
عقبہ اور ابن عائذ وغیرہ سے نقل کیے ہیں میں نے ان کو بھی لے لی
ہے۔ ۱۹۳۵ (فتح مکہ)

اس واقعہ کو مختصر؛ مسلم اورنسائی نے بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ تفصیل
مند امام احمد بن حبیل میں ہے۔ ۱۹۸۱ (حضرت ضماد بن شبلہ
کا قبول اسلام)

یہ واقعہ تمام کتب حدیث میں مذکور ہے، لیکن یہ تفصیل طبقات ابن
سعد سے مأخوذه ہے۔ مسلم میں صرف آنکھوں کا اندازہ کرنا مذکور
ہے۔ ۱۸۷۸ (عرینہ کے وحشیانہ افعال)

رسول اللہ ﷺ نے مذکور دیکھا تو صرف گیارہ جاں ثار پہلو میں
ہیں، جن میں حضرت علی رضی، حضرت ابو بکر، حضرت سعد بن ابی
وقاص حضرت زیر بن العوام، حضرت ابو جانہ، حضرت طلحہ رضا نام پر
تفصیل معلوم ہے صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ
کے ساتھ صرف حضرت طلحہ اور حضرت سعد زہر گئے تھے۔

۲۸۸۱ (غزوہ احمد)

یہ طیہ یہ تفصیل شامل ترمذی و منند ابن حبیل میں اور مختصر بخاری
و مسلم باب صفات النبی ﷺ میں بھی ہے۔ ۱۹۸۲ (حلیہ اقدس)
یہ حالات اگرچہ اجمالاً تمام کتابوں میں ہیں، لیکن ہم نے جو تفصیل
لکھی ہے، ابن سعد اور عسکر سے مأخوذه ہے۔ ۱۹۸۸ (غزوہ خندق)
اصل صحیح بخاری میں بھی واقعہ ہے، زائد تفصیلیں حافظ ابن حجر نے

اور کتابوں سے بڑھائی ہیں۔ ۳۶۳۱ (ہر قل کا واقعہ)

مذکورہ بالاعبار تین مولا ناشیلی کے قلم سے ہیں ان سے چند اصول برآمد ہوتے ہیں :
(الف) کسی واقعے کی تفصیلات کا صحیح یا سنن اربعہ میں مذکورہ ہونا، لازمی طور پر اس کے غیر معتبر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

(ب) صحیح بخاری میں کسی تعداد کے مذکور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری روایات میں مذکور اعداد اغلط ہیں۔ بلکہ محمد شین کے اصول کے مطابق جمع و تقطیق کی کوشش کی جائے گی۔

(ج) مختلف واقعات سیرت کے ذیل میں کتب سیرت و تاریخ میں مذکور تفصیلات بھی قابل قبول ہو سکتی ہیں، بشرطیکہ وہ روایات صحیح کے معارض نہ ہوں۔

دوسری طرف اسی سیرۃ النبی میں ایسے بیانات بھی موجود ہیں، جن سے ان اصولوں کی تردید ہوتی ہے۔ مثلاً مقتولین بنی قریظہ کے سلسلے میں لکھتے ہیں :

مقتولین کی تعداد ارباب سیر نے ۲۰۰ سے زائد بیان کی ہے، لیکن صحاح میں ۳۰۰ ہے۔ (۲۳۲/۱)

سوال یہ ہے کہ مصنف سیرۃ النبی نے اہل سیرت کی روایات کو بالکل یرد کرنے کے بجائے جمع و تقطیق کے اصول پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اور ارباب سیر کی بیان کردہ زائد تفصیلات کو اسی طرح قبول کیوں نہیں کر لیا جیسا کہ اسی کتاب میں متعدد مقامات پر کرچکے ہیں، یہ اعتراض اس وقت اور تکمیل ہو جاتا ہے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد شین نے اس موقع پر روایات میں جمع و تقطیق کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ مقتولین بنی قریظہ کے سلسلے میں حافظاً نے مجرم عقلانی تحریر فرماتے ہیں :

واختلف في عدتهم، فعنده ابن اسحاق أنهم كانوا ست مائة، وبه جزم أبو عمر في ترجمة سعد بن معاذ، وعند ابن عائذ من مرسل قتادة: كانوا سبع مائة، قال السهيلي: المكثري يقول: إنهم مابين الثمانمائة إلى التسع مائة، وفي حديث جابر عند الترمذى، والنمسائى، وابن حبان بأسناد صحيح أنهم كانوا أربع مائة مقاتل، فيحصل في طريق

الجمع أن يقال: إن الباقيين كلنوا أتباعاً، قد حكى ابن ساحق أنه قيل: إنهم كلنوا تسع مائة. (فتح الباري ۳۱۸/۸) (بوقرظہ کے مقتولین کی تعداد میں اختلاف ہے، ابن الحنفی کی روایت ہے کہ وہ لوگ ۲۰۰ کی تعداد میں تھے۔ ابو عمرو نے سعد بن معاذ کے ترجیح میں اسی تعداد کو توثیقی بتایا ہے۔ ابن عاصی کی روایت کے مطابق جو حضرت قادہ سے مرسا مروی ہے، ان لوگوں کی تعداد ۴۰۰ ہے تھی۔ سہیلی فرماتے ہیں کہ زیادہ تعداد بتانے والے کہتے ہیں کہ وہ لوگ ۹۰۰ سے ۸۰۰ کے درمیان تھے۔ حضرت جابرؓ کی حدیث کے مطابق جو ترمذی، نسائی اور ابن حبان کے یہاں سند صحیح سے مروی ہے، وہ ۳۰۰ سو جنگجو تھے۔ اس لیے ان روایات کو اس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ ۳۰۰ اصل جنگجو تھے اور باقی ان کے آگے پیچھے رہنے والے تھے۔ ان الحنفی نے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان کی تعداد ۹۰۰ تھی)

ای طرح فتح کمک کے واقعات کے مسئلے میں "اشتہار یا قتل" کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

ارباب سیر کا بیان ہے کہ آنحضرت ﷺ نے گواہی کے کوامن عام عطا کیا تھا، تاہم دس شخصوں کی نسبت حکم دیا کہ جہاں ملیں قتل کر دیئے جائیں۔ صحیح بخاری میں صرف ان خلل کا قتل مذکور ہے۔ (۵۲۳-۵۲۴)

یہاں مصنف سیرۃ النبی پر وہی اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر بخاری میں صرف ابن حلل کا قتل مذکور ہے تو اس سے روایت سیرت میں مذکور اعداد کی نفی لازم نہیں آتی۔ اس لیے جمع ذائق کے بجائے روایات سیرت کے انکار پر اصرار کیوں کیا جائے؟ جب کہ اسی کتاب میں لانا نے جمع و تقطیق کے اصول پر عمل بھی کیا ہے۔

واضح رہے کہ سلسلہ زیر بحث میں ابو داؤد کی ایک روایت میں چار مردوں اور دو عورتوں کو امن نہ دیے جانے کا ذکر ہے۔ چونکہ ابو داؤد کی یہ روایت بھی بہ ظاہر ارباب سیرت کی روایت کے مخالف معلوم ہوتی ہے اس لیے مولانا خلیل احمد سہارن پوری، ابو داؤد کی شرح بذل الحجہ و میں رفع تعارض کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

وأما قوله في الحديث : إلا أربعة نفر وإمرأتين ، فلا يخالف ما في السير ، فإن ذكر العدد لا يقتضي نفي ماوراء ، ويحتمل أن يكون ذكر العدد في وقت فحفظه الرواى . (بذل المجهود ۲/۱۸)

حدیث میں ”الأربعة نفر و إمرأتين“ (چار مردوں اور دو عورتوں کے علاوہ) کے الفاظ آئے ہیں، لیکن اسے کتب سیرت میں مذکور تعداد کے مخالف نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کسی تعداد کے ذکر کا مطلب اس کے سوا کی ثقی نہیں ہوتا۔ اس کا بھی اختلال ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کسی خاص وقت میں کوئی تعداد ذکر فرمائی ہو اور راوی نے اسے یاد کر لیا ہو)

بعینہ تہی بات بخاری کی روایت کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے کہ اس میں اگر صرف ابن خطل کے قتل کا ذکر ہے تو اس سے ارباب سیرت کی تخلیط نہیں ہوتی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مولانا کسی ایک اصول پر کار بند نہیں۔

اور آگے بڑھیے تو مصنف سیرۃ النبی کے متضاد طریق کار کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، اشتہاریان قتل کے سلسلے میں عبد اللہ بن خطل کا قتل کیا جانا مولانا شبی کو تسلیم ہے، مقیں بن شبیہ کا مقتول ہونا بھی ان کے نزدیک ثابت ہے۔ لیکن باقی لوگوں کا قتل کیا جانا، انہیں تسلیم نہیں۔ وجہ تفریق پر انہوں نے خود ہی روشنی ڈالی ہے۔ لکھتے ہیں :

صحیح بخاری میں صرف ابن خطل کا قتل مذکور ہے اور یہ عموماً مستلم ہے کہ قصاص میں قتل کیا گیا۔ مقیں کا قتل بھی شرعی قصاص تھا، باقی

جن لوگوں کی نسبت حکم قتل کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ کسی زمانے میں آنحضرت ﷺ کو ستایا کرتے تھے، وہ روایتیں صرف ابن الحنف تک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں، یعنی اصول حدیث کی رو سے وہ روایت منقطع ہے، جو قابل اعتبار نہیں۔ ابن الحنف کافی نفسہ ہو درج ہے وہ، تم کتاب کے دیباچے میں لکھا آئے ہیں۔ (۵۲۳/۱)

راقم المعرف عرض کرتا ہے کہ مولانا شبلی کی مذکورہ بالاعمارت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے این خطل اور مغیض کے قصاص شرعی میں قتل کیے جانے کا جن روایتوں میں تذکرہ ہے، وہ الگ روایتیں ہیں اور وہ قابل اعتبار واستناد ہیں، اس کے برخلاف وہ روایتیں جن میں آنحضرت ﷺ کی ایذ از سانی کے جرم میں بعض مردوں اور عورتوں کا قتل کیا جانا مذکور ہے، وہ ابن الحنف کی روایتیں ہیں اور سند میں اقتطاع کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہیں۔ لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح صورت حال یہ ہے کہ این خطل اور مغیض کے قتل کی وجہ جس روایت میں مذکور ہے وہ ابن الحنف کی وہی روایت ہے جس کے بارے میں مولانا کا ارشاد ہے کہ اصول حدیث کی رو سے وہ روایت منقطع ہے، جو قابل اعتبار نہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک ہی روایت کا کچھ حصہ مولانا کے نزدیک مسلم اور قابل اعتبار ہے اور اسی روایت کا باقی حصہ غیر معتبر اور غیر مستند ہے، حالانکہ سند ایک، راوی ایک اور روایت ایک ہے۔ سخت تعجب ہے کہ مولانا نے اپنے طریق کار کے تضاد کی جانب توجہ کیوں نہیں فرمائی؟ ذیل میں روایت کے الفاظ سیرت ابن بشام سے نقل کئے جاتے ہیں :

قال ابن اسحاق: وعبدالله بن خطل رجل من بنى تميم بن غالب وإنما أمر بقتله أنه كان مسلما، فبعثه رسول الله ﷺ مصدقاً وبعث معه رجلاً من الانصار، وكان معه مولى له يخدمه، وكان مسلما، فنزل منزلة، وأمر العولى أن يذبح له تيساً فيصنع له طعاماً فنام، فاستيقظ ولم يصنع له شيئاً فعدا

عليه فقتله، ثم ارتد مشركاً، و كانت له قينتان
فرتني و صاحبتها وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله
عليه السلام، فأمر رسول الله عليه السلام بقتلها معه.

والحويرث بن نقيد بن وهب بن عبد بن
قصي، وكان من يؤذيه بمكة.

قال ابن اسحاق: و مقيس بن صبابة وإنما
أمر رسول الله عليه السلام بقتله، بقتل الانصارى الذى
كان قتل أخاه خطأ، و رجوعه إلى قريش مشركاً.

وسارة: مولاً لبعض بنى عبد المطلب، و عكرمة
بن أبي جهل، وكانت سارة من يؤذيه بمكة. (سيرة
ابن هشام، ذكر فتح مكة)

واضح رہے کہ عبداللہ بن نطل کے سب قتل کے ملئے میں حافظ ابن حجر نے بھی فتح
الباری میں ابن الحنف کی مذکورہ بالاروایت کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا قابل لحاظ حصہ نقل کیا ہے۔
حافظ کی عبارت کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں:

والسبب في قتل ابن خطل وعدم دخوله في قوله:
من دخل المسجد فهو آمن ماروى ابن اسحاق في
المغارزي الخ

(فتح الباري باب دخول الحرم ومكة بغیر احرام)

تو اگر حافظ ابن حجر، ابن الحنف کی اس روایت کو بخاری کی روایت کے معارض تصور نہیں
کرتے، بلکہ بخاری کی روایت کی شرح کے طور پر اس کا پورا اقتباس نقل کرتے ہیں، تو مولا ناٹھلی انہیں
باہم معارض یوں سمجھتے ہیں؟

غزوہ بدر :

طريق کار کے تھاد کی ایک اور مثال ملاحظہ ہو۔ غزوہ بدر کے سلسلے میں حضرت کعب بن مالک کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، جس میں تصریح کی گئی ہے کہ آنحضرت ﷺ در اصل قریش کے تجارتی قافلے سے تعریض کے لیے نکلے تھے، لہذا مقصود نہ تھا، لیکن حالات نے ایسا رخ اختیار کر لیا کہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آگیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”أَنَّمَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِيدُ عِيرَقَرِيشَ، حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَلَى غَيْرِ مَيعَادٍ (آنحضرت ﷺ قریش کے قافلے کے لیے نکلے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں فریق کو اچانک مقابل کر دیا)

لیکن مولانا اس صاف اور صریح بیان کو قبول نہیں فرماتے۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ راوی نے جس چیز کو واقعہ کہہ کر بیان کیا ہے، وہ اس کا استنباط ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

دیباچے میں ہم لکھ آئے ہیں کہ راوی (جس میں صحابہؓ بھی داخل ہیں) بہت سے موقعوں پر جو واقعہ بیان کرتے ہے وہ حقیقت میں واقع نہیں بلکہ اس کا استنباط ہوتا ہے، یعنی اس نے اس کو یوں ہی سمجھا۔ بدر میں بھی یہی صورت پیش آئی اور اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ صحابہؓ نے مختلف قیاس کیے اور جو قیاس مذاق عام کے مناسب تھا، وہی پھیل گیا۔ (۳۶۳/۱)

دوسری طرف تاریخ طبری میں مذکور حضرت عروہ کی ایک مرسل روایت کو صحیح بخاری کی مذکورہ بالا روایت کے مقابل میں پیش کرتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ غزوہ بدر اور دوسری جنگوں کا سبب عمرو بن الحضری کا واقعہ قتل تھا، لکھتے ہیں:

جیسا کہ ہم اور پر لکھ آئے ہیں، حضرت عبد اللہ بن جوش کے واقعہ میں عمرو بن حضری قتل کر دیا گیا تھا، حضری، عتبہ بن روبیہ کا حلیف

تحا، جو تمام قریش کا سردار تھا، بدر اور تمام غزوات کا سلسلہ اسی خون کا انتقام تھا۔ عروہ بن زبیر (حضرت عائشہؓ کے بھانجے) نے اس واسیع کو پر تصریح بیان کیا ہے۔ (۳۶۰)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اول تو بخاری کی روایت کا طبری کی روایت سے اور صحابی کے قول کا تابعی کے قول سے معارض ہی درست نہیں، چہ جائیکہ تانی الذکر کی بنیاد پر اول الذکر کو رد کر دیا جائے، لیکن مولا نے اپنے ہی بیان کردہ اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یہاں ایسا ہی کردکھایا ہے۔ دوسرے اگر بغور دیکھا جائے تو بخاری اور طبری کی روایتوں میں درحقیقت تعارض بھی نہیں ہے یعنی دونوں روایتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں اور دونوں میں جمع و تطین ممکن ہے۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ حضری کے قتل کی وجہ سے قریش لڑائی کے لیے آمادہ بیٹھے ہی تھے کہ اسی دوران انھیں اپنے تجارتی قافلے کے روکے جانے کی اطلاع مل گئی، لہذا وہ جنگ کے لیے فی الفور نکل پڑے۔ مجملہ دوسرے دلائل کے اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مصنف سیرۃ النبی خودی تحریر فرماتے ہیں :

قریش کو بدر کے قریب پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ابوسفیان کا تاقدل خطرے کی زدے نکل گیا ہے تو قبیلہ زہرہ اور عدی کے سرداروں نے کہا اب لڑنا ضروری نہیں، لیکن ابو جہل نے نہ مانتا۔ زہرہ اور عدی کے لوگ واپس چلے گئے، باقی فوج آگئے بڑھی۔

یہاں مولا ناشیلی نے اپنے نقطہ نظر کے خلاف نادانستہ خود ہی تسلیم کر دیا ہے کہ قریش کا بدر تک آتا تاقدل تجارت کی حفاظت کے لیے تھا، ورنہ بنو زہرہ اور بنو عدی کی واپسی کی بات بے معنی ہو جاتی ہے۔

اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ طبری کی محوہ بالا روایت کے آغاز ہی میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ مسلمانوں کا بدر کی طرف نکلنا قریش کے تاقدل تجارت سے تعریض کی غرض سے تھا، پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ حضری کے قتل اور بعض دوسرے واقعات کی وجہ سے کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کی صورت پیدا ہو چکی تھی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس

روایت کا دوسرا جزو مولانا کو تسلیم ہے، لیکن جزو اول تسلیم نہیں اور اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ اسی روایت کو وہ اپنے دعوے کے لیے بطور استدلال پیش کر رہے، جس میں ان کے دعوے کی تردید صراحتاً موجود ہے ضعف استدلال اور تناقض و تضاد کی یہ اعلیٰ ترین مثال ہے۔ ہم طبری کی اس روایت کے ابتدائی الفاظ اور بعض مختصر اقتباسات ذیل میں نقل کرتے ہیں :

عن عروة أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَلَمَّا
كَتَبَ إِلَيْهِ فِي أَبِي سَفِيَّانَ وَمُخْرَجِهِ تَسْأَلَنِي كَيْفَ كَانَ
شَانَهُ؟ كَانَ مِنْ شَانِهِ أَنْ أَبَا سَفِيَّانَ بْنَ حَرْبَ أَقْبَلَ مِنَ
الشَّامِ فِي قَرِيبِ مِنْ سَبْعِينِ رَاكِبًا مِنْ قَبَائِلِ قَرِيشٍ،
كُلُّهُمْ كَانُوا تَجَارًا بِالشَّامِ ... وَقَدْ كَانَتِ الْحَرَبُ بَيْنَهُمْ
قَبْلَ ذَلِكَ، فَقُتِلَتْ قَتْلَى، وَقُتِلَ أَبْنَاءُ الْحَضْرَمَى ...
كَانَتْ تَلْكَ الْوَاقِعَةُ هاجَتُ الْحَرَبُ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
وَبَيْنَ قَرِيشٍ ... فَلَمَّا سَمِعْ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، نَذَرَ
أَصْحَابُهُ ... فَخَرَجُوا لَا يَرِيدُونَ إِلَّا أَبَا سَفِيَّانَ وَالرَّكْبَ
مَعَهُ ... الْخَ (طبری ۲۶۷/۲)

(حضرت عروہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عبد الملک بن مروان کو لکھا کہ تم نے خط لکھ کر مجھ سے دریافت کیا ہے کہ ابوسفیان اور ان کے سفر کی کیفیت کیا ہے؟ سواں واقعہ کی صورت حال یہ ہے کہ ابوسفیان قبائل قریش کے نزدیک سواروں کے ساتھ شام سے واپس لوٹے، یہ سب شام میں تجارت کرتے تھے... اس واقعے سے پہلے ہی مسلمانوں اور قریش کے درمیان جنگ چیز بچی تھی، کچھ لوگ قتل بھی ہو چکے تھے، ابن الحضری بھی قتل ہو چکا تھا... جس کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ اور قریش کے درمیان جنگ بیڑک گئی... جب رسول اللہ ﷺ کو قافلہ ابوسفیان کی اطلاع ملی تو آپ

پیغمبر نے اپنے صحابہ کو اس طرف چلنے کی دعوت دی.... چنانچہ مسلمان نکل پڑے اس وقت ان کا مقصد ابوسفیان اور ان کے قافلے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ (ان)

خطبات اور اشعار :

خطبات اور اشعار کے ترک و قبول کے سلسلے میں بھی مولا نا شبیل دوہرے معیار پیش کرتے ہیں۔ یعنی کہیں تو محمد ناہنہ تقید کے ذریعے انھیں رد کر دیتے ہیں اور کہیں خاموشی کے ساتھ کسی جرح و تقید کے بغیر اپنی کتاب میں داخل کر لیتے ہیں۔ مثلاً قس بن ساعدہ کے خطبہ عکاظ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں :

قس بن ساعدہ کی روایت اور اس کا خطبہ مختصر و مطول پر عبارت مختصر بعفوی، ازدی، نیقی، جاخط وغیرہ نے نقل کیا ہے، لیکن وہ سرتاپا مصنوعی اور موضوع ہے۔ اس کے رواۃ عموماً ناقابل سند، بلکہ کذاب ہیں۔ (۱۹۲/۱)

دوسری طرف وفد بنو حیم کے واقعات کے ذیل میں حضرت عطار بن حاجب اور حضرت ثابت بن قیس کے خطبات کا متن (اردو ترجمہ و تنجیح کی شکل میں) بے تکلف داخل کتاب کر لیا ہے (سیرۃ النبی ۲۸۰/۲) مولا نا نے اگرچہ یہاں کوئی حوالہ نہیں دیا ہے لیکن ان کا پورا بیان سیرت ابن ہشام سے ماخوذ اور ابن الحنف کی روایت پر بنی ہے خود ابن الحنف کی روایت کی یہ کیفیت ہے کہ اس کی کوئی سنند نہ کوئی نہیں۔ (سیرۃ ابن ہشام، قدوم و فتحیم)

اسی طرح سیرت ابن ہشام میں منقول جناب ابوطالب کے قصیدہ لامیہ کے متعلق

لکھتے ہیں :

ابوطالب کے نام سے جو قصیدہ لامیہ ابن ہشام وغیرہ نے نقل کیا ہے سرتاپا موضوع ہے۔ (۱۹۶/۱)

حالانکہ خود مولا نا سید سلمان ندوی نے تصریح کی ہے کہ اس قصیدہ کے بعض اشعار

بخاری وسلم میں مذکور ہیں۔ سید صاحب کے الفاظ یہ ہیں:

اس قصیدے کو سرتاپا موضوع کہنے کے بجائے، جیسا کہ مصنف نے کہا ہے، اکثر کہنا صحیح ہے، کیونکہ اس کے دو شعر صحاح میں بھی مذکور ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری و صحیح مسلم، باب الاستقاء۔ (۱۹۶۱ء)

دوسرا جانب واقعات بدر کے شمن میں حضرت عبیدہؓ کی زبانی جناب ابوطالب کے اسی لامیہ قصیدے کا ایک شعر پڑھنا، ایک واقعے کے طور پر لکھ دیا ہے اور یہاں ابوطالب کی طرف اس کے اتساب کی صحت سے کوئی بحث نہیں کی ہے۔ لکھتے ہیں :

عقبہ، حضرت حمزہؓ سے اور ولید، حضرت علیؓ سے مقابل ہوا اور دونوں مارے گئے، لیکن عقبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہؓ کو رحمی کیا۔ حضرت علیؓ نے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہؓ کو نندھے پر اٹھا کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لائے۔ حضرت عبیدہؓ نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ کیا میں دولت شہادت سے محروم رہا؟ آپ نے فرمایا: نہیں، تم نے شہادت پائی۔ حضرت عبیدہؓ نے کہا: آج ابوطالب زندہ ہوتے تو تسلیم کرتے کہ ان کے اس شعر کا مستحق میں ہوں۔

ونسلمه حتى نصرع حوله وندهل عن أنبائنا والحلائل
هم محمد (علیہ السلام) کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کریں گے، جب ان کے گرد لڑ کر مر جائیں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے بھلانہ دیے جائیں۔ (۳۲۳۱ء)

واضح ہے کہ مولانا شبلی کے اس بیان کا جزو اخیر علامہ ذرقانی کی شرح المواهب اللدنیہ سے مأخوذه ہے (شرح المواهب ۱۹۸۲ء) لیکن خود ذرقانی نے اپنے مأخذ کی نشاندہی نہیں کی البتہ مغازی و اقدی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذرقانی نے اس موقع پر واقدی کی عبارت نقل کر دی ہے۔

اسی طرح و فدیٰ تمیم کے واقعات کے ذیل میں مولانا نے زبرقان اور حضرت حسان دونوں کے اشعار نقل کر کے، بلا تکلف داخل کتاب کر لیے ہیں (سیرۃ النبی ۲۹۹/۲) حالانکہ زبرقان کی طرف منسوب اشعار کے پارے میں ابن ہشام نے صاف صاف لکھ دیا ہے:

وَاكَشْ أَقْلَلُ الْعِلْمَ بِالشَّهْرِ بَنَكْرَهَا زَبْرَقَانَ (اکثر علماء شعر

کے زدیک یہ اشعار زبرقان کے نہیں ہیں) سیرۃ ابن ہشام ۵۶۳/۲

اسی طرح عبدالرحمٰن اسہیلی "الروض الأنف" میں تحریر فرماتے ہیں :

وَذَكَرَ الْبَرْقَى أَنَّ الشِّعْرَ لِقَيِّسَ بْنَ عَاصِمَ الْمَنْقُرى

(برقی کہتے ہیں کہ یہ اشعار قیس بن عاصم مقری کے ہیں)

(الروض الأنف، تحقیق : عبدالرحمٰن الوکیل،

احیاء التراث العربی ۲۳۳/۱)

باب هفتم

تفردات اور ضعف استدلال :

مولانا شبلی نے سیرۃ النبی میں بعض نوادرات و مباحث کے سلسلے میں جمہور سے اُن موقوف اختیار کر لیا ہے۔ مسلک جمہور سے اختلاف بذاتِ خود ایک طرح کی کمزوری ہے۔ اب آرائش کے ساتھ ضعف استدلال کا پہلو بھی موجود ہوتا صورت حال اور تکمیل ہو جاتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ مولانا شبلی کے تفردات اسی ذیل میں آتے ہیں۔ اس بنا پر مولانا کی اس کتاب کی تحقیقی واستنادی حیثیت کچھ اور بھی مجروم ہو گئی ہے۔ آئندہ صفحات میں اس سلسلے کی بعض مثالیں جوش کی جاتی ہیں:

قربانی کی حقیقت :

اس عنوان کے تحت مولانا سیرۃ النبی میں رقم طراز ہیں:

حضرت ابراہیمؑ کو جو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، اس سے اصل مقصود کیا تھا؟ قدیم زمانے میں بت پرست قومیں اپنے معبدوں پر اپنی اولادوں کو بھینٹ چڑھا دیا کرتی تھیں۔ یہ رسم ہندوستان میں انگلش گورنمنٹ سے پہلے موجود تھی۔ غالباً انہیں اسلام کا خیال ہے کہ

حضرت اسماعیل کی قربانی بھی اسی قسم کا حکم تھا۔ لیکن یہ سخت غلطی ہے۔
 اکابر صوفیا نے لکھا ہے کہ انہیاء علیہم السلام کو جو خواب
 دکھائے جاتے ہیں وو قسم کے ہوتے ہیں۔ یعنی اور تمثیل، یعنی میں
 بعینہ وہی چیز مقصود ہوتی ہے جو خواب میں نظر آتی ہے۔ تمثیل میں تشبیہ
 اور تمثیل کے پیرائے میں کسی مطلب کو پورا ادا کرنا ہوتا ہے۔ حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا گیا تھا، اس سے یہ مراد تھی کہ بیٹے کو
 کعبے کی خدمت کے لیے نذر پڑھا دیں، یعنی وہ کسی اور شغل میں
 مصروف نہ ہوں۔ بلکہ کعبے کی خدمت کے لیے وقف کر دیے جائیں
 تو پہاڑ میں جا بجا قربانی کا لفظ ان معنوں میں آیا ہے۔

حضرت ابراہیم نے اس خواب کو یعنی خیال کیا اور یعنیہ
 اس کی تجسس کرنی چاہی۔ گویہ خیال اجتہادی غلطی تھی، جوانبیاء سے
 ہو سکتی ہے (گویہ غلطی قائم نہیں رہتی بلکہ خدا اس پر تشبیہ کر دیتا ہے)
 اس بنابر گو حضرت ابراہیم اس فعل سے روک دیئے گئے، لیکن
 خدا نے ان کی حسن نیت کی قدر کی اور فرمایا ﴿قد صدقـت
 الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين﴾ صافات ۳۰
 ”تو نے خواب کو چاکیا۔ ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں“
 بہر حال یہاں اس تفصیل سے مقصود یہ ہے کہ قربانی سے
 مقصود خدمت کعبے کے لیے نذر پڑھانا تھا۔ نذر پڑھانے کے لیے
 شریعت سابقہ میں جو لفظ مستعمل تھا، وہ خدا کے سامنے تھا۔ تورات
 میں یہ محاورہ نہایت کثرت سے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے
 حضرت اسماعیل کے حق میں خدا سے جو دعا کی، وہ ان لفظوں میں
 تھی ”لیت اسماعیل یعيش امامک“ (تورات، یکوین،
 صحاح ۷۱۔ آیت ۱۸) ”کاش اسماعیل تیرے سامنے زندگی کرتا“

اسی خواہش کے مطابق ان کو خواب میں تمثیلی پیرائے میں

حکم دیا گیا کہ وہ بیٹے کی قربانی کریں۔ (۱۲۵-۱۲۸)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ مولانا شبل کا یہ بیان کہ انبیاء علیہم السلام کے خواب کبھی بیٹی ہوتے ہیں اور کبھی تمثیلی، یقیناً درست اور شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف کا خواب جس میں انھوں نے گیارہ ستاروں اور آفتاب و ماہتاب کو اپنی جناب میں سجدہ ریز دیکھا، جمہور امت کے نزدیک تمثیلی تھا۔ لیکن موصوف کا یہ فرماتا کہ "حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا گیا تھا، اس سے یہ مراد تھی کہ بیٹے کی خدمت کے لیے نذر چڑھادیں"، محل نظر ہے۔ اس لیے کہ علمائے متقدمین میں سے کسی سے بھی یہ قول منقول نہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اتباع تبع اور ان کے مابعد کے کسی امام، مجتهد، مفسر یا عالم نے یہ نہیں کہا کہ قربانی کی حقیقت، کبھے کی خدمت کے لیے نذر چڑھاتا ہے اور نہ کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت ابراہیم کا خواب میں بیٹے کو ذبح کرنا، اس بات کی تمثیل تھی کہ بیٹے کو خدمت کعبہ کے لیے وقف کر دیں۔ اسی طرح سلف میں اس کا بھی کوئی فائل نہیں کہ اپنے خواب کی مراد سمجھنے میں حضرت ابراہیم سے خطاء اجتہادی واقع ہو گئی۔ مولانا شبل اپنے ان تمام بیانات میں علمائے راشمین و متقدمین کے مقابلے میں متفرد ہیں۔

جبیسا کہ عرض کیا جا چکا بیانی عقائد و حقائق کی تعبیر سے متعلق کسی دعوے یا بیان کا علمائے سلف سے منقول نہ ہونا ہی اس کے ضعف کی علامت ہے۔ تاہم کوئی مضائقہ نہ ہوگا اگر سلسلہ زیر بحث میں مولانا شبل کے دلائل پر بھی غور کر لیا جائے۔ مولانا نے اس ضمن میں پہلی بات تو لکھی ہے کہ "توراۃ میں جا بجا قربانی کا الفاظ ان معنوں میں آیا ہے"

موقع محل کا اقتضایہ تھا کہ مولانا توراۃ سے کم از کم چار چھٹا لیں پیش فرماتے جن میں "قربانی" کا الفظ "نذر" یا "نذر کعبہ" کے معنوں میں آیا ہو۔ لیکن افسوس ہے کہ مولانا نے یہاں ایک مثال بھی اسکی پیش نہیں کی۔ اس لیے کہا جائے گا کہ مولانا کا یہ دعویٰ بلا ولیل رہ گیا۔ بہر حال اس بحث کو آگے بڑھانے کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خود توراۃ میں واقع ذبح کا بیان پڑھ کر دیکھا جائے کہ کیا وہاں قربانی کا الفاظ نذر یا نذر کعبہ کے معنوں میں آیا ہے؟

حسن اتفاق سے اس موقع کا معتدب اقتباس مولا نا حمید الدین فراہی نے اپنی گرام قدر تصنیف "الرأی الصحیح فیمن هو الذبیح" میں نقل کر دیا ہے۔ میرے سامنے مولا نا امین احسن اصلاحی کے قلم سے اس کا اردو ترجمہ موجود ہے۔ میں وہیں سے متعلقہ اقتباس نقل کرتا ہوں:

ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہام کو آزمایا اور اس سے کہا کہ

اسے ابراہام! اس نے کہا میں حاضر ہوں (۲) تب اس نے کہا اپنے

بیٹے اضحاک کو جو تیر الکوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر مریا

کے ملک میں جا اور وہاں اپنے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں

تجھے بتاؤں گا سختی قربانی کے طور پر چڑھا (۳) تب ابراہام نے صبح

سوریے اٹھ کر اپنے گدھے پر چار جامہ کسا اور اپنے ساتھ دو جوانوں

اور اپنے بیٹے اضحاک کو لیا اور سختی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں اور

اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روئندہ ہوا۔

(۴) تیسرا دن ابراہام نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا

(اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام قربانی تک آنے اور

قربانی کرنے کا ذکر ہے، یہاں تک کہ خدا نے ان کو پکارا) پھر اس

نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب

مان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا

الکوتا ہے مجھ سے درلحظہ کیا (۱۴) اور ابراہام نے نگاہ کی اور اپنے

چیچھے ایک مینڈھا دیکھا جس کے سینگ جہاڑی میں اٹکے تھے۔ تب

ابراہام نے اس مینڈھے کو کپڑا اور اپنے بیٹے کے بد لے سختی قربانی

کے طور پر چڑھایا۔ (۱۵) (ذبح کون ہے؟ ۳۱۹-۳۲۰)

اس اقتباس کے مندرجہ ذیل جملے قابل غور ہیں :

"اس نے کہا اپنے بیٹے کو جو تیر الکوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے،

پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر سختی قربانی کے طور پر چڑھا"

مولانا شبلی بحیثیت سیرت نگار

”تب ابراہام نے صبح سوریے اٹھ کر اپنے ساتھ اپنے بنیے کو لیا اور
سو فتحی قربانی کے لیے لکڑیاں جیزیں“

”تب ابراہام نے اس مینڈھے کو پکڑا اور اپنے بنیے کے بد لے
سو فتحی قربانی کے طور پر چڑھایا“

ان تینوں جگہ قربانی اپنے متعارف سنتی یعنی ذبح کے لیے مستعمل ہے۔ کہیں بھی یہ
مفہوم برآمد نہیں ہوتا کہ بنیے کو کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دو۔ ظاہر ہے کہ سو فتحی قربانی کے
طور پر چڑھانا اور شے بے اور خدمت کعبہ کے لیے نذر کر دینا اور چیز ہے۔ اگر بالفرغ کوئی شخص
یہ دعویٰ کرے کہ سو فتحی قربانی کے طور پر چڑھانا ہی نذر کعبہ کر دینا ہے تو پھر یہ بھی مانتا پڑے گا کہ
مینڈھے کو بھی ذبح نہیں کیا گیا، بلکہ خدمت کعبہ کے لیے وقف کر دیا گیا، کیونکہ اس کے لئے بھی
”سو فتحی قربانی کے طور پر چڑھایا“ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ حالانکہ یہ نص قرآنی
»وَفَدِينَهِ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ« ”اور ہم نے ایک بڑا ذبح اس کے عوشن میں دیا“ کے خلاف
ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مولانا شبلی کا یہ دعویٰ کہ قرآن میں قربانی کا لفظ جا بجا خدمت کعبہ کے
لیے وقف کر دینے کے معنی میں آیا ہے، محتاج ثبوت ہے اور کم از کم واقعہ زیر بحث کے مسئلے میں
قطعیت کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ قربانی کا لفظ ہرگز ان معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ لہذا
اس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کہ قربانی کی حقیقت خدمت کعبہ کے لیے نذر چڑھانا ہے کسی طرح درست
و صحیح نہیں۔

مولانا کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ”نذر چڑھانے کے لیے شریعت ساقیہ میں جو لفظ
مستعمل تھا، وہ خدا کے سامنے تھا۔ قرآن میں یہ محاورہ نہایت کثرت سے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم
نے حضرت اسماعیل کے حق میں خدا سے جو دعا کی وہ ان لفظوں میں تھی“ لیت اسماعیل
یعیش امامک (کاش اسماعیل تیرے سامنے زندگی کرتا) اسی خواہش کے مطابق ان کو خواب
میں تمیل پیرائے میں حکم دیا گیا کہ وہ بنیے کی قربانی کریں۔

مولانا شبلی کے اس استدلال سے متعلق دو باتیں قابل توجہ ہیں، اول یہ کہ حضرت
ابراہیم کے قول ”لیت اسماعیل یعیش امامک کا منشا و مفہوم کیا ہے؟ سو اس مسئلے میں

عرض ہے کہ مولا نا حمید الدین فراہی کی تحقیق کے مطابق حضرت ابراہیم نے یہ بات اس وقت کہی ہے جب انھیں حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت ملی ہے اور ان کے اس قول کا منشاء حضرت اسماعیل سے غایت محبت ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں :

جس وقت حضرت ابراہیم کو حضرت الحنفی کی ولادت کی بشارت ملی ہے اس وقت بھی انہوں نے ایک ایسی بات فرمائی جس سے حضرت اسماعیل کے ساتھ ان کی بے پایاں محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس نعمت گریاں مایہ کو پا کر دنیا کی تمام خواہشوں سے بے نیاز ہو گئے تھے۔

کتاب پیدائش (۱۷-۱۸) میں ہے :

اور ابراہام نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور ہیتا رہے..... اس فقرے میں محبت کا جو جذبہ چھپا ہوا ہے، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ (ذبح کون ہے ۳۲-۳۳)

حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے "لیت اسماعیل یعیش امامک" کہہ کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدمت کعبہ کے لیے نذر کرنے کا ارادہ نہیں ظاہر کیا تھا، بلکہ دنیا کی تمام خواہشات سے اپنی بے نیازی کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ باتفاق دیگران کا منشاء تھا کہ اللہ العالیین ! اسماعیل جیسی اولاد کے مل جانے کے بعد اب مجھے کسی دوسرا اولاد کی تمنا نہیں رہی۔ تو اسی کو پروان چڑھا اور زندگی عطا کر۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکورہ قول سے مولا نا شبی کا اپنے دعوے پر استدال صحیح نہیں ہے۔

اس سلسلے کی دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ اور پر کی بحث کے دوران کہا جا چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے "لیت اسماعیل یعیش امامک" حضرت الحنفی کی ولادت کی بشارت ملنے کے بعد فرمایا تھا۔ اس کے ساتھ تنی مولا نا فراہی کی یہ تحقیقات بھی پیش نظر کی جائیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر چودہ سال تھی اور یہ کہ حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ حضرت الحنفی کی ولادت سے پہلے ہی پیش آپ کا تھا۔ چنانچہ موصوف لکھتے ہیں :

محکم دلائل و برائین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مولانا شلی بھیثیت سیرت نگار

یہ واقعہ ذیع کی تفصیلات میں پڑھ چکے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکلوتے بنیے کی قربانی کا حکم ہوا تھا، اور اس میں ذرا شہبے کی محنجا شنیں ہیں ہے کہ اکلوتے حضرت اسماعیل ہیں۔ کیونکہ وہ حضرت اخْلَق سے چودہ برس بڑے ہیں۔ پیدائش (۱۶-۱۷) میں ہے: اور جب ابرہام سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابرہام چھیا سی برس کا تھا، پھر پیدائش (۲۱-۲۵) میں ہے: اور جب اس کا پہلا اخْلَق اس سے پیدا ہوا تو ابرہام سو برس کا تھا۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں۔
 (الف) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بنیے حضرت اسماعیل تھے، یہاں تک کہ حضرت اخْلَق پیدا ہوئے۔

(ب) اس اکلوتے بنیے کی قربانی انہوں نے حضرت اخْلَق کی ولادت سے پہلے کی، کیونکہ دوسرے بھائی کے پیدا ہو جانے کے بعد وہ اکلوتے نہیں رہے۔ (ذیع کون ہے ۳۸-۳۹)

اب اگر مولا نا فرانی کی یہ تحقیقات درست ہیں، اور بظاہر ان کے نادرست ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے تو مولا نا شلی کا یہ بیان کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیت اسماعیل یعنیش امامک "کہہ کہ حضرت اسماعیل کو خدمت کعبہ کے لیے وقف کرنے کی تمنا کا اظہار کیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کو خواب میں تمثیلی پیرائے میں حکم دیا گیا کہ وہ بنیے کی قربانی کریں۔ کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول سے پہلے ہی پیش آچکا تھا۔ لہذا قولِ مذکور کی بنیاد پر یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ قربانی کی حقیقت خدمت کعبہ کے لیے نذرِ چڑھادیا ہے۔

اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے "تیرے حضور" کے الفاظ استعمال کیے گئے اور یہ بھی کہ وہ خدمت کعبہ کے لیے تخف ف تھے، تو اس سے یہ کیونکہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہی قربانی کی حقیقت ہے؟ اس لیے کہ نذرِ الگ چیز ہے اور قربانی دوسری چیز، پس یہ کیونکہ کہا جا سکتا ہے کہ نذرِ یہی قربانی ہے؟

تفریقات اور ضعف استدلال

۱۸۲

پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر قربانی کی حقیقت خدا کے حضور نذرِ لگز ادا نہیں
ہے تو کیا حضرت اسْمَاعِيل کے علاوہ جن اشخاص یا اشیاء کے لیے تورات میں "خداوند کے حضور" یا
"خداوند کے آگے" کا محاورہ استعمال کیا گیا ہے ان سب کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ وہاں
قربانی کی حقیقت پالی گئی؟ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تورات میں مذکور ہے :

جب ابراہیم ننانوے برس کا ہوا، تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس
سے کہا کہ میں خدا نے قادر بھوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل
ہو۔ (پیدائش ۷-۱)

اسی طرح حضرت یارون علیہ السلام کے بارے میں تورات کا بیان ہے :

اس جنے کو ہارون خدمت کے وقت پہنچا کرے، تاکہ جب وہ پاک
مقام کے اندر خداوند کے حضور جانے یا وہاں سے نکلے تو اس کی
آواز نہیں جائے۔ ۳ (خروج ۲۸-۳۵)

نیز بے خیری روٹی کے بارے میں تحریر ہے :

اور بے خیری روٹی کی نوکری میں سے جو خداوند کے آگے دھری
ہوگی۔ ۴ (خروج ۲۳)

اب یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یارون اور بے خیری
روٹی سب نذرِ کعبہ تھے اور سب کی قربانی ہوئی، کیونکہ سب کے حق میں "خداوند کے حضور" کے
لفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور یا اس دعوے سے رجوع کرنا ہو گا کہ "لبشِ اسا عینِ بعضی
(ماہن)" (کاش اساعیل تیرے حضور جیتا رہے) سے حضرت اساعیل کا نذرِ کعبہ ہونا ثابت ہوا
اور بھی قربانی کی حقیقت ہے۔

حاتمہ کلام کے طور پر عرض کیا جاتا ہے کہ مولانا شبلی نے "قربانی کی حقیقت" کے سلطے
میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے، اس سے ان کا مقصد خالقین اسلام کے اس اعتراض سے پچھا تھا کہ
مسلمانوں کی قربانی کی رسم، اولاد کو بھینٹ چڑھانے کی، بت پرست قوموں کی رسم کے مشابہ ہے۔

ل و ۵ وسیت یہ تینوں اقتباسات ذیل کون ہے ۲۲۹-۲۵۰ سے ماخوذ ہیں

لیکن ادنی تا مل سے ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حقیقت قربانی کی تاویل و توجیہ کے بعد بھی بت پرست قوموں سے مشابہت کا الزام بدستور باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ بت پرست قومیں اپنے معابر کی خدمت کے لیے اپنی بعض اولادوں کو اب بھی نذر چڑھا دیتی ہیں۔ پس معتبرین کہہ سکتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کا نذر کعبہ کیا جانا بت پرستوں کی اولاد کے نذر معابر کیے جانے کے مشابہ ہے۔ اس لیے بہتر بھی ہے کہ قربانی کو اس کے اصل اور متعارف معنوں ہی میں رکھا جائے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی تاویل و توجیہ سے کام نہ لیا جائے۔

غزوہ بدر :

اس غزوے کے سلسلے میں جمہور محمد شیخ، اہل سیرا اور مورخین اس بات پر تتفق ہیں کہ آنحضرت ﷺ مدینہ منورہ سے اصلاح قریش کے اس قافلہ تجارت سے تعرض کے لیے نکلے تھے، جو ابوسفیان کی سرگردگی میں شام سے واپس آ رہا تھا، لیکن ایسے اسباب پیش آئے کہ قافلہ تجارت تو نیچ کر نکل گیا اور مسلمانوں کو ناجاہر مقام بدر میں لشکر قریش سے لڑنا پڑا۔

جمہور کے برخلاف مولانا شلی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ابھی قافلہ تجارت شام ہی میں تھا کہ وہاں یہ غلط خبر مشہور ہو گئی کہ مسلمان قافلے پر حملہ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لہذا ابوسفیان نے شام ہی سے مکہ یا اطلاع بھجوادی کہ قافلہ خطرے میں ہے یہ خبر سن کر قریش نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جب مدینے میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ قریش ایک جمیعت عظیم کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آنحضرت ﷺ مدافعت کی غرض سے مدینے سے نکلے اور بدر کا معرکہ پیش آیا۔

صورت واقعہ کی اس تعبیر کے سلسلے میں بھی مولانا شلی متفرد ہیں۔ چنانچہ اس کا اعتراف خود انھیں بھی ہے۔ لکھتے ہیں: ”اس فیصلے میں عام مورخین اور ارباب سیرہ میرے حریف مقابل ہیں“ (سیرۃ النبی ۳۲۳)

اس کے علاوہ دیگر علماء نے بھی مصنف سیرۃ النبی کے اس تفریذ کو کھلے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ مثلاً مولانا شبیر احمد عثمانی اپنے تفسیری حوالی میں لکھتے ہیں:

تفردات اور صحف استدلال

۱۸۶

جن لوگوں کا خیال ہے کہ اس غریب میں حضور شروع ہی سے فوجی لشکر کے مقابلے میں نکلے تھے جو مدینے پر از خود اقدام کرتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کی نیت آپ نے اول سے آخر تک کسی وقت نہیں کی، وہ فی الحقيقة اپنے ایک خود ساختہ اصول پر تمام ذخیرہ حدیث و سیر اور اشارات قرآنیہ کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ (قرآن مجید مترجم مجشی، مدینہ بک ڈپ، دہلی ص ۲۲۹)

اسی طرح مولانا محمد ادریس کا نحلوی رقم طراز ہیں :

کسی علامہ کامیہ خیال کرنا کہ حضور پر نور نے اول سے آخر تک اسی وقت بھی تجارتی قافلے پر حملے کی نیت نہیں کی، بلکہ ابتداء ہی سے حضور پر نور نے جو سفر شروع فرمایا، قریش کے اس فوجی لشکر کے مقابلے اور دفاع کے لیے تھا جو از خود مدینے پر حملہ کرنے کے لیے اقدام کرتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ یہ خیال ایک خیال خام ہے، جو اپنی ایک مزعوم درایت اور خود ساختہ اصول پر مبنی ہے، جس پر تمام ذخیرہ احادیث نبویہ اور ارشادات قرآنیہ اور روایات سیرت اور واقعات تاریخی کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ (سیرۃ المصطفیٰ ۲۳۲)

یہ گفتگو مولانا نائلی کے تفرد سے متعلق تھی، آئندہ صفحات میں ان کے دلائل سے بحث کی جائے گی۔ اس سلسلے میں پہلی قائل ذکر بات یہ ہے کہ مولانا نے بار بار یہ تاثر دینا چاہا ہے کہ مسئلہ زیر بحث میں نصوص قرآنیہ ان کے نقطہ نظر کی موید ہیں اور یہ کہ نص قرآنی کا معارفہ حدیث، سیرت اور تاریخ کی روایات سے نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ قرآن مجید کی جن آیات کو مولانا نے اپنے مدعا کے اثبات کے لیے پیش کیا ہے، ان میں صاف اور صریح لفظوں میں اس واقعہ کا کوئی ذکر نہیں، ورنہ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ جمیل محمد شین مورخین اور سیرت نگار اس سے الگ رائے رکھتے اور نص قرآنی کی مخالفت کی جرأت کرتے۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ مصنف سیرۃ النبی نے قرآن مجید کی بعض آیات کا ایک مفہوم متعین کیا ہے اور پھر

اس پر اپنے دوسرے کی بنیاد رکھی ہے۔

دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ مولانا شبلی کا بیان کردہ مفہوم حفظ ظنی و احتمالی ہے، یعنی اس میں قطعیت کی شان بھی نہیں پائی جاتی۔ مزید برآں یہ کان کے بیان کردہ مفہوم کو اگر قول کر بھی لیا جائے تو متعدد احادیث صحیح و صریح کا انکار لازم آتا ہے۔ حالانکہ یہ بات اصولی طور پر طے شدہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں فی الواقع کہیں بھی تعارض نہیں ہے، اور اگر کسی کو کہیں محسوس ہوتا ہے تو اس کی اپنی فہم کا قصور ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ آیات قرآنیہ کا وہی مفہوم صحت ہو گا جو احادیث نبویہ سے مطابقت رکھتا ہو، نہ کہ وہ جوان کے معارض ہو۔ اب مولانا شبلی کے دلائل بالترتیب ذکر کیے جاتے ہیں :

۱۔ موصوف آیت کریمہ: ﴿كَمَا أَخْرَجْتَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ، وَإِنْ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَلَّهُو نَّٰٮن﴾ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

ترکیب نحوی کی رو سے "وَإِنْ" میں جو دو اور ہے حالیہ ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ مسلمانوں کا ایک گروہ جو زبانی سے جی چاہتا ہے۔ یہ موقع میں وہ تھا، جب آپ ﷺ مدینے سے نکل رہے تھے، نہ کہ مدینے سے نکل کر جب آپ ﷺ آگے بڑھے۔ کیونکہ واؤ حالیہ کے لفاظ خروج من الیت اور اس گروہ کے جی چرانے کا وقت اور زمان ایک ہی ہونا چاہیے۔

جبیسا کہ عرض کیا جا چکا، مولانا شبلی نے آیت مذکورہ سے جس معنی کا استنباط کیا ہے اور اس پر جس طرح اپنے استدلال کی بنیاد رکھی ہے۔ اس میں قطعیت کی شان نہیں پائی جاتی، کیونکہ اس کی دوسری توجیہات بھی ممکن ہیں۔ چنانچہ مولانا شبیر احمد عثمانی آیت مذکورہ کے تحت اپنے تفسیری حوالی میں لکھتے ہیں:

تفسیر میں صاحب روح العالی کی تصریح کے موافق اشارہ کر دیا ہے کہ ﴿أَخْرَجْتَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ﴾ میں صرف آن خروج من الیت مراد نہیں، بلکہ آن خروج من الیت سے "دخول

فِي الْجَهَادِ " تک کامحمد اور سیع زمانہ مراد ہے، جس میں وان فریقاً
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارُهُونَ، یجاداً لِوْنَکَ وَغَيْرَه سب احوال کا
وقوع ہوا۔ (۲۳۰)

یہاں اگر یہ اشکال پیش کیا جائے کہ مولانا شبلی کی طرح مولانا عثمانی کا بیان کردہ
مفہوم بھی فتنی و احتمالی ہی ہے، لہذا مسخر الذکر کو مقدم الذکر پر ترجیح کیوں دی جائے؟ تو اس کا
جواب سطور بالا میں گذر پکا کر مولانا شبلی کے استنباط کو اختیار کرنے کی بھلک میں ان احادیث صحیح کا
ترک و انکار لازم آئے گا، جن میں اس امریٰ صاحبت کی نیز ہے کہ مدینے سے جب آپ ﷺ
نکلنے اور صرف قافلہ تجارت پر حملہ کرنا مقصود تھا اور یہ کہ صحابہ کرام سے مشورے، مسلمانوں نے ایک
فریق کی ناگواری اور حجاء لے وغیرہ کے واقعات مدینے سے نکلنے کے بعد اٹھائے راہ میں پیش
آئے، اس کے برخلاف مولانا عثمانی کی توجیہ کہ قول کر لینے میں ایسی کوئی قباحت لازم نہیں آتی۔
۵۔ مولانا نے آیت کریمہ ﴿وَإِذْ يَعْدُ كُمُّ اللَّهِ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنْهَاكُمْ
وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرُ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ﴾ الخ کو بھی اپنے موقف کی تائید میں پیش
کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں :

ارباب سیر کہتے ہیں کہ آیت قرآنی میں یہ اس وقت کا واقعہ مذکور
ہے جب آنحضرت ﷺ بدر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ لیکن بدر
کے قریب پہنچ کر تو کارروائی تجارت صحیح سلامت نہ کر کل گیا تھا۔
اس وقت یہ کیوں کسر صحیح ہو سکتا ہے کہ ”دونوں میں سے ایک کا وعدہ
ہے“ اس لیے یہ بالکل ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے نفس کے مطابق یہ
واقعہ اس وقت کا ہوتا چاہیے، جب دونوں گروہ کے ہاتھ آنے کا
احتمال ہو سکتا ہو، اور یہ صرف وہ وقت ہو سکتا ہے جب آنحضرت
ﷺ مدینے میں تھے اور دونوں طرف کی خبریں آگئی تھیں۔
(۳۳۶۱)

راقم المفرد عرض کرتا ہے کہ آیت مذکورہ سے درحقیقت جہور کے نقطہ نظر کی تائید

ہوتی ہے اس لیے کہ مولا نا تو اس بات کے قاتل ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے کاروائی تجارت پر حملہ کا ارادہ ہی نہیں فرمایا تھا، یہ ایک غلط انواعِ تھی جوئے میں مشہور ہو گئی تھی اور یہ کہ آپ ﷺ اور تمام مسلمانوں کا مدینہ منورہ سے نکلنا فی الواقع کفار قریش کے مقابلے کے لیے تھا۔ اگر مولا نا کا یہ میان مطابق واقعہ مان لیا جائے تو یہ فرمان الہی یونکر صحیح ہو سکے گا کہ ”دونوں میں سے ایک کا وعدہ ہے“ اس کے برخلاف جمہور کے نقطہ نظر کے مطابق اس آیت کا تجمل و مصدق معین کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔

رہ گیا مولا نا کا یہ اشکال کہ جب کاروائی تجارت صحیح سلامت فی کر نکل گیا تھا۔ اس وقت ”دونوں میں سے ایک کے وعدے“ کا کیا محل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں دراصل اس وقت کی یاد دلائی گئی ہے، جب مسلمانوں کو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ قریش ایک جمعیت کے ساتھ کے سے نکل پڑے ہیں، لیکن انھیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کاروائی تجارت فی کر نکل گیا ہے۔ چونکہ مسلمان جنگ کی تیاری اور جنگی ارادے سے نہیں نکلے تھے، اس لیے ان کی پریشانی اور گھبراہٹ فطری تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی اور دل دہی کے لیے ﴿إِنَّهُۤ أَحَدٌۤ الظَّانِفَتِينَ﴾ کا وعدہ فرمایا کہ گھبراہنئیں کاروائی تجارت اور دشمنوں پر فتح میں سے تھیں ایک چیز ضرور با تھا آئے گی۔

ہمارا یہ دعویٰ کہ مسلمانوں کو اس وقت تک کاروائی تجارت کے صحیح سامنہ نکل جانے کا علم نہ ہوا تھا، اس کی دلیل خود آیت مذکورہ کے نکلے ہے و توتونْ أَنْ غَيْرُ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ﴾ ”تم چاہتے ہو کہ بغیر خرچے والا گردہ تم کوں جائے“ میں موجود ہے۔ کیونکہ تا قلہ نکل جانے کی شکل میں، اس کے ہاتھا جانے کی خواہش ایک بے معنی بات ہوتی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ آیت مذکورہ جمہور کی تائید میں ہے اور اس میں مخاطب کے دائرہ معلومات کو تجویز رکھ کر خطاب کیا گیا ہے۔

مولانا شلی سلسلہ زیر بحث میں مزید لکھتے ہیں :

مسلمانوں کی ایک جماعت اسی تھی جو چاہتی تھی کہ کاروائی تجارت پر حملہ کیا جائے۔ خدا نے ان لوگوں پر ناراضی ظاہر کی اور فرمایا

﴿وَتَوْدُونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، وَيَرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَحْقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو قابل تجارت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، دوسرا طرف خدا ہے، جو چاہتا ہے کہ دین کو قائم کر دے اور جڑکات دئے اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان دو میں سے کس کے ساتھ ہیں؟ عام روایتوں کے مطابق اس سوال کا کیا جواب ہوگا، میں اس تصور سے کانپ اٹھتا ہوں۔ (۳۲۷)

مولانا شبلی کے اشکال کا جواب یہ ہے کہ ابتدائیں بے شک آنحضرت ﷺ کا روایت تجارت پر حملہ کی غرض سے نکلے تھے، لیکن جب بدر کے قریب پہنچ کر آپ کو شکر قریش کی آمد کا علم ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ﴿إِنَّهُمْ بِالظَّلَافَتَيْنِ﴾ کا وعدہ فرمایا گیا تو آپ کارچان کاروان تجارت کے بجائے قریش سے جنگ ہی کی جانب ہو گیا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں صراحتاً ذکر ہے کہ صحابہ کرامؐ سے مشورے اور حضرت سعد بن معاذ کی تقریر کے بعد آنحضرت ﷺ نے مرسیت کا اظہار کیا۔ فسر رسول اللہ ﷺ بقول سعد بن مسیطہ ذلک اور یہ ارشاد فرمایا:

”سِيرُوا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَاللَّهُ لِكَأْنِي الآن أَنْظَرْتُ إِلَى مَصَارِعِ الْقَوْمِ“ (اللہ کی برکت کے ساتھ چل پڑو اور بشارت حاصل کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے۔ واللہ گویا کہ میں ابھی اسی وقت قریش کی قتل گا ہوں کو دیکھ رہا ہوں)

اس روایت کا آخری فقرہ کاروانی تجارت کے بجائے جنگ کی طرف آپ ﷺ کی رجحان طبع کو صاف طور پر ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم (باب غزوة بدر) اور ابن القیاد (باب فی الأَسْيَرِ يَنْالُ مِنْهُ وَيُضْرَبُ) میں ذکر ہے حضرت انسؓ کی روایت میں بھی ایسے اشارے موجود ہیں، جن سے جنگ کی طرف آپ ﷺ کے میلان کا پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم لے اس روایت کی تحریک این الحسن نے اپنی کتاب سیرۃ میں سنچیح کے ساتھ کی ہے

سے اس حدیث کا متعلقہ اقتباس ذیل میں نقل کیا جاتا ہے:

قال: فندب رسول اللہ ﷺ الناس فانطلقوا حتی
نزلوا بدراء، ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام
أسود لبني الحجاج، فأخذذوه، فكان أصحاب رسول
الله ﷺ يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول:
مالي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل، وعتبة،
وшибية، وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه،
فقال: نعم أنا أخبركم، هذا أبوسفیان فذا ترکوه
فسألوه، فقال: مالي بأبی سفیان علم، ولكن هذا
أبو جهل وعتبة وшибية، وأمية بن خلف في الناس،
فإذا قال هذا أيضًا ضربوه ورسول الله ﷺ قائم
يصلی فلما رأى ذلك انصرف، قال: والذی نفسی
بینہ لتضربوه إذا صدقکم، وتترکوه إذا كذبکم۔

(حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو
بلایا تو وہ چلے، تا آنکہ بدر پہنچ گئے۔ وہاں ان کو قریشؓ کے آپ
برداری کے کچھ اوٹ ملے، جن کے ساتھ بنا الحجاج کا ایک سیاہ فام
غلام بھی تھا، مسلمانوں نے اسے پکڑا، اس سے ابوسفیان اور اس
کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھ کرنے لگے۔ وہ کہتا مجھے ابوسفیان
کے بارے میں کچھ معلوم نہیں البتہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امية بن
خلف یہ موجود ہیں۔ جب یہ کہتا تو مسلمان اسے مارنے لگتے۔ اس
پر دہ کہتا ہاں میں تم لوگوں کو ابوسفیان کے بارے میں بتاتا ہوں پھر
جب لوگ اسے چھوڑ دیتے اور دوبارہ پوچھتے تو پھر وہ کہتا مجھے
ابوسفیان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، البتہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور

امیہ بن خلف دوسرے بہت سے لوگوں کے ساتھ موجود ہیں، اس پر وہ لوگ اسے پھر مارتے۔ رسول اللہ ﷺ اس دوران نماز میں تھے۔ آپ نے یہ صورت دیکھی تو نماز سے فارغ ہو گئے اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یقیناً جب وہ حق بولتا ہے تو تم لوگ اس کو مارتے ہو اور جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو)

حضرت انسؓ کی یہ روایت آیت کریمہ ﴿وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ
تَكُونَ لَكُمْ﴾ کی تفسیر بھی کرتا ہی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتا رہی ہے کہ جس وقت صحابہ کرام کی ایک جماعت لشکر قریش کی آمد کی خبر سن کر ناگواری محسوس کر رہی تھی اور غلام سے لشکر کے بجائے کاروان ان تجارت کی خبر سننا چاہتی تھی، اس وقت آپ ﷺ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اب کاروان ان تجارت کے بجائے لشکر قریش سے ہی مدھیہر ہونی ہے خلاصہ یہ ہے کہ مولا ناشبلی کا محور بالا اشکال قطعاً بے نیاد ہے۔ انہوں نے عام روایات کا حوالہ دیا ہے، لیکن مجھے ایک روایت بھی اسی نہیں ملی، جس میں کاروان ان تجارت کی طرف آپ ﷺ کے میلان اور جنگ سے ناگواری کا ذکر آیا ہو۔

۵۔ مولا نا کا ایک اور استدلال ملاحظہ ہو، آیت کریمہ ﴿وَإِنْ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
لَكَارُهُونَ، يَجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ كَأْنَمَا يَسْأَلُونَ إِلَى الْمَوْتِ﴾ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

اگر صرف قافلہ تجارت پر حملہ کرنا مقصود ہوتا تو یہ خوف، یہ افطراب، یہ پہلوتی کس بنا پر تھی۔ اس سے پہلے بارہا قافلہ قریش پر حملہ کرنے کے لیے تھوڑے تھوڑے آدمی بھیج دیے گئے تھے اور کبھی ان کو ضرر نہیں پہنچا تھا۔ اس دفعہ اس قافلے کا اتنا ذرہ ہے کہ تم سوچیدہ اور منتخب فوج ہے اور پھر لوگ ڈر کے مارے سہے جاتے ہیں۔ یہ قطعی دلیل ہی میں کہ مدینے میں یہ خبر آگئی تھی قریش کے

سے جمیعت عظیم لے کر مدینے پر آ رہے ہیں۔ (۳۲۸/۱)

جو اب اعرض ہے کہ اس استدلال کی بنیاد یہ مفروضہ ہے کہ مسلمانوں کے ایک فریق کی جنگ سے ناگواری اور مجاہد لے کے واقعات میں مدینے سے نکلنے کے وقت پیش آئے۔ لیکن یہ مفروضہ غلط ہے، چنانچہ اس کی تفصیل گذشتہ صفحات میں گذر چکی۔ اس کے برخلاف جمہور کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کراہیت قفال اور مجاہد لے کے واقعات مدینے سے نکلنے کے بعد اشنا رہا میں اس وقت پیش آئے، جب کہ مسلمانوں کو اچانک یہ معلوم ہوا کہ قریش جمیعت عظیم کے ساتھ رہنے کے لیے نکل پڑے ہیں ایسی صورت میں بعض لوگوں کا خوف، اضطراب اور جنگ سے پہلو تحریک کرنا غیر فطری نہ تھا۔

(۵) مولا نے سورہ نساء کی ایک آیت سے متعلق حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے منقول ایک تفسیر کی بنیاد پر بھی یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو مدینہ منورہ ہی میں معلوم ہوئیا تھا کہ قافلے پر حملہ کرنائیں، بلکہ لڑنا اور جان دینا ہے۔ اس کی تفصیل مولا نا کے الفاظ میں ملاحظہ ہو، لکھتے ہیں۔

قرآن مجید میں ایک اور آیت اسی بدر کے واقعے کے متعلق تازل ہوئی ہے اور اس وقت جب آپ مدینے ہی میں تشریف رکھتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری، تفسیر سورہ نساء میں تصریح کیا ہے کہ آیت یہ ہے ﴿لَا يُسْتُوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِيِّ الْضُّرُورِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، فَضْلُ اللَّهِ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ درجۃ﴾ (بجز معدودوں کے، وہ لوگ جو پیغمبر ہے اور وہ لوگ جو خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں، برادری میں ہو سکتے۔ خدا نے مجاهدین کو جمال اور جان سے جہاد کرتے ہیں، درجے میں فضیلت دی ہے)۔

صحیح بخاری میں اس آیت کے متعلق حضرت ابن عباسؓ کا

قول نقل کیا ہے کہ یعنی وہ لوگ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے اور وہ جو شریک ہوئے دونوں را برٹھیں ہو سکتے۔ صحیح تجارتی میں یہ بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پہلے ﴿غیر أولی الضرر﴾ کا جملہ نہ تھا۔ یہ آیت سن کر حضرت عبداللہ بن ام کتوں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے انہیں پین کا اعذر کیا، اس پر دیں یہ جملہ نازل ہوا ﴿غیر أولی الضرر﴾ یعنی مخدوروں کے سوا۔ یہ صاف اس بات کی دلیل ہے کہ مدینے ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ قافلے پر حملہ کرنائیں بلکہ لڑنا اور جان دینا ہے۔

(۳۲۸/۱-۳۲۹)

رقم عرض کرتا ہے کہ سورہ نساء کی مذکورہ بالا آیت سے مولانا شبی کا استدلال اس مفردہ پر مبنی ہے کہ آنحضرت ﷺ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد قریش کی جاسوسی اور خبر رسانی نیز ان کے تجارتی تافلوں سے تعریض کے لیے جو چھوٹی بڑی فوجی تکڑیاں بھیجا کرتے تھے، یا بذات خود اس مقصد کے لیے نکلتے تھے، ان پر جہاد فی سبیل اللہ کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا بلکہ جہاد فی سبیل اللہ سے مراد صرف فاعی جنگیں ہیں حالانکہ یہ بد اہم تخلط ہے۔ کیونکہ کفار قریش مباریں اسلام میں سے تھے، نیز ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں کو چین سے رہنے دینا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے انھیں جانی و مالی ہر طرح کا نقصان پہنچانا نہ صرف جائز بلکہ ضروری تھا۔ لہذا غزوہ بدر سے پہلے کے تمام سرایا اور غزوہ بدر کے موقع پر قافلہ ابوسفیان سے تعریض کے لیے خود آنحضرت ﷺ کا لکنا العیاذ بالله قرأتی اور لوٹ مار کے قبل سے نہ تھا (جیسا کہ مستشرقین اور معاندین اسلام سمجھتے ہیں) بلکہ مکمل طور سے ”جهاد فی سبیل اللہ باموالهم و أنفسهم“ کا مصدق تھا۔ لہذا سورہ نساء کی مذکورہ بالا آیت کو حضرت ابن عباسؓ کی رائے کے مطابق اگر غزوہ بدر سے متعلق مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ آنحضرت ﷺ کی دعوت کے بعد جو لوگ کارروائی تجارت سے تعریض کے لیے نکلے، ان کا درجہ نہ نکلنے والوں کے درجے سے بڑھ کر ہے۔ البته مخدوریں اس سے مستثنی ہیں، یعنی انھیں ان کی حسنیت کا ثواب نکلے بغیر ہی مل گیا۔ اس

لیے کہ متعدد روایات صحیح سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے کاروان تجارت سے تعرض ہی کی دعوت دی تھی۔ مثلاً ابن الحنفی کی روایت میں جو سند صحیح سے مردی ہے، یہ الفاظ آئے ہیں۔

لما سمع رسول الله ﷺ بأبي سفيان مقبلًا من الشام
ندب المسلمين إيليهم وقال: هذه عير قريش فيها
أموالهم فأخرجوا إليها، لعل الله ينفكعنها، فلانتدب
الناس، فخف بعضهم وثقل بعضهم. (سیرۃ ابن هشام)
اسی طرح طبرانی کی روایت میں جو حضرت ابوالیوب انصاریؓ سے مردی ہے، اسی
واقعے کی تبیریوں کی گئی ہے:

قال رسول الله ﷺ ونحن بالمدينة، إنني أخبرت
عن عير أبي سفيان أنها قبلة، فهل لكم أن تخرج
قبل هذا العير، لعل الله يغنمها، قلنا نعم فخرج
وخرجنا معاً (مجمع الزوائد، ۲۳۶-۲۳۷)

اگر ان روایات کے ساتھ سورہ نساء کی زیر بحث آیت سے متعلق حضرت ابن عباسؓ

کی تفسیر "لَا يُسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ بَدْرٍ وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرٍ" کو جوڑ دیا جائے تو دو باتیں متعین ہو جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ قریش کے کاروان تجارت سے تعرض کے لیے آپ ﷺ کا لکھنا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا یقینی طور پر "جهاد فی سبیل اللہ" تھا۔ دوسرے یہ کہ غزہ بدر کے ذوق سے پہلے اور آیت مذکورہ کے نزول کے بعد حضرت ابن ام مکتومؓ کا اپنے اندھے پن کا اذر پیش کرنا، درحقیقت اسی بات کا اذر تھا کہ وہ کاروان تجارت پر حملہ کے لیے آپ ﷺ کے ساتھ جانہیں پا رہے ہیں۔ لیکن اس کی حرمت دل میں رکھتے ہیں کہ کاش محدود ہوتے تو ضرور ساتھ جاتے۔ اس کا تقریبہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت جو بخاری میں مختصر انذکور ہے، امام ترمذی کے یہاں مفصل آئی ہے اور اس میں حضرت ابن عباسؓ کی تفسیر کے ساتھ حضرت ابن ام مکتومؓ کا واقعہ بھی شامل ہے۔ ترمذی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ

المؤمنين غير اولی الضرر عن بدر ، والخارجون
إلى بدر، لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش
وابن ام مكتوم إنا أعيان يا رسول الله، فهل لنا
رخصة، فنزلت ﴿لَا يُسْتُوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
غَيْرُ اولی الضرر ط وفضل الله المجاهدين عن
القاعدین درجہ﴾ (جامع ترمذی، ابواب تفسیر القرآن)

(۲) مولانا نے سورہ انفال کی ایک اور آیت کو اپنے موقف کے اثبات میں پیش کیا ہے۔
لکھتے ہیں:

کفار قریش جو کسے لڑنے کے لیے بدر میں آئے، ان کی نسبت
قرآن مجید میں ہے ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ بِطَرَأً وَدِيلَهُ النَّاسُ وَيَصِدُونَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ﴾ ”اور ان لوگوں کی طرح نہ بوجو اپنے گھروں سے مفرود رانہ
نمائش اور خدا کی راہ سے روکتے ہوئے نکلے“ اگر قریش صرف
قابلہ تجارت کے بچانے کے لیے نکلتے تو خدا یہ کیوں کہتا کہ وہ
اطہار شان اور دکھاوے کے لیے خدا کی راہ سے لوگوں کو روکتے
ہوئے نکلے؟ اس میں اطہار شان اور دکھاوے کی کیا بات تھی؟ اور
خدا کی راہ سے لوگوں کو روکنا کیا تھا؟ البتہ چونکہ درحقیقت وہ مدینے
پر حملہ کرنے لیے نکلے تھے، جس سے مقصود اپنے زور اور قوت کا
اعلان و نمائش اور اسلام کی ترقی کا انسداد تھا، اس لیے خدا نے اس کو
غور و نمائش اور صدع عن سبیل اللہ کیا۔ (ار ۳۲۹-۳۵۰)

راقم عرض کرتا ہے کہ مولانا کا یہ استدلال انتہائی تجب خیز ہے۔ اس لیے کہ انہوں
نے اپنی اسی تصنیف میں نہایت صراحة ووضاحت کے ساتھ خود ہی نیز لکھ دیا ہے کہ قریش کا یہ
کاروائی تجارت محض تجارتی مقاصد نہیں رکھتا تھا، بلکہ درحقیقت یہ مصارف جنگ کا بندوبست

تحا۔ اس کے ساتھ ہی موصوف نے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اس وقت کے حالات کی تکمیلی کامیابی بہت اچھا نقش کھینچ دیا ہے۔ چنانچہ خود ہی لکھتے ہیں :

قریش نے بحربت کے ساتھ ہی مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، عبداللہ بن ابی کونھوں نے خط لکھ کر بھیجا کہ یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کر دو، یا ہم آکر ان کے ساتھ تمہارا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ قریش کی چھوٹی چھوٹی نکلوں یاں مدینے کی طرف گشت لگاتی رہتی تھیں۔ کرزفہری مدینے کی چماگا ہوں تک؟ کرمیات گری کرمیاتا۔

حملے کے لیے سب سے بڑی ضروری چیز مصارف جنگ کا بندوبست تھا۔ اس لیے اب کے موسم میں قریش کا جو کارروائی تجارت شام کو روشن ہوا، اس سروسامان سے روشن ہوا کہ کسے کی تمام آبادی نے، جس کے پاس جو رقم تھی بکل کی کل دے دی۔

نہ صرف مرد بلکہ عورتیں جو کارروبار تجارت میں بہت کم حصہ لیتی ہیں، ان کا بھی ایک ایک فرد اس میں شریک تھا۔ (۳۱۵-۳۱۶)

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مولانا کو اس بات کا بذات خود اعتراف ہے کہ قریش کا یہ تجارتی قابلہ درحقیقت جتنی مقاصد رکھتا تھا اور اس کے ڈریے وہ ان مسلمانوں کے استیصال کے درپے تھے، جو پہلے ہی سے خانماں بر باد اور غریب الوطن تھے اور ان کا جرم بھی محض یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کے نام لیوا اور اس کے نبی برحق کے پیرو ہیں۔ «وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ» تواب اس امر کے تسلیم کر لینے میں کیا تاثل ہے کہ ان کافروں کا بظاہر کارروائی تجارت کی حفاظت کے لیے لکھنا درحقیقت یہ صد دون عن سبیل اللہ کا ہی ایک پہلو تھا، نیز یہ کہ ان کے اس تمام عمل کے پس پشت کوئی اعلیٰ انسانی و اخلاقی حرک کار فرمان تھا بلکہ اس کا تمام ترباعث و مفتاح خروج و غرور اور غسود و نمائش کا جذبہ ہی تھا۔

قریش کے فخر و تعلقی اور نشہ غرور میں چور ہونے کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ جب اشتابے راہ میں انھیں یہ اطلاع دی گئی کہ کارروائی تجارت فتح کرنکل گیا ہے اس لیے مناسب ہے

تفریقات اور ضعف استاداں

۱۹۸

کہ اب لوٹ چلو، تو وہ لوٹے نہیں بلکہ مغرو رانہ باتیں کہیں۔ چنانچہ ابن الحنف کی حضرت ابن عباس سے بے سند صحیح مردوی روایت میں مذکور ہے۔

لما رأى أبوسفياً أَنَّهُ أَحرَزَ عِيرَهُ أَرْسَلَ إِلَى قَرِيشٍ
أَنْكُمْ إِنَّمَا خَرَجْتُمْ لِتَمْنَعُوا عِيرَكُمْ وَرِجَالَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ،
فَقَدْ صَانَهَا اللَّهُ فَارْجِعُوهَا، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ بْنُ هَشَامٍ: وَاللَّهِ
لَا تَرْجِعُ حَتَّى نَرِدَ بَدْرًا فَنَقِيمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةً، وَتَنْحَرِرُ
الْجُزْرُ، وَنَطْعُمُ الطَّعَامَ، وَنَسْقِي الْخُمُورَ، وَتَعْزَفُ عَلَيْنَا
الْقَيْلَانُ، وَتَسْمَعُ بَنَا الْعَرَبُ، فَلَا يَزَالُونَ يَهَا بُونَنَا أَبْدًا
فَامضُوا! (جامع البيان، للطبری، ۱۰/۱۷، سیرۃ ابن
هشام ۶۱۸)

(جب ابوسفیان نے دیکھا کہ اس نے اپنا قافلہ پھالیا ہے، تو قریش کے پاس کہلا بھیجا کہ تم لوگ اسی لیے تو نکلے ہو کہ اپنے قافلے، اپنے لوگوں اور اپنے اموال کی حفاظت کرو، تو اب لوٹ چلو کہ اللہ نے اسے بچا دیا، اس کے جواب میں ابو جہل بن هشام نے کہا کہ واللہ ہم اس وقت تک نہیں لوٹسے گے جب تک بد رجیم نہ جائیں..... اور پھر وہاں تین دن تھبیریں، اوشنیاں ذرع کریں، کھانا کھلائیں، شرابیں پلائیں، گانے والیوں کے نترے و سرد سے محظوظ ہوں اور غربوں میں ہمارا شہرہ ہو جائے، تاکہ وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں۔ اس لیے یہ چلو)

طبری، حافظ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین کی تصریح کے مطابق آیت زیر بحث میں کفار قریش کے اسی طرزِ عمل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہی رائے حضرت عروہ اور قادہ کی بھی ہے۔ (تفسیر طبری ۱۰/۱۷-۱۶)

راقم عرض کرتا ہے کہ مولانا شبلی نے غزوہ بدرا سے متعلق اپنے موقف کے اثبات میں

قرآن پاک کی جن آیات کو بطور استدلال پیش کیا تھا، ان کا تجزیہ تمام ہوا، اس تجزیے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جن نصوص کو وہ اپنے مدعا کے اثبات کے لیے قطعی سمجھتے ہیں، ان میں قطعیت کی شان ہرگز نہیں پائی جاتی۔ لہذا ان کا یہ دعویٰ حض دعویٰ ہے کہ نصوص قرآنیہ ان کے نقطہ نظر کی موئید ہیں۔ حق یہ ہے کہ یہاں بھی وہ تفرد کے ساتھ ساتھ ضعف استدلال کا شکار ہیں۔

غزوہ بدر کے مسئلے میں مولانا کے موقف کی کمزوری اور ان کے ضعف استدلال کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ واقعات کی تعبیر کے مسئلے میں انہوں نے صریح صحیح روایات سے مکمل طور پر صرف نظر کر لیا ہے اور حض قیاس کی بنیاد پر واقعے کی ایک مشکل فرض کر لی ہے، جس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ احادیث ویر کے ذخیرے سے وہ کمزور سے کمزور ایک روایت بھی ایسی نہیں پیش کر سکے، جس میں صاف اور صریح لفظوں میں یہ تذکرہ ہو کہ آنحضرت ﷺ مدینے سے قافلہ ابوسفیان پر حملہ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، بلکہ قریش کے مدینے پر حملہ آور ہونے کے سبب ان کے دفاع کے لیے آپ ﷺ کو مجبور انکلنا پر اتا۔

یہ بھی سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ جب عہد نبوی کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے سراہا اور غزوات کی جزئیات و تفصیلات کتب سیرت میں موجود محفوظ ہیں تو غزوہ بدر جیسے عظیم الشان غزوے کے باعث و مفہوم کے متعلق تمام ارباب بیر کوشش محدثین ذہبیوں کیوں نکل بوسکتا ہے؟ اور کیا کوئی صاحب عقل وہوش انسان یہ باور کر سکتا ہے کہ خود صحابہ کرام اور تابعین عظام بھی واقعے کی اصل صورت کو بھول گئے اور پھر ان مقدس ہستیوں نے اپنی طرف سے ایک صورتی واقعہ تراش لی، جو احادیث ویرت کی تمام کتابوں میں محفوظ ہو گئی۔ پھر تم بالائے تم یہ کہ ہزار بارہ سو سال تک کسی کو تو نہیں نہ ہوئی کہ اس غلطی کی تصحیح کر دیتا؟ ”إن هذا إلا شئ عجائب“ لیکن مولانا شلی کا نقطہ نظر مقاضی ہے کہ ان تمام ناممکن الواقع اور بعيد از قیاس امور کو تسلیم کر لیا جائے۔ اس لیے اب ہم سلسلہ زیر بحث میں مولانا کی تحریر کردہ دیگر جزئیات کا الگ الگ جواب تحریر کرنا غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ البتہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان روایات صحیح کے اقتباسات نقل کر دیے جائیں جن سے مسلک جمہور کی تائید ہوتی ہے اور مصنف سیرۃ النبی کے نقطہ نظر کی غلطی

ثابت ہوتی ہے۔

(۱) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك يقول: لم أختلف عن رسول الله في غزوة غزها، إلا في غزوة تبوك، غير أنني تخلفت عن غزوة بدر، ولم يعاتب الله أحداً تخلف عنها، إنما خرج رسول الله عليه السلام يريد غير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوهم على غير ميعاد. (صحيح بخاري، باب غزوة بدر)

(عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك سے روایت ہے کہ میں نے حضرت کعب بن مالک کو کہتے ہوئے سا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے غزوات میں سے کسی غزوے میں پچھے نہیں رہا، بجز غزوة تبوك کے، ہاں یہ ہے کہ میں غزوہ بدر میں شامل نہ سکا، لیکن اس غزوے میں پچھے رہ جانے والے کسی شخص پر اللہ تعالیٰ نے عتاب نہیں فرمایا، کیونکہ رسول اللہ ﷺ صرف قافلة قریش سے تعرض کے لیے نکلے تھے، تا آنکہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی طے شدہ پروگرام کے مسلمانوں کی ان کے دشمنوں سے مدد یا کراوی)

یہ روایت اپنے مدلول و منطق میں بالکل صرطح ہے اور کسی قسم کی تاویل کا احتال بھی نہیں رکھتی۔

www.KitaboSunnat.com

(۲) عبدالله بن مسعود حدث عن سعد بن معاذ فلما كان يوم بدر، استنفر أبو جهل الناس، فقال أدركوا غيركم. (صحيح بخاري، باب ذكر النبي ﷺ من يقتل ببدر)

(حضرت عبد الله بن مسعود، حضرت سعد بن معاذ سے نقل کرتے ہیں کہ پھر جب جنگ بدر کا موقع آیا، تو ابو جہل نے لوگوں کو نکلنے کی دعوت دی، چنانچہ کہا کہ لوگوں پے قافلے کو پچاؤ) اس روایت میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ ابو جہل کفار کہ کاروان این تجارت کی حفاظت ہی کے لیے نکال کر لایا تھا، یعنی اس کا اور اس کے ساتھیوں کا مدینے پر حملہ کا کوئی ارادہ نہ تھا۔

(۳) عن أنس أن رسول الله عليه السلام شاور حين بلغه اقبال أبي سفيان قال فندب رسول الله عليه السلام الناس، فانطلقو حتي نزلوا بدرأ. (صحيح

مسلم، کتاب الجهاد والسیر، باب غزوة بدر)

(حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مشورہ فرمایا، جب آپ کو ابوسفیان کے آنے کی اطلاع ملی... حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہؐ نے لوگوں کو بیانیا، چنانچہ لوگ چلے یہاں تک کہ بدر میں جا پہنچے)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ ابوسفیان کا کاروان تجارت ہی غزوہ بدر کا اصل بب
ہنا، اور یہ کہ مسلمان قافلہ ابوسفیان کی خلاش میں ہی بدر تک گئے تھے۔

(۴) عن أنس أن رسول الله ندب فانطلقو إلى بدر، فإذا هم بروايا
قریش، فيها عبدأسود لبني الحجاج فأخذه أصحاب رسول الله
جعلوا يسألونه أين ابوسفیان والنبوی ﷺ يصلی وهو يسمع ذلك، فلما
انصرف قال والذى نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم، وتدعونه اذا
كذبكم هذه غيرقریش قد أقبلت لتمعن أباسفیان (ابوداؤد، کتاب
الجهاد، باب فی الأسير ينال منه ويضرب)

(حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو بلا یا تو وہ بدر تک
گئے۔ وہاں انھیں قریش کے آب برداری کے کچھ اونٹ مل گئے، جن کے ساتھ بوجاج کا ایک
سیاہ فام غلام بھی تھا۔ صحابہ کرام نے اسے پکڑ لیا اور اس سے پوچھنے لگے کہ ابوسفیان کہاں
ہے؟..... اس وقت آپ ﷺ نماز میں تھے اور یہ سب سن رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ
ﷺ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب وہ بھی بولتا
ہے تو تم اسے مارتے ہو اور جب جھوٹ بولتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ بے شکر قریش جو ابوسفیان
کی حفاظت کے لیے بیٹھ چکا ہے)

اس روایت کے مطابق خود آپ ﷺ کے قول مبارک سے ثابت ہے کہ کفار قریش
قافلہ ابوسفیان کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔

(۵) عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله ﷺ بسياسة عينا ينظر
ما صنعت غير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول

الله ﷺ قال فحدثه الحديث قال فخرج رسول الله ﷺ فتكلم، فقال إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا، فجعل رجال يستأذنونه في ظهارهم في علو المدينة فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضراً.

(صحیح مسلم، کتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهید)

(حضرت أنس بن مالک سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نئیسے کو جاؤں بنا کر بھیجا، تاکہ وہ قافلة ابوسفیان کا پڑھ لگائیں۔ جب بسیہ وابیس آئے تو اس وقت گھر میں میرے اور رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا..... پھر بسیہ نے ساری بات بتائی: راوی کہتے ہیں پھر رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لائے اور لوگوں سے غفتگو کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہمیں کچھ کام ہے، تو جس کسی کی سواری موجود ہو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ پھر بعض لوگ آپ ﷺ سے اجازت مانگنے لگے کہ ان کی سواریاں مدینے کے بالائی حصے میں ہیں، لیتے آئیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہمیں، بس وہ جس کی سواری موجود ہے)

اس روایت میں بھی صراحتاً ذکر ہے کہ آپ ﷺ قافلة ابوسفیان کی فکر میں تھے اور اسی سے تعریض کے لیے نکلے تھے اور یہ بھی کہ آپ ﷺ نے یہ سفر نہایت عجلت میں فرمایا تھا، نیز یہ کہ یہ فیر عام نہ تھی بلکہ موقع پر جو صحابہ موجود تھے انھیں لے کر آپ فوراً میل پڑے تھے۔

یہ تمام روایتیں مسند اور صحیح ہیں نیز اپنے مغہوم میں بالکل واضح بھی ہیں۔ اس لیے کوئی ایسا نقطہ نظر جو ان سے متعارض ہو، ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ البته یہاں ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے اور وہ یہ کہ حضرت علیؓ سے مردی ایک روایت ہے جسے امام احمد بن حنبلؓ نے مسند میں، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، طبری نے تاریخ میں اور امام تیہیقی نے دلائل المنبوجۃ میں نقل فرمایا ہے؛ اس میں قافلة ابوسفیان کا ذکر نہیں ہے صرف شرکیین کی آمد کا ذکر ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں:

عن علی قال لما قدمنا المدينة أصبنا من
شارها، فاجتو ينهاها، وأصابنا بها وعک، وكان النبي
ﷺ يتخبر عن بدر، فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا

سار رسول اللہ ﷺ الی بدر، و بدر بئر فسبقنا
المشرکین إلیها..... الخ

تو کیا یہ روایت جمہور کے خلاف نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں اولاً اس لیے کہ راوی نے اس روایت میں اختصار سے کام لیتے ہوئے جزئیات و تفصیلات حذف کر دی ہیں اور روایات کے سلسلے میں یہ صورت نہایت عام ہے۔ چنانچہ اسی لیے یہ عبارطہ مقرر کیا گیا ہے کہ عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ دوسرے اس لیے کہ ”فَلَمَا بَلَغْنَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَقْبَلُوا“ سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ مشرکین کی آمد کی اطلاع مدینے میں مل گئی تھی؟ یہاں فی ”المدينة“ کے الفاظ تو ہیں نہیں۔ اس لیے یہی سمجھا جائے گا کہ اس سے بدر کے قریب پہنچ کر اطلاع ملنام راوی ہے، جیسا کہ دوسری صحیح روایات میں اس کی تصریح موجود ہے اور اگر بالفرض اس روایت سے یہی ثابت ہوتا ہو کہ مدینے میں ہی مشرکین مکہ کی آمد کی خبر مل گئی تھی، تو دوسری روایات صریح و سمجھ سے تعارض کی بنابرآ سے مر جوں سمجھا جائے گا۔ یا اس کے اس خاص جزو کو راوی کے دہم پر محول کیا جائے گا۔

حرم نبوی میں کنیزیں :

عام ارباب سیرت کا اس پر اتفاق ہے کہ ازواج مطہراتؓ کے علاوہ آپ ﷺ کے حرم میں کنیزیں بھی تھیں۔ پھر ان کی تعداد میں اختلاف ہے، کسی نے چار باتیں ہیں، کسی نے دو دغیرہ۔ لیکن اس امر پر سب متفق ہیں کہ حضرت ماریہ قبطیہؓ کنیز کی حیثیت سے آپ کے حرم میں شامل تھیں۔

مولانا شلی یہاں بھی جمہور سے الگ رائے رکھتے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق حرم نبوی میں کنیزیں مطلقاً تھیں۔ چنانچہ آپ ﷺ کے نام عزیز مصر (موقوس) کے خط اور تھائف کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

بایں ہمس عزیز مصر اسلام نہیں لایا۔ دلراز کیاں جو سمجھی تھیں، ان میں ایک ماریہ قبطیہ تھیں جو حرم نبوی میں داخل ہوئیں۔ دوسری سیرین

تحمیں جو حضرت حسانؓ کے ملک میں آئیں۔ خچر کا نام ڈل دل تھا۔ جس کا ذکر اکثر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ جنگ ختن میں آپ ﷺ اسی پر سوار تھے۔ طبری نے لکھا ہے کہ ماریہ اور یسرین حقیقی بہنیں تھیں اور حضرت حاطبؓ بن ابی بلتعہ جن کو آنحضرت ﷺ نے موقوس کے پاس خط دیکر بھیجا تھا، ان کی تعلیم سے دونوں خاتونیں خدمتِ نبوی میں پہنچنے سے پہلے اسلام قبول کر چکی تھیں۔ اس واقعے کو اس حیثیت سے دیکھنا چاہیے کہ یہ خاتونیں لوٹیاں نہ تھیں اور پر اسلام قبول کر چکی تھیں۔ اس لیے آنحضرت ﷺ نے ماریہؓ سے نکاح کیا ہوگا، نہ کہ لوٹی کی حیثیت سے وہ آپ کے حرم میں آئیں۔ (سیرۃ النبی ارج ۲۷)

جیسا کہ عرض کیا گیا مولانا شبلی یہاں بھی متفرد ہیں کیونکہ حضرت ماریہؓ کو علمائے محققین نے عام طور پر ازدواج مطہرات میں شامل نہیں کیا ہے اور مولانا کا ضعف استدال اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے دعوے پر سرے سے کوئی دلیل ہی پیش نہیں کی۔ صرف ایک احتمال ظاہر کر دیا ہے کہ ”نکاح کیا ہوگا“ ظاہر ہے کہ اس طرح کے بیانات سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ صحیح روایتیں ان کے نقطہ نظر کے خلاف ہیں۔ چنانچہ من نسائی کی روایت ہے:

أَخْبَرَنِي أَبْرَاهِيمُ بْنُ يَونُسَ بْنُ مُحَمَّدٍ حِرْمَى هُوَ لِقَبُهُ
قَالَ ثَنَا أَبْيَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادَ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ ثَابِتِ عَنْ
إِنْسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ أُمَّةٌ يَطَاهُا، فَلَمْ
تَزُلْ بِهِ عَاشَةٌ وَحْفَصَةٌ، حَتَّى حَرَمَهَا عَلَى نَفْسِهِ
فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَمْ تَحْرِمْ مَا أَحْلَى

لے حاکم نے ”المدرک“ میں مصعب الزیری کا قول تزویج ماریہؓ سے متعلق نقل کیا ہے، لیکن حضرت انسؓ اور امام زہری وغیرہ کی روایات کی مخالفت کی ہے اپنے قول مرجوح، اور ناقابل التفاق ہے

مولانا شیخ بحیثیت سیرت نبی

الله لک) إلى آخر الآية (سنن نسائي، كتاب عشرة النساء، باب الغيرة ۹۷/۲)

(حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک کنیز تھیں، جن سے آپ ﷺ فرماتے تھے۔ تو حضرت عائشہؓ اور حضرت خصہؓ برادرگی رہیں، تا آنکہ آپ ﷺ نے ان کنیز کو اپنے آپ پر حرام کر لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی 『یاً أَيُّهَا النَّبِیُّ لَمْ تَحْرِمْ مَا أَحْلَلَ اللَّهُ لَكَ هَذَا』

اس روایت سے صراحتاً ثابت ہوا کہ آپ ﷺ کی ملک شہین میں بعض کنیزیں بھی تھیں، جن سے آپ استحکام فرمایا کرتے تھے اب ربایہ سوال کرو پر کی روایت میں جن کنیز کا ذکر آیا ہے، وہ کون تھیں؟ تو بعض دوسری روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرت ماریہؓ قبطیہ تھیں۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہم بن کلیب کی مند کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔

عن ابن عمر، عن عمر قال قال: النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِحْفَصَةَ،
لَا تَخْبُرِي أَحَدًا، وَإِنْ أَمِّ إِبْرَاهِيمَ عَلَى حِرَامٍ فَقَالَتْ:
أَتَحْرِمُ مَا أَحْلَلَ اللَّهُ لَكَ؟ قَالَ: فَوَاللَّهِ لَا أَقْرِبُهَا، قَالَ:
فَلَمْ يَقْرُبْهَا، حَتَّى أَخْبَرَتْ عَائِشَةَ قَالَ: فَانْزَلْ اللَّهُ
تَعَالَى 『قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلَةَ أَيْمَانِكُمْ』 وَهَذَا
اسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يَخْرُجْهُ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِ الْكِتَابِ
السَّتَّةِ، وَقَدْ اخْتَارَهُ الْحَافِظُ الضِّيَاءُ الْمَقْدُسِيُّ فِي
كِتَابِهِ (تَفْسِيرِ ابْنِ كَثِيرٍ، تَفْسِيرِ سُورَةِ التَّحْرِيمِ)

(حضرت ابن عمرؓ نے والد حضرت عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت خصہؓ سے فرمایا: کسی سے مت کہنا، ام ابراہیمؓ مجھ پر حرام ہیں۔ حضرت خصہؓ نے کہا: جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، اسے آپ حرام قرار دیتے ہیں؟

آپ ﷺ نے فرمایا اللہ میں ام ابراہیم گواپنے سے قریب نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ نے انھیں قریب نہیں فرمایا، تاکہ آنکہ حضرت خصہ نے حضرت عائشہؓ گویہ بات بتلادی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی «قدفرض اللہ لكم تحلاة أيمانكم» اس روایت کی سند صحیح ہے۔ صحاح ست کے صحفین نے اس کی تخریج نہیں کی ہے۔ البتہ حافظ ضیاء الدین المقدسی نے اپنی کتاب "المستخرج" میں اس کا اختکاب کیا ہے۔

ذکورہ بالا دونوں روایتیں مولانا شبلی کے نقطہ نظر کی تردید کے لیے کافی ہیں البتہ یہاں ایک اور امر کی طرف متوجہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مولانا نے سلسلہ زیر بحث میں آخر فرضت ﷺ کے نام عزیز مصر کا عربی خط بھی نقل کیا ہے، جس میں ایک جملہ بھی ہے "وقد اکرمت رسولک وبعثته إلیک بخاریتین، لهما مکان من القبط عظیم" موصوف نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے "میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی اور دلوڑ کیاں بھیجا ہوں جن کی قطبیوں میں (مصر کی قوم) بہت عزت کی جاتی ہے" اس ضمن میں مولانا نے ایک حاشیہ بھی لکھا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں:

ہم نے جاریہ کا ترجمہ لڑکی کیا ہے۔ عربی میں جاریہ لڑکی کو بھی کہتے ہیں اور لوٹڑی کو بھی۔ ارباب سیرت ماریہ قبطیہؓ لوٹڑی کہتے ہیں لیکن موقوں نے جو لفظ ان کی نسبت لکھا ہے، یعنی کہ "مصریوں میں بڑی عزت ہے" یہ لوٹڑیوں کی شان میں استعمال نہیں کیے جاسکتے۔

راقم عرض کرتا ہے کہ گذشتہ صفحات میں منقول سنن نسائی کی روایت میں "آمة" کا لفظ آیا ہے، جس کے معنی "لوٹڑی"، "متین" ہیں۔ اس لیے کہ عبارت زیر بحث میں بھی "جاریہ" کا ترجمہ "لوٹڑی" ہی کیا جائے گا اور "لهماماکان من القبط عظیم" سے مولانا کا استدلال اس لیے درست نہیں ہے کہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ عمومی لوٹڑیاں نہیں ہیں، بلکہ اپنے یہاں بڑی قدر و قیمت والی بھی جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ اگر مولانا کے خیال کے مطابق وہ بڑی

عزت والی تھیں، یعنی لوگوں یا نہیں بلکہ آزاد عورتیں تھیں تو کیا آزاد خواتین بالخصوص جب کہ وہ معزز بھی ہوں، ہدیہ و تحفہ میں پیش کی جاتی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر تمہا مکان من القبط عظیم " کا وہی مفہوم درست ہو گا جو اپنے تحریر کیا گیا یعنی قیمتی اور باوقعت۔ اخیر میں عرض ہے کہ تمام تفرادات کا استیعاب و احاطہ مقصود نہیں اس لیے صرف تین مثالوں پر اکتفا کی جاتی ہے۔ ان مثالوں سے مولانا کے تفرادات نیز ضعف استدلال کی نوعیت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

باب هشتم

متفرقات :

اس عنوان کے تحت مولا ناشری کی سیرۃ النبی سے متعلق بعض متفرق امور کا تذکرہ مقصود ہے۔ ان میں بعض امور وہ ہیں جو شعوری غلطی کے دائرے میں آتے ہیں۔ بعض کا منشاء اخذ نہایت سمجھ میں بجلت پسندی کو قرار دیا جا سکتا ہے اور بعض کو سیوسیان پر بھی محول کیا جا سکتا ہے لیکن ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ زیر بحث کتاب کی تحقیقی حیثیت پر ان سے حرفاً آتا ہے اور اس کی استنادی قوت میں کمی آجائی ہے۔

واقعات خیر کے ضمن میں مولا ناشری فرماتے ہیں:

نامہم کے بعد اور قلعے بے آسانی فتح ہوتے گئے، لیکن قلعہ قوش مرحب کا تخت گاہ تھا۔ اس مہم پر آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کو بھیجا لیکن دونوں ناکام واپس آئے۔ طبری میں روایت ہے کہ جب خیری قلعے سے نکلے تو حضرت عمرؓ کے پانوں جم سکے اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ فوج نے نامردی کی لیکن فوج نے ان کی نسبت خود ہی بھی شکایت کی۔ اس روایت کو طبری نے جس سلسلہ سند سے نقل کیا ہے،

اس کے راوی عوف ہیں۔ ان کو بہت سے لوگوں نے ثقہ کہا ہے
بندار جب ان کی روایت بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ”وہ رافضی
اور شیطان تھا“ یہ لفظ بہت سخت ہے، لیکن اُنکی شیعیت سب کو تسلیم
ہے اور گوشیعہ ہونا بے اعتباری کی دلیل نہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ
جس روایت میں حضرت عمرؓ کے بھائیوں کا واقعہ بیان کیا جائے،
شیعہ کی زبان سے اس کا رتبہ کیا رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور پر
کے راوی عبدالقدوس بن بریدہ ہیں جو اپنے والد سے روایت کرتے
ہیں لیکن محمد شین کو اس بات میں شہہر ہے کہ ان کی جو روایتیں باپ
کے سلسلے سے منقول ہیں، صحیح بھی ہیں یا نہیں؟

تاہم اس قد ضرور ہے کہ اس ہم پر پہلے اور بڑے بڑے صحابہ مجھے
گئے تھے، لیکن فتح کا فخر کسی اور کی قسمت میں تھا۔ (۳۸۶۱)

راقم عرض کرتا ہے کہ طبری کی مذکورہ بالا روایت پر مولانا کا نقضہ اور ایاد بالکل درست
ہے اور کوئی ایسی روایت جس میں کسی شیعہ کی زبانی حضرت عمرؓ کے بھائیوں اور نامردی دکھانے کا
واقعہ بیان کیا جائے، یقیناً قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس روایت کو غیر معتر قرار دینے کے لیے
محض عوف کی شیعیت کا تذکرہ ہی کافی تھا۔ اس کی ضرورت نہ تھی کہ ”عبدالله بن بریدہ عن أبيه“
کی سند کو بھی سعرض بحث میں لا لایا جاتا۔

دوبارہ وضاحت کی جاتی ہے کہ جہاں تک طبری کی روایت اور اس کے مضمون کا تعلق
ہے، وہ قطعاً ناقابل اعتماد اور بے بنیاد ہے۔

لیکن مولانا شمسی نے عبد اللہ بن بریدہ عن أبيه کی سند کی صحت پر محمد شین
کے خواستے جس انداز میں مطلقاً ہے کا اظہار کیا ہے، یہ صورت حال کی صحیح ترجیحی نہیں ہے
کیونکہ ان کے بیان سے متریخ ہوتا ہے کہ تمام تر یا بیشتر محمد شین اس سند کو قابل استناد تصور نہیں
کرتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ عام محمد شین کا راجحان اس سند کی صحت علی کی جانب ہے۔ اس
کی دلیل یہ ہے کہ ”اصح الکتب بعد کتاب اللہ“ یعنی صحیح بخاری میں بھی اس سند سے

روایتیں مذکور ہیں (ملاحظہ ہو کتاب المغازی: باب بعث على بن أبي طالب اور باب
کم غزا النبی ﷺ) اسی طرح صحیح مسلم بھی سند مذکور کی روایتیں موجود ہیں (مشلاً کتاب
الجهاد والسیر: باب عدد غزوات النبی ﷺ) اس موقع پر یا امر بھی قابل ذکر ہے کہ
امام دارقطنی نے اپنی کتاب "الاستدراکات والتتبع" میں سند مذکور پر کسی قسم کا کلام کرنے
کے بجائے امام مسلم پر یہ اعتراض کیا ہے کہ "حسین بن واقد عن عبد الله بن بریدة
عن أبيه" کی سند جب امام مسلم کے زد یک صحیح ہے تو انہوں نے اس مسئلے سے متفق دوسری
روایات کی تحریخ بھی کیوں نہیں کی؟ لکھتے ہیں:

وأخرج مسلم حديثاً واحداً عن الحسين بن واقد
عن ابن بريدة عن أبيه عن النبى ﷺ تسع عشرة
غزوةً وحده، وعنده نسخة يلزمها اخراجها. (بين
الإمامين مسلم والدارقطنی، ص ۳۷)

ایک بات یہ بھی ہے کہ سند مذکور کی صحت و عدم صحت کا دار و مدار اس پر ہے کہ عبد اللہ کا
سامع اپنے والد حضرت بریدہ سے ثابت ہے یا نہیں؟ سوابراہم الحربی نے عبد اللہ بن بریدہ اور
ان کے بھائی سلیمان بن بریدہ دونوں کے بارے میں رائے دی ہے کہ "لَمْ يَسْمَعَا مِنْ
أَيْهَمَا" (ان دونوں نے اپنے والد سے نہیں سنा) لیکن جب امام احمد بن حنبل سے اس بارے
میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کرنے کے بجائے عدم علم کا اظہار فرمایا، (قال ما
أدرى، عامة ما يروى عن بريدة عنه) لیکن اس باب میں قول فعل یہ ہے کہ عبد اللہ کا
سامع ان کے والد سے ثابت ہے اس کی دلیل فتح خیر سے متعلق سند احمد کی وہ روایت ہے جس
میں عبد اللہ نے "حدثني أبي بريدة" کہہ کر اپنے والد سے اپنے سامع کی تحریخ کر دی
ہے۔ اس روایت کی سند حسب ذیل ہے:

حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا زيد بن الحباب، حدثني
الحسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بريدة، حدثني
أبي بريدة قال حاصرنا خير الخ (سند احمد ۵/۳۵۳)

اس کے علاوہ مسند احمد کی ایک اور روایت میں انھوں نے "سمعت أبي يقول" (میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سن) کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس روایت کی سند اور متن کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں:

حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا زيد بن حباب،
 حدثني حسين بن واقع، حدثني عبد الله بن بريدة
 قال: سمعت أبي بريدة يقول: كان رسول الله ﷺ يخطبنا، ف جاءه الحسن والحسين عليهما قميصان
 أحمران، يمشيان ويعتران ... الخ (٣٥٢/٥)

مزید برآں ایک اور روایت میں انھوں نے اپنے والد کے ساتھ حضرت معاویہؓ کی مجلس میں حاضری کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ روایت بھی مسند احمد کی ہے اس کے الفاظ یوں ہیں:

حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا زيد بن الحباب،
 حدثني حسين ثنا عبد الله بن بريدة قال: دخلت أنا وأبي على معاوية، فأجلسنا على الفراش ثم أتينا بالشراب، فشرب معاوية، ثم ناول أبي، ثم قال ماشربته منذ حرمه رسول الله ﷺ الخ (٣٣٧/٥)

ذکورہ بالا روایات کی بنیاد پر کہا جاسکتا ہے کہ عبد اللہ کا اپنے والد سے ماءع، نیز ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کی معیت میں ممتاز اور سر برآ اور وہ شخصیات کی مجالس میں شرکت کرتا قطیعیت کے ساتھ ثابت ہے، اس لیے یہ کہتا غلط نہ ہو گا کہ "عبد الله بن بريدة عن أبيه" کی سند پیشتر محدثین کے نزدیک معتبر ہے۔

ل اس روایت کی تحریق الیوداود (كتاب الصلوة، باب الامام يقطع الخطبة لامر يحدث) ترمذی (كتاب المناقب، باب حمله ووضعه الحسن والحسين) نائل (كتاب الصلوة، باب نزول الامام عن المنبر) اور ابن ماج (كتاب اللباس، باب ما يقول الرجل اذا لبس ثوبا جديداً) نے بھی کی ہے۔ ح مسند احمد کے مطبوعہ نسخے میں "الفرش" ہے، لیکن صحیح "الفرش" ہے، چنانچہ حافظ ذہبی نے "سیر العلام المحمada" (٥٨٥) میں مسند احمد کے حوالے سے یہ روایت لفظ کی ہے اور وہاں "الفرش" ہی ذکر کر رہے۔

”فاطمہ زہرا کی شادی“ کے عنوان کے تحت مولانا تکھتے ہیں:
 ابن سعد نے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکرؓ نے
 آنحضرت ﷺ سے درخواست کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا جو خدا کا
 حکم ہوگا پھر حضرت عمرؓ نے جواب کی۔ ان کو بھی آپ نے کچھ
 جواب نہیں دیا، بلکہ وہی الفاظ فرمائے لیکن یہاں ہر یہ روایت صحیح نہیں
 معلوم ہوتی۔ حافظ ابن حجر نے اصحابہ میں ابن سعد کی اکثر
 روایتیں حضرت فاطمہؓ کے حال میں روایت کی ہیں۔ لیکن اس کو نظر
 انداز کر دیا ہے۔ (۳۶۲)

راقم عرض کرتا ہے کہ مولانا شبلی نے ابن سعد کی روایت کی عدم صحت کے لیے جس چیز کو قرئیے یاد دل کے طور پر پیش کیا ہے، اس میں قرینہ و دلیل بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ حافظ ابن حجر کا "الاصابة" میں کسی روایت کو نظر انداز کر دینا اس کے عدم صحت کی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے کہ انھوں نے مقدمہ "اصابة" میں یا اپنی کسی دوسری تصنیف میں اسکی کوئی صراحت نہیں کی ہے کہ میں جس روایت کو "اصابة" میں نظر انداز کر دوں، وہ میرے نزد یک غیر صحیح اور ناقابل اعتماد ہے، زان کے بعد کے علماء و محققین میں کسی سے یہ قول منقول ہے۔

دوسرا طرف مولانا کے مذکورہ بالایاں سے بہ طاہر ایسا مترشح ہوتا ہے جن روایات کو حافظ ایں جھرنے "الاصابة" میں داخل کر لیا ہے، وہ ان کے اور عام علماء کے نزدیک سب کی سب صحیح اور قابل اعتقاد ہیں، حالانکہ اس کا بھی کوئی قائل نہیں ہے۔ لے بلکہ کتاب مذکور کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ موصوف نے ایسا کوئی اتزام نہیں کیا ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں ہر طرح کی روایتیں موجود ہیں۔

ل البت "فِي الباري" اور "التلخيص الحبير" میں حافظ ابن حجر کا کسی روایت کے ذکر کے بعد اس پر سکوت اختیار کرتا، اس کے صحیح یا صحن ہونے کی علامت ہے، تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تو احمد بن علوم الحدیث "معنفو مولانا ناظم احمد عثمانی ۸۹-۹۰

لہذا ابن سعد کی مکملہ بالاروایت سے متعلق بحث و گفتگو کا صحیح طریقہ یہ ہو گا کہ خود اصل روایت دیکھی جائے کہ وہ کس درجے کی ہے؟ سوطیقات ابن سعد کے مطالعے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ابن سعد نے زواج فاطمہؓ سے متعلق دو روایتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی روایت اگرچہ مرسل ہے لیکن سند کے لفاظ سے درجہ حسن کی ہے۔ اس کی سند اور متمن کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں:

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَّ الْأَحْمَادِ، حَدَّثَنَا الْمَنْذُرُ بْنُ
ثُلْبَةَ، عَنْ عَلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ الْيَشْكُرِيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرَ
خَطَبَ فَاطِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرَ انتَظِرْ
بِهَا الْقَضَاءَ. الْخَ (۱۹، ۸)

حافظ ابن حجر نے "التقریب" میں علباء بن احمد کو زہری و قادہ کی طرح طبق رابعہ
میں رکھا ہے، یعنی ان تابعین میں جو کبار تابعین سے روایت کرتے ہیں۔

دوسری روایت جبر بن عنیس کی ہے، جو مختصرین میں ہیں۔ یہ روایت بھی درجہ حسن
کی ہے جبر بن عنیس کا اسماع آنحضرت ﷺ سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ثابت ہے کہ وہ جنگ
جمل اور جنگ صفين میں حضرت علیؑ کے ساتھ تھے اس لیے اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ
خوبوں نے مذکورہ روایت کا مضمون خود حضرت علیؑ یا کسی اور دوسرے صحابی سے سناؤ۔ روایت
مذکورہ کی سند اور متمن کی ابتدائی عبارت درج ذیل ہے۔

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَكْبِينَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَيْسٍ
الْحَاضِرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ حِجْرَ بْنَ عَنْبَسَ قَالَ وَقَدْ
كَانَ أَكْلِ الدِّمَ فِي الْجَاهِيلِيَّةِ، وَشَهَدَ مَعَ عَلَى الْجَمْلِ
وَصَفِيفِينَ، قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٌ فَاطِمَةَ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ لَكَ يَا عَلِيٌّ...
الْخَ (۹/۸)

واضح رہے کہ جبر بن عنیس کی یہ روایت ابن سعد کے علاوہ طبرانی کے یہاں بھی
وجود ہے اور علامہ پنجی نے مجمع الزوائد میں اس کے رجال کو ثقہ قرار دیا ہے۔ (رواه

الطببرانی و رجالہ ثقات (۲۰۳ / ۹)

حاصل کلام یہ ہے کہ زواج فاطمہؓ ہر اسے متعلق ابن سعد کی حوصلہ بالا روایت ناقابل التفات اور بالکل یہ نظر انداز کرو دیے جانے کے قابل نہیں ہیں۔

یہ روایت اگرچہ مرسل ہیں، لیکن الگ الگ طریق سے مردی ہیں اور مرسل روایت جب کئی طریق سے مردی ہو تو باتفاق قابل استناد ہوتی ہے۔

اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی ملحوظ خاطر رہے کہ مولا ناشیلی نے حضرت فاطمہؓ ہر اسے متعلق ابن سعد کی بعض دیگر مرسل بلکہ ضعیف روایات کو بھی قبول کر لیا ہے۔ مثلاً لکھتے ہیں:

بہر حال جب حضرت علیؓ نے درخواست کی تو آپ ﷺ

نے حضرت فاطمہؓ کی مرضی دریافت کی، وہ چپ رہیں۔ یہ ایک

طرح کا اظہار در عصا تھا۔ (۳۶۱)

یہ مضمون ابن سعد نے عطاء بن ابی رباح سے مرساً نقل کیا ہے (طبقات ۲۸)

اسی طرح حضرت حارثہ بن نہمان انصاریؓ کی جانب سے حضرت فاطمہؓ کے لیے

مکان کے انتظام سے متعلق جو روایت سیرۃ النبیؓ میں مذکور ہے، اس کا مانند بھی طبقات ابن سعد ہے، لیکن یہ واقعی کی روایت ہے (طبقات ۲۲/۸)

☆☆☆☆☆

تمل کعب بن اشرف کے ذیل میں مولا نا لکھتے ہیں :

ارباب روایت نے لکھا ہے کہ حضرت محمدؐ بن مسلم نے آپ ﷺ

کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ "یہم" کو کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔

ارباب یہ نے اس کے مخفی یہ لگائے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ باتیں کہنے کی اجازت مانگی اور آنحضرت ﷺ نے اجازت دے دی کیونکہ "الحرب خدعاً" یعنی زرائی میں دھوکا

دینا جائز ہے، لیکن بخاری کی روایت میں صرف یہ لفظ ہے "فاذن لی اُن اقوال" اس سے غلط گوئی کی اجازت کہاں تھی ہے؟ اس بیان سے متعلق چند امور قبل ذکر ہیں :

اول یہ کہ مولانا نے یہاں "ارباب روایت" کا نہیں فقط استعمال کیا ہے، اس سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ روایت کس درجے کی ہے اور کن محدثین نے اس کی تخریج کی ہے؟ سودا حادث کی جاتی ہے کہ یہ روایت صحیح بخاری، صحیح سلمٰ اور من ابو داؤد کی ہے۔ لہذا سند و متن کے لحاظ سے اس کا استناد و اعتبار سلم ہے۔

دوم یہ کہ موصوف نے جس استنباط کو ارباب سیر کی جانب منسوب کر کے اس نے حیثیت گھٹانے کی کوشش کی ہے، وہ در حقیقت سرگردہ محمد شین امام بخاری کا استنباط ہے، چنانچہ انہوں نے اس حدیث پر "الکذب فی الحرب" کا ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ البتہ فقہاء محمد شین کے درمیان اس باب میں اختلاف رہا ہے کہ جنگ میں جس جھوٹ کی اجازت دی گئی ہے، اس سے صریح جھوٹ مراد ہے یا ایسا کلام جو تعریض و توریہ اور کناہ پر مشتمل ہو؟ شافعیہ کا رجحان اس جانب ہے کہ کذب صریح کی بھی اجازت ہے، لیکن تعریض و کناہ زیادہ بہتر ہے چنانچہ حافظ ابن حجر امام نووی کی عبارت نقل کرتے ہیں: "الظاهر اباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعریض أولى" (یعنی تین مواقع میں جن میں ایک حالت جنگ بھی ہے حقیقت کذب کی اجازت حدیث سے مستفاد ہوتی ہے۔ البتہ تعریض زیادہ بہتر ہے) اسی طرح مالکیہ میں قاضی ابو بکر ابن العربي فرماتے ہیں: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص (یعنی جھوٹ حرام ہے، البتہ حالت جنگ اس سے مستثنی ہے اور

لـ کتاب الرهن: باب رهن السلاح، کتاب الجهاد: باب الكذب فی الحرب، باب الفتک بالهل الحرب، کتاب المغارزی: باب قتل کعب بن الاشرف۔ کتاب الجهاد والسیر: باب قتل کعب بن الاشرف۔ کتاب الجهاد: باب فی العدو یوئی على غرة امور ثلاث سے ترمذی کی اس روایت کی جانب اشارہ مقصود ہے، جو حضرت امامہ بنت زین یہ سے مرفوعاً مروی ہے "لا يحل الكذب إلا في ثلاثة: تحدث الرجل إمرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، وفي الاصلاح بين الناس"

متفرقہات

۲۱۶

اس کا جواز نفس سے ثابت ہے) البتا حنفی کذب صریح کی اجازت کسی حال میں نہیں دیتے، ان کے نزدیک حالت جنگ یا بعض دیگر موقع پر بھی تعریض و توریہ کی علی اجازت دی گئی ہے، مگر یہ کہ اخترار کی صورت پیدا ہو جائے۔

سوم یہ کہ مولانا نے "فائذن لی اُن اقوال" کا لفظی ترجمہ تو لکھ دیا (ہم کو کچھ کہنے کی اجازت دی جائے) لیکن روایت کے سياق و سبق میں اس کا مفہوم تین کرنے سے مگر بڑی کیا ہے۔ ان کے انداز بیان سے ایسا متریخ ہوتا ہے کہ وہ اس جملے کو اپنے لفظی معنوں ہی پر محول کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اگر صرف کچھ کہنا مراد ہے تو اس کے لیے آپ ﷺ سے اجازت طلب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بولنا، کلام کرنا، غنتوں کرنا شرعاً منوع تو نہ تھا کہ اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہو۔ البذا من انا پرے گا کہ یہاں غنتوں سے ایسی غنلوں مراد ہے جس کی اجازت عام حالات میں نہیں ہے یعنی مغالطہ آمیز غنلوں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر حدیث مذکور کی شرح میں لکھتے ہیں:

قوله: فائذن لی اُن اقوال شيئاً، قال قل) کأنه استاذنه
أَن يفتعل شيئاً، يحتال به، ومن ثم بوب عليه

العنف: الكذب في الحرب (فتح الباري ۳۳۳/۸)

(فائذن لی اُن اقوال شيئاً، قال قل "کابھا ہر غنیم یہ ہے کہ حضرت محمد بن سلہ نے آپ ﷺ سے حیله سازی کی اجازت مانگی، اسی لیے امام بخاری نے اس حدیث پر "الکذب في الحرب"

کا باب قائم فرمایا ہے)

اسی طرح حافظ ابن القیم زاد المعاد میں تحریر فرماتے ہیں:

وأذن لهم رسول الله ﷺ أَن يقولوا ما شاؤا

من كلام يخدعونه به (۱۹۱/۳)

لشکر تفصیل کے لیے لاحظہ ہو فتح الباری (كتاب الجهاد، باب الكذب في الحرب ۵۰۰/۶ اور حملۃ
اللہم از مولانا نقی (علیہ السلام) کتاب السیر، باب جواز الخدع في الحرب ۳۰۳)

محکم دلائل و برائین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مولانا شلی بخششیت بیرت نثار

(رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کو اجازت مرحت فرمائی
کہ کعب بن اشرف کو دھوکا دینے کے لیے جو چاہیں کہیں)
ای طرح امام نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں:

(قوله ائذن لی فلأقل) معناہ ائذن لی اُن اقول عنی
وعنك مارأيته من التعریض وغيره، ففیه دلیل على
جواز التعریض، وهو أَن يأتی بکلام باطنہ صحيح،
ویفهم منه المخاطب غیر ذلك، فهذا جائز فی الحرب
وغيرها، ملم يضع به حقا شرعاً۔ (۱۱۰/۲)

(ائذن لی فلأقل" کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اجازت دیجیے کہ
میں اپنی طرف سے اور آپ ﷺ کی طرف سے تعریض وغیرہ کی
قبل سے جو صلحت سمجھوں کہوں لہذا اس حدیث میں تعریض کے
جواز کی دلیل موجود ہے اور تعریض کا مفہوم یہ ہے کہ اسی گفتگو کی
جائے، جن کا باطنی مفہوم درست ہو، لیکن مخاطب کچھ اور سمجھے۔
جنگ وغیرہ میں اسی گفتگو جائز ہے، بشرطیکہ اس کے ذریعے کسی حق
شریعی کافیانہ ہو رہا ہو)

ای طرح محمد بن خلیفہ الابی اپنی شرح مسلم "إكمال إكمال المعلم"
میں لکھتے ہیں:

(قوله ائذن لی فلأقل، قال قل) فیه التعریض
للضرورة، وأن المواخذة بالنية والقصد۔ (۳۳۸/۶)
("ائذن لی فلأقل، قال قل" سے بوقت ضرورت
تعریض کا جواز ثابت ہوتا ہے اور یہ کہ مواخذۃ اخروی کا دارود مار
نیت اور قصد پر ہے)



سیرہ النبی میں متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں کسی واقعے کی حکایت میں مولانا شبلی سے بعض جزوی غلطیاں واقع ہوئی ہیں۔ پھر اس کی مختلف شکلیں ہیں، چنانچہ کہیں کسی عبارت کا مفہوم تحریر و اقتد کے وقت پلت گیا ہے، اس لیے بیان کچھ کا کچھ ہو گیا ہے۔ کہیں احاداد میں تغیر و تبدل ہو گیا ہے اور کہیں اصل واقعے پر کچھ اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ تمام غلطیاں شوری ہوں، بلکہ جیسا کہ ابتداء ہی میں وضاحت کی جا چکی ہے، کہ وہیاں، سبقت قلم اور طبعی عجلت پسندی کو بھی ان کا باعث و محرك قرار دیا جاسکتا ہے تاہم یہاں ان کی نشان وہی مناسب معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے آئندہ صفحات میں اس سلسلے کی بعض مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

(الف) غزوہ احمد کے بیان میں لکھتے ہیں:

آنحضرت ﷺ نے مستورات اور بچوں کو حضرت یمانؓ اور حضرت ثابتؓ کی حفاظت میں مدینے کے پاس قلعوں میں بیچج دیا تھا، ان لوگوں کو شکست کی خبر معلوم ہوئی تو سب کو چھوڑ کر احمد کی طرف بڑھے،..... این ہشام میں یہ واقعہ تفصیل ذکور ہے۔ (۳۸۲۱)

اس بیان میں مولانا کا یہ فرماتا کہ آنحضرت ﷺ نے مستورات اور بچوں کو حضرت یمانؓ اور حضرت ثابتؓ کی حفاظت میں چھوڑ دیا تھا، درست نہیں ہے۔ ان دونوں حضرات کو آپ ﷺ نے بڑھا پے اور ضعیفی کی بنا پر جنگ سے معدود رکھ کر مدینے میں چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح مولانا کا یہ بیان بھی مطابق واقعہ نہیں کہ یہ دونوں حضرات مسلمانوں کی شکست کی خبر سن کر احمد کی طرف بڑھے تھے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں شوئی شہادت میں احمد کی طرف گئے تھے، اور وہاں ان دونوں کو شہادت نصیب ہوئی۔ اس کی تصدیق کے لیے این ہشامؓ کی اصل عبارت ملاحظہ ہو، جو خود مولانا شبلی کا بھی مأخذ ہے :

قال ابن اسحق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد، قال: لما خرج رسول الله ﷺ إلى أحد، رفع حسين بن جابر، وهو اليمان أبوحنيفة بن اليمان وثابت بن وقش في الآطام مع

النساء والصبيان، فقال أحدهما لصاحبہ، وہما
شیخان کبیران: ما أبا لک مانتنظر؟ فوالله لا بقی
لوحد منا من عمره إلا ظمُّ حمار، إنما نحن هامة
اليوم أوغدِ، أفلأ نأخذ أسيافنا، ثم تلحق برسول
الله ﷺ، لعل الله يرزقنا شهادة مع رسول الله ﷺ؟
فأخذوا أسيافهم اثماً خرجاً، حتى دخلوا في الناس، ولم
يعلم بهم. (ابن هشام ۸۷/۲)

(ابن الحنفی کہتے ہیں کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قاتادہ نے حضرت
محمود بن لمید کے حوالے سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ جب
احد کی طرف تعریف لے گئے تو حسین بن جابر کو، جنہیں بیان بھجو،
کہتے ہیں اور جو حضرت حدیثؓ بن بیان کے والد ہیں، اور نیز
حضرت ثابت بن قوش کو عورتوں اور بچوں کے ساتھ تلقعون میں پیج
دیا۔ تو ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا اور دونوں
تھیں بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، اللہ تم پر حرم کرے، تمھیں اب کیا
انتظار ہے، واللہ ہم دونوں کی مدت حیات اب چند روز سے زیادہ
نہیں۔ آج گئے یا کل گئے تو کیوں نہ ہم تواریں لیں اور رسول اللہ
ﷺ سے جالمیں؟ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں دولت شہادت نصیب
فرمائے۔ چنانچہ دونوں نے اپنی تواریں لیں اور نکل گئے تا آنکہ
بھومن میں کھس گئے اور مسلمانوں کو ان کی موجودگی کا علم نہ ہو سکا)
حافظ ابن حجر نے بھی ابن الحنفی کی اس روایت کو تنجیع کے ساتھ فتح الباری میں نقل
فرمایا ہے۔ (كتاب المغازى: باب اذہمت طائفتان الخ)

(ب) آنحضرت ﷺ کی رضاوت کے بیان میں لکھتے ہیں :
اس میں اختلاف ہے کہ آپ حضرت حلیمهؓ کے یہاں کئے برس تک

رہے؟ ابن الحنفی نے وثوق کے ساتھ ۶ ربرس لکھا ہے۔

(۱۷۳۱)

راقم المعرف عرض کرتا ہے کہ علائش کے باو جود سیرہ ابن ہشام میں یہ تصریح کہیں نظر نہ آئی۔ البتہ ”وفاة آمنہ“ کے عنوان کے تحت یہ عبارت مذکور ہے:

قال ابن اسحاق: و كان رسول الله ﷺ مع أمه آمنة بنت وهب، و جده عبدالمطلب بن هاشم، فـي كلامه الله و حفظه يـنـبـتـه الله نـبـاتـا حـسـنـا لـمـا يـرـيدـهـ بـهـ منـ كـرـامـتـهـ، فـلـمـا بـلـغـ رسول الله ﷺ سـتـ سـنـينـ، تـوـفـيـتـ

آمنة آمنة بنت وهب۔ (ابن ہشام ۱/۱۶۸)

(ابن الحنفی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی والدہ آمنہ

بنت وہب اور اپنے دادا عبدالمطلب بن ہاشم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حفاظت و تمہیانی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی آئندہ قدر و منزلت کے پیش نظر آپ کی بہترین نشوونما فرمائی۔ پھر جب آپ ﷺ چھ برس کے ہوئے تو آپ ﷺ کی والدہ آمنہ بنت وہب کی وفات ہو گئی۔

لیکن اس سے مولانا کے بیان کی تائید نہیں ہوتی، بلکہ موصوف کے بیان کے رعایت این الحنفی کی اس عبارت سے یہ مستفادہ ہوتا ہے کہ آخرت ﷺ ۶ ربرس کی عمر سے پہلے ہی حضرت حیمہؓ کے یہاں سے واپس آگئے، پھر آپ کی طفویلت کا کچھ وقت (جو سال دو سال بھی ہو سکتا ہے) آپ ﷺ کی والدہ کے سایہ شفقت میں گذر ا۔ تا آنکہ جب آپ ﷺ ۶ سال کے ہوئے تو والدہ کی وفات ہوئی۔

(ج) قتل کعب بن اشرف کے ذمیل میں لکھتے ہیں:

فـذـ أـنـجـزـيـ كـاـ زـيـادـهـ اـنـدـيـشـهـ بـوـاـتـ آـپـ ﷺ نـےـ بـعـضـ مـحـاـبـهـ سـےـ شـكـاـيـتـ کـیـ اـوـ آـپـ ﷺ کـیـ مرـضـیـ سـےـ حـضـرـتـ مـوـحـدـ بنـ مـلـدـ نـےـ بـ

مشورہ رؤسائے اوس جا کر اس کو رفع الاول ۲ یہ میں قتل کر دیا۔

(ارے ۳۰)

راقم عرض کرتا ہے کہ مولانا شیخ نے اپنے اس بیان میں یہ تاثر دینا چاہا ہے کہ کعب بن اشرف کا قتل رؤسائے اوس کے مشورے سے ہوا تھا البتہ اس میں آپ ﷺ کی رضا مندی بھی شامل تھی۔ مولانا نے اس سلسلے میں طبقات ابن سعد کے جزو ممتازی کا حوالہ دیا ہے، لیکن اس موقع پر ابن سعد کی عبارت سے مولانا کے بیان کی تصدیق نہیں ہوتی بلکہ ان کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کعب بن اشرف کی خاشتوں سے عجک آ کر جب آنحضرت ﷺ یا اعلان فرمایا کہ ان اشرف کو اس کے کیفر کروار نکل پہنچانے والا کون ہے؟ تو حضرت محمد بن مسلم نے آجے بڑھ کر یہ ذمہ داری اپنے سرلی اور کہا کہ میں اسے قتل کروں گا۔ اس پر آپ ﷺ نے ابن اشرف کے قتل کی اجازت دی اور ساتھ ہی حضرت محمد بن مسلم کو یہ حکم دیا کہ ابن اشرف کے معاملے میں حضرت سعد بن معاذ سے مشورہ کریں۔ پھر حضرت محمد بن مسلم بعض رؤسائے اوس کے ہمراہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے عرض کیا کہ تم ابن اشرف کو قتل کریں گے، لیکن ہمیں (تعزیض و کنایہ جیسی) پچھوٹنگوں کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ ابن سعد کی عبارت درج ذیل ہے:

وقال أيضا من لى بابن الأشرف فقد آذانى ؟ فقال
محمد بن مسلم : أنا يارسول الله وأنا أقتله ، فقال :
افعل وشاور فى أمره ، واجتمع محمد بن مسلم
ونفر من الأوس ، منهم عباد بن بشر ، وأبونائلة
سلكان بن سلامة ، والحارث بن أوس بن معاذ ،
وأبوعبس بن جبر ، فقالوا : يارسول الله عزيمه نحن
نقتله ، فائذن لنا فلنقل . (۳۲/۲)

(د) غزہ خیں کے بیان میں منداحم بن حبیل کے حوالے سے لکھتے ہیں:
رسد اور سامان جنگ کے لیے قرض کی ضرورت پیش آئی۔ عبد اللہ

محکم دلائل و برائین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بن ربيعة نے جوابِ جمل کے بے مات بھائی تھے، نہایت دولت مند تھے، ان سے تمیں ہزار درهم قرض لیے۔ (۵۳۳/۱)

راقم عرض کرتا ہے کہ اصل روایت میں تمیں یا چالیس ہزار کے اعداد آئے ہیں:

”أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْهُ حِينَ غَزَا حَنِينًا

ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَلْفًا“ (مسند أحمد ۳۶/۲)

ای چمن میں حاشیے میں لکھتے ہیں:

اصابہ میں امام بخاری سے بھی یہ روایت نقل کی ہے، لیکن اس میں دس ہزار کی تعداد ہے۔ (۵۳۳)

راقم عرض پرداز ہے کہ اصلیۃ میں بھی دس ہزار کے بجائے ”زاائد از دس ہزار کے اعداد آئے ہیں:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَهُ مَالًا بِبِضْعَةِ عَشَرِ أَلْفًا

(الإصابة ۳۰۵/۲)

(۴) محاصرہ طائف کے ذیل میں لکھتے ہیں:

میں دن تک محاصرہ رہا، لیکن شہر فتح نہ سکا۔ (۵۳۲/۱)

راقم عرض کرتا ہے کہ محاصرہ طائف کی مدت کے سلسلے میں ارباب سیرت کے یہاں مختلف اعداد وار ہوئے ہیں، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ میں کا عدد کسی سے بھی منقول نہیں۔ اس کی تفصیل ذیل میں ملاحظہ ہو:

ابن انتق لکھتے ہیں: فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة (میں سے کچھ زائد نہیں)

تک محاصرہ رہا (ابن هشام ۲۸۲/۲)

ابن هشام کا یہاں ہے: ويقال سبع عشرة ليلة (بعض لوگ کہتے ہیں سترہ دن محاصرہ رہا) (البنا)

ابن سعد کا یہاں ہے: فحاصرهم ثمانية عشر يوماً (انھارہ دن محاصرہ رہا) (طبقات ۱۵۸/۲)

محکم دلائل و برائین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مولانا شلی بحیثیت سیرت نکار

والدی نے تین اقوال نقل کیے ہیں :

- ۱۔ فقال قائل ثمانیۃ عشر یوما (بعض لوگ کہتے ہیں انہارہ دن محاصرہ رہا)
 - ۲۔ و قال قائل تسعۃ عشر یوما (بعض کہتے ہیں انہیں دن)
 - ۳۔ و قال قائل خمسۃ عشر یوما (بعض کہتے ہیں پندرہ دن)
- (کتاب المغازی ۹۲۶/۳)

(و) ”مسجد نبوی اور ازواج مطہرات کے جگروں کی تعمیر“ کے عنوان کے تحت

لکھتے ہیں :

آنحضرت ﷺ کے ہماری میں جو انصار رہتے تھے، ان میں حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ، حضرت عمارہ بن حزم اور حضرت ابوالیوب رئیس اور دولتِ مند تھے۔ یہ لوگ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں دودھ بیج دیا کرتے تھے اور اسی پر آپ ﷺ برفرماتے تھے۔ (۲۸۷۱)

مولانا کا یہ بیان طبقات ابن سعد سے مأخوذه ہے، لیکن ابن سعد کی اصل روایت میں ”دودھ“ کے بجائے ”ہدیہ“ کا ذکر آیا ہے۔

عن أم سلمة قالت: كانت الأنصار اللذين يكررون إلطاف رسول الله ﷺ سعد بن عبادة و سعد بن معاذ، وعمارة بن حزم، وأبواليوب وذلك لقرب جوارهم من رسول الله ﷺ، وكان لا يغرس يوم إلا ولبعضهم هدية تدور مع النبي ﷺ حيث دار.

(۱۴۳/۸)

(ز) غزوہ خندق کے ذیل میں لکھتے ہیں :

نوفل بھاگتے ہوئے خندق میں گرا، صحابہ نے تیر مارنے شروع کیے۔ اس نے کہا مسلمانو! میں شریفانہ موت چاہتا ہوں۔ (۳۲۸)

سفرقات

مولانا کا یہ بیان تاریخ خمیس سے مأخوذه ہے، لیکن خمیس کی اصل روایت میں تیر کے بجائے پتھروں اور "مسلمانو!" کے بجائے "عربو!" کا ذکر ہے۔ تاریخ خمیس کی عبارت ملاحظہ ہو:

وفي روضة الأحباب، اقتحم الخندق نوفل حين الفرار فسقط فيه، فرماده المسلمون بالحجارة، فصرخ يامعشر العرب فقتلة أحسن من هذه. (۳۸۷/۱)

(ح) قتل کعب بن اشرف کے ذیل میں رقطراز ہیں:

ایک روایت میں ہے کہ کہہ میں چالیس آدمی لے کر گیا، وہاں ابوسفیان سے مٹا اور اس کو بدر کے انتقام پر برائیختہ کیا اور ابوسفیان سب کو لے کر حرم میں آیا۔ سب نے حرم کا پردہ تھام کر معاہدہ کیا کہ بدر کا انتقام لیں گے۔ (۳۰۷/۱)

مولانا نے اس بیان کے لیے تاریخ خمیس کا حوالہ دیا ہے، لیکن رقم کو کعب بن اشرف کے قتل کے سیاق میں، اس مضمون کی کوئی روایت تاریخ خمیس میں نہیں ملی۔ البتہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں مجازی ابن عائذ کے حوالے سے کلبی کی ایک روایت قتل کی ہے، جس میں مختصر ای مضمون مذکور ہے۔ لکھتے ہیں:

أخرج ابن عائذ من طريق الكلبي أن كعب بن الأشرف قدم على مشركي قريش، فحالفهم عند أستار الكعبة على قتال المسلمين. (۳۲۰/۸)

مولانا کو حوالے میں غالباً یہاں سہوا واقع ہو گیا ہے۔ ۴۷

(ط) فتح مکہ کے واقعات کے ذیل میں "خطبہ کے اصولی مطالب" کے عنوان

کے تحت لکھتے ہیں:

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور "خوف انگیز" لہجہ میں پوچھا، تم کو کچھ معلوم ہے؟ میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟

(۵۲۰/۱)

☆ برادرم ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی نے توجہ دلائی کہ حدّت کرہ بالا روایت تاریخ خمیس جلد اول حکم عالیٰ اسلام مطبوعہ میں فرمودی تھی مگر فرمودی موقوعات میں موثق نہیں مفت آن لائن مکتبہ

مولانا کا یہ میان این اعلیٰ کی روایت پر تھی ہے، لیکن اصل روایت میں ”خوف انگیز“ لہجہ کا ذکر نہیں۔ مولانا نے غالباً زور بیان کے لیے اپنی جاہب سے یہ اتفاقہ کر دیا ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں:

ثم قال يا معاشر قريش، ماترون أني فاعل فيكم؟
(۳۱۲/۲)

مذکورہ بالاقرئ و گذاشتیں اگرچہ معمولی نوعیت کی ہیں، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ حقیقی و علمی حرم و اختیاط کے خلاف ہیں۔ اسی لیے یہاں ان کا ذکر مناسب سمجھا گیا۔

☆☆☆☆☆

علماء المسلمين کا اس امر پر اتفاق ہے اور روایات صحیح سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ آنحضرت ﷺ سے آپ ﷺ کی حیات مبارکہ کے مختلف ادوار میں نیز عقفل غزوہات و دریا اور سفر و حضرت میں ہار پار مجراز اور دلائل نبوت کا ظہور و صدور ہوا ہے، چنانچہ اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں مجراز اور دلائل نبوت کی روایات خاص طور پر سمجھا کی ہیں اس کے علاوہ دیگر محدثین کرام نے ”دلائل المنبوءة“ سے متعلق مستقل کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، جن میں ابو قیم اصفہانی اور امام تیمی کی ”دلائل المنبوءة“ کو خاص شہرت حاصل ہے۔ لیکن مولانا شلی کی ”سیرۃ النبی“ ان کے ذکر سے باعثوم خالی ہے، اس سلسلے میں یہ جواب شافعی نہیں ہے کہ مولانا کا ارادہ مجراز سے متعلق ایک مستقل جلد تصنیف کرنے کا تھا لیکن موت نے مہلت نہ دی کہ وہ اپنے ارادے کو پایہ تھیں تک پہنچاتے۔ کیونکہ انہوں نے سیرۃ النبی کا جو خاک مرتب کیا تھا، اس میں ایک جلد مستشرقین کے روزا بطال کے لیے بھی خاص کی تھی، تاہم اس کتاب کی موجودہ ڈیڑھ جلدیوں میں بھی کہیں متمن میں اور کہیں حاشیے پر وہ جا بجا مستشرقین کے اعتراضات و ہفووات کا جواب دیتے چلے گئے ہیں۔ چنانچہ کم از کم ایسے

لے ذکر نہ مدد اصلی قسمی نے مقدمہ دلائل المنبوءة للیہمی میں اس موضوع سے متعلق ۲۳ کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ ۹۰۷۱-۹۶

۲۴ مقامات راقم کی نظر میں ہیں۔ لے یہ اس کے برخلاف مجرمات و دلائل نبوت کا ذکر ضمانتیاً جمعاً بھی بجز ایک جگہ کئی نہیں آ سکا ہے۔ بلکہ بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں مولا نانے کوئی روایت اپنی تمام جزئیات کے ساتھ داخل کتاب کی ہے، لیکن مجرمے سے متعلق بیان کو حذف کر گئے ہیں۔ اس کی بعض مثالیں آئندہ صفحات میں طالع ہوں۔

(۱) ہجرت کے پیان میں سراقد بن ہشم کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
 دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی گھوڑے کے پانو
 گھننوں تک زمین میں دھنس گئے۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال
 دیکھی اب بھی وہی جواب تھا۔ (۲۷/۱)

یہاں مولانا نے گھنٹوں تک پانو زمین میں دھنس جانے کے بعد پانو پاہر لٹکانے اور پھر زمین سے دھنویں کے ماتنڈ غبار کے اشٹے کا ذکر قلم انداز کر دیا ہے۔ حالانکہ صحیح بخاری کی روایت میں ان دونوں کا ذکر بھی موجود ہے۔

حتى إذا سمعت قراءة رسول الله عليه السلام، وهو لا يلتفت وأبوبكر يكثُر الالتفات، ساخت يدا فرسى في الأرض حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها، ثم زجرتها، فنهضت، فلم تكُن تخرج يديها، فلما استوت قائمة، إذا لأنثر يديها غبار ساطع مثل الدخان. (باب

هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة
(یہاں تک کہ جب میں نے رسول اللہ ﷺ کے پڑھنے کی آواز
کی اس وقت آپ ﷺ متوجہ نہیں ہو رہے تھے، لیکن حضرت
ابو بکرؓ بار بار مژمزر کر دیکھتے تھے تو میرے گھوڑے کے دونوں اگلے

لے اس سلسلے میں سیرہ اُنہی جملہ اول کے پیشگات طاہر اول: ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰

پانو گھننوں تک زمین میں دھنس گئے، پس میں اس سے گر پڑا، پھر میں نے اسے ڈالنا تو وہ کھڑا ہوا اور پہ مشکل اپنے دونوں پاؤں پا ہوا ہر نکال سکا، جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پانو کے نیچے سے دھنوں کے مانند غبار بلند ہوا)

یہاں مولا نے ایک فرد گذاشت یہ بھی ہو گئی ہے کہ انہوں نے "محوزے سے اتر پڑا" کے الفاظ لکھ دیئے ہیں؛ حالانکہ اصل روایت میں "غفرت عنہما" آیا ہے جس کے معنی ہیں "میں محوزے سے گر پڑا"۔

مرید ہر آں مولا نے اس حقیقت کو بھی قلم انداز کر دیا ہے کہ سراقد اور اس کے گھوڑے کے ساتھ جو خلاف عادت و اقعاد تھیں آئے، ان کا سبب اور باعث سراقد کے حق میں آنحضرت ﷺ کی بد دعا تھی۔ حالانکہ اس کی تصریح بھی اسی باب کی اگلی روایت میں موجود ہے۔

عن أبي اسحاق قال سمعت البراء، قال: لما أقبل النبي عليه السلام إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن جعشن، فدعا عليه النبي عليه السلام فساخت به فرسه، قال ادع الله لي ولا أضررك، فدعاه.

(ابوالحق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء سے سنا، انہوں نے ہمیان کیا کہ جب نبی ﷺ مدینے کے لیے چلے تو سراقد بن مالک بن جعشن نے آپ ﷺ کا تعاقب کیا، اس وقت نبی ﷺ نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی، چنانچہ اس کا گھوڑا از میں میں دھنس گیا۔ سراقد نے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کرو جیئے، میں آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچاؤں گا۔ آپ ﷺ نے اس کے لیے دعا کر دی۔)

(۲) غزہ نجیر کے سیاق میں حضرت علیؓ کے آشوب چشم اور آنحضرت ﷺ کے لعاب وہن لگانے اور دعا فرمانے کا ذکر تو مولا نے کیا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں حضرت علیؓ کو جوشقا نصیب ہوئی اس کو صرف کر دیا ہے۔ حالانکہ بخاری، حاکم، طبرانی اور نسیہتی وغیرہ کی روایات میں

متفقان

۲۲۸

اس کا ذکر موجود ہے۔ مثال کے طور پر بخاری میں حضرت اہل بن سعدؓ کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں:

فبحص رسول الله فی عینیہ، ودعا له، فبرا حتی
کأن لم يكن به وجع۔ (باب غزوة خيبر)
(رسول اللہ ﷺ نے ان کی دونوں آنکھوں میں اپنا العاب و ابن لگایا
اور ان کے حق میں دعا فرمائی، تو اس طرح شفایا ب ہو گئے، گویا انھیں
کوئی تکلیف ہی نہ تھی)

(۳) اسی طرح غزوہ خندق کے سیاق میں صحیح بخاری میں مردوی حضرت جابرؓ کی روایت کا
ابتدائی لکھرا تو مولانا نے سیرۃ النبی میں شامل کر لیا ہے، جس میں آپ ﷺ کے دست مبارک
سے ایک بھاری چٹان کے تودہ خاک ہو جانے کا ذکر ہے، لیکن اسی روایت کا وہ لکھرا حذف
کر دیا ہے، جس میں حضرت جابرؓ کے تھوڑے سے کھانے میں (جوتیں چار لوگوں کی خوراک کے
بقدرت تھے) دست نبوی ﷺ کی برکت سے جماعت انصار و مهاجرین کے حکم سیر ہو جانے اور پھر
بھی کھانے کے باقی نیچ رہنے کا کہیا ہے۔

فلم یزل یکسر الخبز ویغرف حتی شبعوا وبقى بقیة،
فقال: کلی وأهدی

(پھر آپ ﷺ برابر روٹی توڑتے اور (گوشت میں سے)
کاشتے رہے یہاں تک کہ سب لوگ سیر ہو گئے اور پھر بھی کچھ نہ رہا
تو آپ ﷺ نے (حضرت جابرؓ کی اہمیت سے) کہا کہ تم خود بھی
کھاؤ اور دوسروں کو ہدیہ بھی کرو۔

علاوہ یہ میں حدیث و سیرت کے مجموعوں میں ایسی صحیح و مستند روایات بکثرت ہیں، جو
واقعات سیرت سے ربط و تعلق کی ہیا پر سیرۃ النبی میں جگہ پانے کی سختی تھیں۔ لیکن کسی بجزے،
کرامت یا خلاف عادت واقعیت پر مشتمل ہونے کی ہیا پر مولانا شیخ نے انھیں قلم انداز کر دیا ہے۔
ذیل میں اس کی بھی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

(۱) صحیح بخاری روایت صحیح بخاری "باب انشقاق القمر" میں حضرت انس بن مالک، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے مردی ہیں، لیکن مولانا شیلی نے ان کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔

(۲) غزوہ خندق کے سیاق میں خندق کھوئتے ہوئے جو غیر معمولی واقعات پیش آئے۔ یعنی آنحضرت ﷺ کی چشم مبارک کے سامنے محلات شام، قصرِ مائن، اور ابواب صنائع کا جلوہ گر ہو جانا اور مفاسخ شام، مفاسخ فارس اور مفاسخ یمن کے حصول کی بشارت وغیرہ کا بیان، ان سب کو مصنف نے حذف کر دیا ہے حالانکہ ان امور کا تذکرہ حضرت براء بن عازب کی روایت میں موجود ہے، جس کی تحریک امام احمد اور امام نسائی نے کی ہے اور جسے حافظ ابن حجر نے سند کے لحاظ سے حسن قرار دیا ہے۔

ووَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ... بِاسْنَادِ حَسْنٍ مِّنْ حَدِيثِ

البراءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ... إِنَّمَا (فتح الباری ۳۹۹/۸)

(۳) حضرت سعد بن معاذ کی وفات کے واقعے کا ذکر مولانا نے موت کے ایک عام حادثے کے طور پر کیا ہے حالانکہ ان کی وفات ان کی ایک دعا کے نتیجے میں ہوئی تھی جس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ مولانا نے اس سلسلے کی دوسری جزیئات تو قلم بند فرمائی ہیں، لیکن ان کی دعائے مرگ اور قبولیت دعا کے نکلوے کو حذف کر دیا ہے، صحیح بخاری سے اس موقع کی عبارت نقل کی جاتی ہے:

قَالَ هَشَامٌ : فَأَخْبَرْنِي أَبِي عَائِشَةَ، أَنَّ سَعْدًا
قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدَ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ
أَجَاهِدُهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَبُوا رَسُولَكَ ﷺ وَ
أَخْرَجُوهُ، اللَّهُمَّ فَلَمَّا نَأْذَنَنَا أَنْكَنَنَا
بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبٍ قَرِيبًا شَيْءًا،
فَأَبْقَنَنَا لَهُ حَتَّى أَجَاهِدُهُمْ فِيكَ، وَإِنْ كَنَّا
وَضَعْتُمُ الْحَرْبَ فَافْجُرُهَا وَاجْعَلُ مَوْتِي فِيهَا، فَانْفَجَرَتْ مِنْ

لبنہ۔ (باب مرجع النبی ﷺ من الأحزاب الخ) (ہشام کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد (عروہ) نے حضرت عائشہؓ کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت مسیح نے کہا کہ اے اللہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے سب سے زیادہ یہی پسند ہے کہ میں آپ کی رضا کے لیے ان لوگوں سے جہاد کروں جنہوں نے آپ کے رسول اللہ ﷺ کو جھلکایا اور انھیں بے گھر کیا، اے اللہ! میرا گمان ہے کہ اب آپ نے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے، تو اگر قریش سے کوئی جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھیے تاکہ میں ان لوگوں سے آپ کی رضا کے لیے جہاد کروں اور اگر جنگ ختم ہو چکی ہے تو میرا یہ نظم ایجاد تھیے اور اسی کو میری موت کا ذریعہ بنادیجیے۔ (اس دعا کے بعد) ان کا زخم یعنی کے پاس سے کھل گیا)

(۲) صحیح بخاری (باب قتل ابی رافع) میں ابو رافع کے قتل کا واقعہ مفصلانہ کوہ ہے۔ اس میں حضرت عبد اللہ بن عتیق نے میری گی سے گر کر اپنی پنڈلی کی پڑی نوٹ جانے اور پھر آپ ﷺ کے دست مبارک پھیرنے کی برکت سے مکمل طور پر شفایا ب ہو جانے کا ذکر بھی کیا ہے۔ حتیٰ انتہیت إلى درجة له، فوضعت رجل، وأنا أرى أنى قد انتهيت إلى الأرض، فو قعْت في ليلة مقمرة، فانكسرت ساقى، فعصبتها بعثامة فانتهيت إلى النبي ﷺ فقال: لى ابسط رجلك، فبسطت رجلى، فمسحها، فكانما لم أشتكمها قط.

(یہاں تک کہ میں اس کی میری گی کے پاس پہنچا اور یہ سمجھ کر کہ میں زمین تک پہنچ چکا ہوں، اپنا ہمرا رکھ دیا، وہ چاندنی رات تھی، بس میں گر پڑا اور میری پنڈلی نوٹ گئی، اور اسے میں نے ایک گڈی سے باندھ لیا... پھر میں خدمت نبوی ﷺ میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ

مولانا شبلی بحیثیت سیرت نکار

نے فرمایا اپنا پوچھیا تو۔ میں نے پھیلا دیا، تو آپ نے اس پر اپنا
دست مبارک پھیر دیا، پھر تودہ ایسا نھیک ہو گیا، گویا اس میں کبھی
کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی)

مولانا شبلی نے قتل ابو رافع کا ذکر بالکل سرسری طور پر اور وہ بھی ابن سعد کے حوالے
سے کیا ہے اور بخاری کی مذکورہ بالامفصل روایت کو قلم انداز کر دیا ہے انھیں بخاری کی اس روایت
نیز اس مجرزے کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا۔

(۵) امام بخاری نے غزوۃ خیبر کے سیاق میں ایک روایت نقل کی ہے:

یزید بن ابی عبید قال: رأیت أثر ضربة فی ساق
سلمة، فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة، فقال: هذه
ضربة أصابتها يوم خیبر فقال الناس أصيب
سلمة، فأتیت النبي ﷺ، فنفت فیه ثلاثة نفات،
فما استکیتها حتى الساعة. (باب غزوۃ خیبر)

(یزید بن ابو عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہؓ (بن الاؤرع) کی
پنڈلی میں کسی ضرب کا نشان دیکھا، تو میں نے پوچھا کہ اے ابو مسلم
یہ ضرب کا نشان کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ ضرب جنگ
خیبر میں لگی تھی، لوگوں میں چہ چاہوا کہ سلمہ کو ضرب آگئی۔ پھر میں
نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے اس پر تین
بار دم کر دیا، اس کے بعد سے اب تک مجھے اس میں کوئی تکلیف نہیں
ہوئی۔)

مولانا نے اس روایت کو بھی بالکلیہ قلم انداز کر دیا ہے۔

(۶) متعدد روایات صحیح میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ آخر حضرت ﷺ کو غزوۃ احمد کی
لہکست اور اس میں مسلمانوں کی ایک جماعت کی شہادت کا علم ایک خواب ذریعے پہلے ہی ہو گیا
تھا۔ چنانچہ یہ شر اہاب سیرت نے غزوۃ احمد کے سیاق میں اس خواب کا تذکرہ خصوصیت کے

متفرقات

۲۳۲

ساتھ کیا ہے۔ لیکن مولا ناشیلی نے اس پرے بیان کو قلم انداز کر دیا ہے۔ ان روایات کے مあと
ذیل میں نقل کیے جاتے ہیں:

- (۱) صحيح بخاری: كتاب العناقب: باب علامات النبوة في الإسلام،
كتاب المغارزي: باب من قتل من المسلمين يوم أحد، كتاب التعبير: باب اذا
رأى بقرات تحر، (باب) اذا رأى أخرج الشئ من كورة الخ
- (۲) صحيح مسلم : كتاب الرؤيا
- (۳) سنن ابن ماجه: كتاب تعبير الرؤيا: باب تعبير الرؤيا
- (۴) مسند إِحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ۱ / ۲۷۱، ۲۵۱
- (۵) سنن دارمي: كتاب الرؤيا: باب فی القعیص والبیر واللبن
والعسل الخ
- (۶) دلائل النبوة للبيهقي: باب ذكر ما أرى رسول الله ﷺ فی منامه الخ
آخر میں عرض ہے کہ اگر اس سلسلے کی تمام روایات اور تمام واقعات کا استیعاب کیا جائے
تو ان کی تعداد رجنوں تک جا پہنچ گی۔ اس لیے یہاں صرف انہی مثالوں پر اکتفا کی جاتی ہے۔



حافظ ابن حجر عسقلانی عالم اسلام کے مائی ناز محمد شین میں ہیں۔ خود مولا ناشیلی نے
سیرۃ النبی میں ہی لکھا ہے کہ ”ان کے کمال فن حدیث پر زبانے کا اتفاق ہے“ (۱/۲۳۱) لیکن
بعض مقامات پر مولا ناشیلی کے قلم سے حافظ موصوف کی شان میں نامناسب الفاظ انکل گئے ہیں۔ مثلاً
کہیں کہیں انھیں ”رواۃ پرست“ یا ”رواۃ پرست“ لکھ دیا ہے۔ (۱/۱۸۱-۲۳۲) اور کہیں ان
کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ”کم زور رونتوں کے سہارا اور پشت پناہ ہیں“ اس سلسلے میں
مولانا محمد اور لیں کاندھلوی نے ان پر بجا طور پر نقد کیا ہے، لکھتے ہیں:

علام صلیب پرستوں کے اعتراض سے اس درجہ مرغوب ہوئے کہ
جو شیخیت اور جذبہ تقدیم میں حافظ ابن حجر کو بھی رواۃ پرست کہہ
گئے، یعنی عیاذ اللہ حافظ ابن حجر بھی صلیب پرستوں کی طرح رواۃ

پرستی کے شرک میں بچلا ہیں ماگر چہوہ کفر دون کفر دون و "ظلم
دون ظلم" کا صدقہ اُہ ہو، لیکن مطلق شرک میں اشتراک ہے۔
اہل علم کے لیے یہ تو جائز ہے کہ کسی حدث کے قول کو ترجیح دیں،
لیکن کسی حدث کی شان میں تخفیض آمیز الفاظ کا استعمال جائز نہیں،
ادب حق محل شہنشہ کی عظمت ہے۔ (سیرۃ المصطفیٰ ۹۲-۹۳)

مولانا نے یہی طرز و اقدی کے سلسلے میں بھی اپنایا ہے، یعنی جانجاہان کے لیے خت
اور نامناسب الفاظ استعمال کیے ہیں۔ حلالاگنہوہ سیرت اور مغازی کے امام اور طبل القدر عالم
تھے۔ علامہ ابن تیمیہ الصارم المسلط میں تحریر فرماتے ہیں:

مع مافی الواقدی من الضعف ... لا يختلف اثنان أن
الواقدی أعلم الناس بتفاصيل أمور المغازی
وأخبرهم بآحوالها وقد كان الشافعی وأحمد
وغيرهما يستفیدون علم ذلك من كتبه.

(الصارم المسلول ص ۹۷)

(باوجود اس کے کہ واقدی میں ضعف ہے دنیا میں کوئی دفعہ بھی
اس بارے میں اختلاف نہیں رکھتے کہ واقدی سب سے زیادہ
مغازی کے جانتے والے ہیں اور مغازی کے احوال و تفاصیل کی
معرفت میں سب سے زیادہ باخبر ہیں اور امام شافعی اور امام احمد اور
دیگر اہل علم و اقدی کی کتابیوں سے استفادہ کرتے تھے)

لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا مولانا شلی نے نہ صرف یہ کہ ان کے لیے نامناسب الفاظ
استعمال کیے ہیں بلکہ بعض مقامات پر ان کی نیت پر بھی حملہ کر دیا ہے۔ مثال کے طور حضرت
زینبؓ کے نکاح سے متعلق واقدی کی ایک مدواہت پر ان کا تبرہ طاحنہ ہو:
مَوْرَخُ طَبْرِي نَفَى يَقِيْدَةَ وَاقِدَيْهِ كَذَرِيْيَةَ نَقْلَهُ كَيْ ہے جو مشہور
کتاب اور دروغ گو ہے اور جس کا مقصد اس قسم کی بے ہودہ

روايات سے یہ تھا کہ عباسیوں کی عیش پرستی کے لیے سندھات آئے۔ (۳۲۳)

لفظ یہ ہے کہ روایت مذکورہ واقعی کے علاوہ دوسری سندوں سے بھی مردی ہے۔ یہاں تک کہ امام احمد بن حبیل نے بھی سند میں اس کی تخریج کی ہے، تو کیا امام موصوف کے بارے میں بھی (العیاذ بالله) عباسیوں کی عیش پرستی کی سند بنخی کی بات کہی جاسکتی ہے؟ انہیں تو مولانا شبلی کے لیے بھی کافی تھا کہ وہ اس روایت کی تضعیف کرتے ہوئے اس کے وجہ ضعف بیان کر دیتے۔ واقعی پر اس قسم کے ختن حملے کی ضرورت نہ تھی۔

خاتمه کلام:

اب تک کے تمام مباحث کا حاصل یہ ہے کہ مولانا شبلی کی سیرۃ النبی ادب و انشا کا شاہکار اور مولانا کے ذوق ادب، حسن ترتیب اور م Sour خانہ شور و آگئی کی آئینہ دار ہے۔ عالمانہ طرز تھا طلب نے اس کے وزن و وقار اور مستشرقین کے روزہ و ابطال نے اس کی افادیت کو بڑھا دیا ہے۔ یہ کتاب بہت سے جدید اور اہم مباحث و عطاءں پر بھی مشتمل ہے۔ بحیثیت مجموعی کہا جاسکتا ہے کہ اپنی گونا گوں خوبیوں کے لحاظ سے انہیوں صدی کے او اخراً اور بیسوں صدی کے اوائل میں لکھی جانے والی عربی اور اردو تصانیف سیرت کے درمیان سیرۃ النبی کا مقام سب سے بلند ہے اور داغ ناتماہی کے باوجود خاص اس عہد کی حد تک اسے آمان سیرت کے ماہ تمام کا درج حاصل ہے۔

لیکن اس کے بارے میں یہ دعویٰ غلط فہمی یا مبالغہ پر مبنی ہے کہ اس کی ترتیب میں محدثانہ صحبت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے اور اس کے تمام تریا پیشتر مندرجات اصولی حدیث اور فن اسماء الرجال کی کسوٹی پر کس کردہ اصل کتاب کیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے مشتملات کے لحاظ سے عربی کی قدیم اور مشہور کتب سیرت کے مقابلے میں ازروئے صحت و تفعیل روایات سیرۃ النبی کو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے۔

دوسری طرف متعدد تحقیقی فروگذشتہ مشاوا جا بجا روایات حدیث پر روایات سیرت

کی ترجیح، متعدد روایات صحیح پر تقید، متعدد مسائل میں جمہور امت سے اختلاف و تفرد، کہیں کہیں بیان میں تفاہ، بعض مقامات پر ضعف استدلال اور بعض دیگر جزوی استقام نے اس کی تحقیق و استنادی حیثیت کو محروم بھی کیا ہے۔

اب ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ اس بے مثال ادبی و فنی شاہکار میں نوع ب نوع تحقیق فروذ اشتوں نے کس طرح جگہ پائی؟ راقم کے خیال میں اس کا بنیادی سبب سیرۃ النبی کا کلام انداز میں لکھا جانا ہے۔ اس بیان کی توضیح یہ ہے کہ اگر مولانا نے یہ کتاب محسن سیرت برائے سیرت کے نقطہ نظر سے لکھی ہوتی تو اغلب ہے کہ اس میں وہ اپنے قائم کردہ اصولوں کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتے۔ لیکن چونکہ انہوں نے اپنا مطیع نظر مستشرقین کا روز و ابطال قرار دیا، اس لیے انہیں محدثانہ صحت و تتفیع روایات سے زیادہ اس بات کی فکر و امن گیر رہی کہ وہ ایک ایسی کتاب سیرت تصنیف کریں جس پر یورپیں مصنفوں کی جانب سے کیے جانے والے اعتراضات کم سے کم واقع ہوں اور جس میں ان ذہنوں کے لیے سامان تشفی موجود ہو، جو یورپیں تصانیف سیرت کے مطالعے سے طرح طرح کے ٹکوک و شبہات میں جتنا ہو گئے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مغربی مصنفوں کے نقطہ نظر سے سیرت کے قابل اعتراض و اتفاقات کی ایک فہرست تیار کی۔ پھر ان اعتراضات پر غور و خوض کے بعد جواب کے لیے کچھ باتیں طے کر لیں۔

(الف) مستشرقین مسلمانوں کے فن اسماہ الرجال اور تتفیع روایات کے فن سے نادائق ہیں، اس لیے ان کے بہت سے اعتراضات غیر مستند اور غیر معتبر روایات پر بنتی ہیں۔

(ب) کتب سیرت میں مذکور پیشتر روایات فتنی صحت کے معیار پر پوری نہیں اترتیں۔

(ج) درایت کی بنیاد پر بھی روایات کو رد کیا جا سکتا ہے۔

ان عمومی اصولوں کے ذریعے مولانا کے لیے بہت سے اعتراضات کے جواب آسان ہو گئے، یعنی کہیں تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مستشرقین کا فلاں اعتراض فلاں روایت پر بنتی ہے اور وہ روایت از روئے سند قابل استدلال نہیں ہے۔ ہلاں بھی راہب کی روایت، قس بن ساعدہ کے خطبے کی روایت، حضرت زینبؓ سے نصائح کی روایت وغیرہ۔

اور کہنکیا یہ بیان اختیار کیا کہ درایت کا تقاضا ہے کہ اس واقعے کو ثابت اور صحیح نہانا جائے مثلاً کنانہ اور اس کے بھائی کے قتل کا واقعہ، فتح کمہ کے اشتہار یا ان قتل کا واقعہ، مقتولین نبی قریظہ کی بڑی تعداد کا واقعہ وغیرہ۔

پھر مستشرقین کے اعتراضات ہی کے پیش نظر مولا نا کو واقعات سیرت میں اہم اور غیر اہم کی تفہیق قائم کرنی پڑی۔ تاکہ جن واقعات پر اعتراضات کیے گئے ہیں انھیں اہم قرار دے کر اصول روایت یا درایت کے ذریعے رد کر دیا جائے اور باقی کو عام واقعات کے ذیل میں رکھتے ہوئے سیرت کی عام کتابوں سے نقل کر لیا جائے۔ اسی بناء پر کتب حدیث کے بجائے کتب سیرت کی بہت سی روایات سیرۃ انبیٰ میں جگہ پا گئیں جن میں مستند روایات کے پہلو ب پہلو بہت سی کم مستند یا ضعیف روایات بھی شامل ہیں۔ اسی طرح مستشرقین کے اعتراضات سے بچنے ہی کی خاطر مولا نا کو اپنی کتاب سے روایات مجازات کو حذف کرنا پڑتا، نیز بہت سے واقعات سیرت میں تاویل و توجیہ یا تفرد کی راہ بھی اختیار کرنی پڑی۔ مثلاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، جنگ بدرا میں مسلمانوں کا جنگی اقدام، ان کا قافلہ قریش سے تعرض، حرم نبوی میں کنیزوں کی موجودگی وغیرہ۔ اسی طرح روایات مسیح پر تقدیم یا ان پر روایات سیرت کی ترجیح کا محکم دباؤ شد بھی کسی نہ کسی احتکالی و اعتراض کا دفعیہ یا ازالہ رہا ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مولا نا شبلی اپنی نیت میں نہایت مختص اور امت مسلم کے بڑے خیرخواہوں میں تھے چنانچہ انہوں نے اپنی غیر معمولی انشا پر دازان علاحت، نادرہ کار اسلوب، عالمانہ انداز بیان اور نہایت وسیع علم اور مطالعے کے ذریعے ایک ایسی کتاب سیرت تصنیف کر دی، جس میں مستشرقین کے زہر کا پورا پورا تریاق موجود تھا اور جس نے اس عہد کی نوجوان مغربی تعلیم یافتہ نسل کو ذہنی ارتداو سے بچانے میں پوری پوری کامیابی بھی حاصل کی۔ ہمیں یقین ہے کہ بارگاہ رب العزت میں انھیں اپنی حسن نیت اور خلوص بے کران کے لحاظ سے بے پایاں اجر و ثواب سے نوازا گیا ہوگا اور یہ کتاب ان کے رفع درجات کا ذریعہ می ہوگی۔ ہم ان کے حق میں دعا گوارد عاجو بھی چیز۔

لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ ایک مجہد کی طرح ان سے اس

کتاب میں جا بجا علمی فروگذاشتیں اور غلطیاں بھی واقع ہو گئی ہیں۔ ان کے بہت سے بیانات اصلیت سے دور جا پڑے ہیں۔ انہوں نے جا بجا مسلمات سے اختلاف و انحراف بھی کیا ہے۔ بہت سی جگہ ان پر تاویل و توجیہ اور محدثت کا انداز بھی غالب آگیا ہے اور ان سب کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ وہ عہد جس میں یہ کتاب لکھی گئی یورپین اقوام کی سیاسی و تہذیبی بالادستی کا تھا، دوسری طرف مسلمان سیاسی، تہذیبی اور اقتصادی لحاظ سے عالمی سطح پر زیوں حالی کا شکار تھے۔ اس لیے بحیثیت مجموعی وہ عالمی پیمانے پر اجتماعی احساس کتری میں جلا ہو گئے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغربی مفکرین و صنفین کے حوالے سے اس کے عہد کے مسلمان جب کوئی بات سننے تو وہ فوراً اسے صحیح اور درست تسلیم کر لیتے تھے۔ اب جب اہل مغرب نے مثلاً یہ کہا کہ اولاد کی قربانی، تعداد ازدواج، کینزوں سے تسع، جنگی پیش قدمی، تجارتی قافلوں کی تاریخی، معاشرتے میں غلاموں کی موجودگی وغیرہ امور ایک تبلیغی سیرت کے شایان شان نہیں ہیں تو ذہنی مروعیت کی بنابر ان کی حقیقت و مصلحت پر غور کیے، بغیر ان اعتراضات کو صحیح تسلیم کر لیا گیا اور غور صرف اس پر کیا گیا کہ تاویل و توجیہ، محدثت یا انکار روایات و واقعات کے ذریعے کہاں جواب کا کیا پیرایہ اختیار کیا جائے۔ مولا ناطقی بھی اپنے عہد کے جبراور تقاضوں سے مجبور تھے، اس لیے وہ بھی اسی انداز پر سوچتے رہے۔ اسی لیے ان سے بھی اس پاب میں فروگذاشتیں ہوئیں (عفا اللہ عن واسکنہ بحوثۃ جنان) حالانکہ صحیح طریقہ کار اس وقت بھی سہی تھا اور اب بھی سہی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ذات ستودہ صفات، اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ کو اصل اور معیار بتایا جائے اور زندگی کے جس موز پر جو کچھ آپ ﷺ سے ثابت ہے، اسی کو عالم انسانیت کے لیے سب سے زیادہ موزوں، سب سے زیادہ درست اور سب سے زیادہ مناسب قرار دیا جائے۔

ہر قوم راست را ہے، دینے و قبلہ گا ہے

من قبلہ راست کردم برست کج کلا ہے (امیر خرد)

اب جب کہم مغرب کی مروعیت کے اس عہد سے باہر نکل چکے ہیں تو ہمیں اپنے اسلاف کے کاموں اور کارناٹوں کا جائزہ لیتا چاہیے اور انکی قرار واقعی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی فروگذاشتوں کا بھی تحسین کرنا چاہیے اس سلسلے میں سب سے زیادہ ضروری امر یہ

ہے کہ بے جا افراط و تفریط سے بچا جائے یعنی نہ تو مخصوصیتوں کے بت بناۓ جائیں اور نہ انھیں پامال کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہم پر علم و فن کے ساتھ ساتھ خود ہمارے اسلاف کا بھی قرض ہے، جسے ادا کیے بغیر ہم اپنے عہد کے تقاضوں سے عہدہ بر آنہیں ہو سکتے۔ تفسیر ہے ہوئے پانی میں بوآ جاتی ہے۔ کارولانی علم کو بھی روای دواں رہتا چاہیے۔

بیہم موجود امکانی میں

اگلا پانوئے پانی میں (بائی)

رائم نے سلسلہ زیر بحث میں جو کچھ لکھا ہے، وہ اسی جذبے اور داعیے کے تحت لکھا ہے۔

وَمَا تَوْفِيقٌ لِّلَّا بِاللّٰهِ

ضمیمه (۱)

استدرادات

اس خیسے کی ترتیب یہ ہے کہ اس میں اولاً اہل علم حضرات کے استدرادات نقل کئے جائیں گے۔ پھر ان سے متعلق اپنی صورہ صفات بیش کی جائیں گی۔
مولانا برہان الدین سنبھلی صاحب :

حضرات کے عنوان کے تحت پہلا جو نقد ہے، اس میں
واقعات خبر کے ضمن میں طبری کی ایک روایت پر مولانا شلی کی یہ
تفقید کر کی ہے:

اس روایت کو طبری نے جس مسلم اسناد سے نقل کیا ہے، اس کے راوی
عوف ہیں۔ ان کو بہت سے لوگوں نے ثقہ کہا ہے، لیکن بندار جب
روایت بیان کرتے تھے کہتے تھے کہ وہ رافضی اور شیطان تھا۔ یہ فقط
بہت سخت ہے، لیکن ان کی شیعیت سب کو تسلیم ہے... یہ ظاہر ہے کہ
جس روایت میں حضرت عمرؓ کے بھائی کا واقعہ بیان کیا جائے، شیعہ
کی زبان سے اس کا کیا تبدد جاتا ہے؟... اخ (ترجمان ص ۳۶)
اس پر تقدیزگار (مولانا صدیقی) نے ایک لمبی بحث کی

ہے، جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے۔ حالانکہ علامہ شبلی نے جس روایت اور جس بنا پر اس واقعہ کو مل نظر ثابت کیا ہے، صدیقی صاحب کے اس طویل بیان سے بھی ان کا مذہ عاتیات ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ علامہ شبلی نے واقعہ خبر میں حضرات صحابہ بالخصوص حضرت عمرؓ بزدی کا انکار کیا ہے اور صیداں کا رزار چھوڑنے کی نقی کی ہے، نہ کہ خبر میں کامیابی تھے ہونے کی۔ دونوں باتوں میں فرق واضح ہے۔

صدیقی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے، اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنگ کے پہلے مرحلہ میں خبر صحیح نہیں ہوا اور صحیح کی بھیں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکیں۔ لیکن ان سے ہم جوؤں کی بزدی یا صیداں سے فرار کا اثبات نہیں ہوتا۔ سبی وہ بات ہے جس کے بارے میں علامہ شبلی نے لکھا ہے اور بالکل صحیح لکھا ہے کہ جس روایت میں حضرت عمرؓ کے بھائی کا واقعہ بیان کیا جائے، شیعہ کی زبان سے اس کا کیا تبیرہ جاتا ہے؟

علامہ نے ناکام واپس آنے کی تردید نہیں، بلکہ اصطلاحی فرار کی (جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے) اور حضرت عمرؓ غیرہ کی طرف بزدی کے انتساب کی نقی کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ محلہ کرام سے حسن ظن رکھنے والا اور ان کا مرتبہ شناس ہر شخص سمجھی کرے گا۔

غالباً اس فرق کی طرف تغییر نہ ہوتی (کیونکہ محمد اللہ وہ بھی بلاشبہ اہل سنت میں سے ہیں) اور پھر بھروسی طور پر کسی سند کا قابل اعتبار ہونا، حقیقتی کہ اس سند سے کسی حدیث کا صحیح میں مستقول ہو جانا بھی، اس بات کو مستلزم نہیں کہ اس سند سے ہر مستقول روایت لائق جلت ہو۔ فن-

حدیث جانے والوں پر یقینی نہیں)

تفقید نگار کی اس موقع پر بحث سے دوسری بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ علامہ شبیلی نے اس روایت پر جو تفہید کی ہے، وہ اس سند و راوی کی وجہ سے کی ہے، حالانکہ یہ راوی اور یہ سند مند احمد میں آئی ہے، حالانکہ یہ نقد ایسا نہیں ہے، جس سے علامہ کی بات کو رد کیا جاسکے۔

ظ=ظفر احمد

راقم عرض کرتا ہے کہ حضرت استاذ نے سطور بالا میں جو کچھ تحریر فرمایا اصل اور اصولاً سب درست ہے، بلکہ مذکورہ تمام باتیں مسلمات کا درجہ رکھتی ہیں۔ البتہ غالباً یہ میرے بیان کا نفس تھا کہ میری مراد واضح نہ ہو سکی۔ میں نے علامہ شبیلی کی عبارت نقل کر کے جو کچھ لکھا تھا، اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ عوف کی روایت جس میں حضرت عمرؓ کے فرار کا مضمون آیا ہے، اسے درست یا صحیح ثابت کرنے کی کوشش کروں۔ علامہ شبیلی اور حضرت استاذ کی طرح میں بھی اسے شیعہ راوی کی زبانی منقول ہونے کے وجہ سے غلط اور بے بنیاد تصور کرتا ہوں۔

درحقیقت میں اپنی گفتگو کے ذریعے دو الگ الگ باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا۔ ایک یہ کہ عوف کی روایت بالا کی تلفیط و تضعیف کے لیے محض اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ اس میں حضرت عمرؓ کے فرار کا مضمون ایک شیعہ راوی کی زبانی منقول ہے، علاحدہ سے اس کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ ”حسین بن واقع، عن ابن بریدة، عن أبيه“ کی سند ہی کو عمومی طور پر کمزور اور ضعیف ثابت کر دیا جائے، کیونکہ محدثین عام طور پر اس سند کو معتبر اور مستند تصور کرتے ہیں۔ لیکن حضرت استاذ کو میری اس گفتگو سے یہ خیال ہوا کہ شاید میں اس طرح عوف کی روایت کو درست اور صحیح ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہے۔

تاہم اپنی مراد واضح کرنے کے لیے اب میں نے اپنی عبارت تبدیل کر دی ہے۔ کیونکہ اس کا قوی امکان ہے کہ میرے سابق بیان کے نفس اور تعبیر کی نارسانی کی بنا پر حضرت

استاذ کو وہ اشکال پیش آیا ہو، جس کا اظہار انہوں نے سطور بالائیں فرمایا ہے۔

دوسری بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا، وہ یقینی کہ میں نے سلسلہ زیر بحث

میں علامہ شبیل کے بیان کے آخری جملے:

تاہم اس قدر ضرور ہے کہ اس مہم پر پہلے اور بڑے بڑے صحابہ مجیبے
گئے تھے، لیکن فتح کا فخر کسی اور کی قسمت میں تھا۔

سے یہ نتیجہ نکلا کہ غالباً علامہ شبیل اجمالاً تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس مہم پر پہلے اور بڑے
بڑے صحابہ مجیبے گئے تھے، لیکن وہ خاص حضرات شیخین کے اس مہم پر مجیبے جانے اور پھر ناکام
واپس آنے کے قائل نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے مسند احمد کی روایت نقل کر کے یہ بتانا چاہتا تھا کہ
بعض صحیح روایات میں حضرات شیخین کے اس مہم پر مجیبے جانے اور پھر ناکام واپس آنے کی تصریح
موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ اس گفتگو سے بھی ہرگز میرا یہ مقصد نہ تھا کہ عوف کی روایت بالا کو صحیح
ثابت کروں، یا عوف بالله حضرات شیخین کے لیے فرار یا بردی کا اثبات کروں۔

لیکن اب نظر ثانی کے وقت اس پوری بحث کو کتاب سے خارج کر دیا ہے۔ وجہ یہ
ہے کہ یہ ساری گفتگو میری اپنی غلط فہمی پر منی تھی۔ تو فتح اس کی یہ ہے کہ اب جب میں نے علامہ
شبیل کے بیان کو دوبارہ پڑھا تو پایا کہ مسند احمد کی روایت کے حوالے سے میں جس چیز کو ثابت کرنا
چاہتا تھا، علامہ شبیل اپنے بیان کے آغاز ہی میں اس کا ذکر کر رکھے ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:
اس مہم پر آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو بکر و عمر گو بھیجا، لیکن دونوں
ناکام واپس آئے۔

لہذا ثابت ہوا کہ میں نے اس سلسلے میں پہلے جو کچھ لکھا تھا، وہ عبیث اور تحصیل حاصل
تھا۔ اسی بنا پر اب میں نے اپنی غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے اس پوری گفتگو کو کتاب سے خارج
کر دیا ہے۔

مولانا نازین العابدین عظمی صاحب : (۱)

ایک حدیث میں ”شیرم“ (جمال گوٹھی میں ایک دوا) کا

خاصہ بتایا گیا ہے "حار جار" کہ بہت گرم دوا ہے، فاسد مادوں کے ساتھ صحیح اخلاط کو بھی کھینچ کر گرداتی ہے۔ ہمارے نزدیک مولانا صدیقی کا یہ تصریح اسی طرح کی دوا ہے۔ یعنی جر اجی کا یہ عمل سیرۃ النبی کی غیر مستند باتوں کے آپریشن کے ساتھ ساتھ مستند اور صحیح واقعات کو بھی لا شوری طور سے کاٹ کر فاسد بنادیتا ہے۔ جیسے سیرۃ النبی سے غزوہ موتہ کا عنوان دے کر پروفیسر صاحب نے اس کے بارے میں لکھا ہے :

اس غزوے کے سلسلے میں مولانا نے پیشتر ابن سعد پر اعتماد کیا ہے اور ان کا مأخذ و اقدی ہیں۔

پھر جزئی واقعات کی فہرست دے کر ابن سعد اور واقدی کا بالترتیب حوالہ دیتے گئے ہیں۔ وہ جزئی واقعات یہ ہیں :

(الف) شاہ بصری یا قصر روم کے نام آنحضرت ﷺ کا خط لکھنا۔

(ب) غزوہ موتہ میں بالترتیب تین بزرگوں کو امیر مقرر کرنا۔

(ج) ان تینوں کا باری باری غزوے میں شہید ہو جانا۔

(د) نکست خورده فوج کا مدینہ واپس آنے پر فراریوں کا طعنہ سننا۔

و اقدی کی کتاب المغازی اور ابن سعد میں یہ واقعات مذکور ہیں۔ لیکن صرف ان دو اصحاب سیرہ ہی پر علامہ شبلی نے اعتماد کیا یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ جب کہ (الف) صحیح مسلم ۹۹/۲ میں (ب) اور (ج) بخاری باب غزوہ موتہ ص ۶۱ میں (د) ابو داؤد کتاب الجہاد ص ۳۵۵ میں بھی مذکور ہے۔

ظ :

رقم مولانا عظیمی مظلہ العالی کے استدراک مذکور کے تعلق سے عرض پرداز ہے کہ اگر

میں ”مواد و مشکلات“ کے باب میں ہر جگہ اولاً سیرہ النبی کی پوری عبارت نقل کرتا، پھر اس سے متعلق اپنی معروضات پیش کرتا، تو بلا مبالغہ تقریباً نصف سیرہ النبی اقتباسات کی شکل میں نقل کرنی پڑتی۔ اس طرح کتاب کی خصامت بہت بڑھ جاتی۔ اس لیے میں نے یہ طریق کار اختیار کیا ہے کہ اولاً اصل عنوان نقل کیا ہے۔ پھر سیرہ النبی کی عبارت کے چھوٹے چھوٹے نکڑے اشاروں کی شکل میں نقل کیے ہیں۔ پھر درمیان میں جا بجا نقطے (...) بھی لگائے ہیں تاکہ اشارہ ہو جائے کہ سلسلہ زیر بحث میں سیرہ النبی کی درمیانی عبارتیں بھی دیکھی جائیں۔ اس کے بعد ان سے متعلق اپنی معروضات پیش کی ہیں۔

ترجمان اسلام میں اشاعت اول کے وقت غزوہ مودودی کے سلسلے میں بھی میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے (غزوہ مودود ۱/۵۰۵-۷۵) لکھا تھا، جس سے میری مراد یہ تھی کہ یہاں سیرہ النبی کا پورا بیان ص ۵۰۵ سے ۷۵۰ تک پیش نظر رکھا جائے۔ اس کے بعد سیرہ النبی کی عبارتوں کے نکڑے نقطے (...) لگا کر لکھے تھے، جس سے مراد یہ تھی کہ یہاں سیرہ النبی کی پوری عبارت سامنے رکھی جائے۔ اس ضمن میں غزوہ مودود سے متعلق میں نے اپنی رائے یہ لکھی تھی کہ مولانا شبیلی نے اس غزوہ کے سلسلے میں بیشتر ابن سعد پر اعتماد کیا ہے اور ابن سعد کا مأخذ و اقتدار ہے۔

ہمارے مخدوم و محترم مولانا عظیٰ نے ان امور کی طرف توجہ نہیں دی اور انھیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید میں ان جزئی واقعات کی صحت واستناد کا منکر ہوں، جن کا ذکر مولانا عظیٰ نے (الف تاد) کے تحت فرمایا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

درحقیقت میرا پہلے بھی خیال تھا اور اب بھی یہی خیال ہے کہ علامہ شبیل نے غزوہ مودود کا بیان جس انداز اور جس ترتیب سے کیا ہے اور اس سلسلے میں جو جزئیات و تفصیلات قلم بند فرمائی ہیں، ان کا بیشتر حصہ (نہ کہ تمام تر) ابن سعد سے ماخوذ ہے اور خود ابن سعد کا مأخذ و اقتدار ہے۔ اب میں یہاں ثبوت کے طور پر غزوہ مذکورہ سے متعلق سیرہ النبی، ابن سعد اور واقعی کے اقتباسات نقل کرتا ہوں، تاکہ صورت حال پوری طرح سامنے آجائے۔

(الف) غزوہ موتہ جمادی الاولی ۸

موتہ شام میں ایک مقام کا نام ہے، جو بلقاء سے اس طرف ہے۔ آنحضرت ﷺ نے شاہ بصری یا قصر روم کے نام ایک خط لکھا تھا۔ عرب اور شام کے سرحدی علاقوں میں، جو عرب رو سا حکمران تھے، ان میں ایک شرحبیل بن عمرو بھی تھا۔ ... یہ خط حارث بن عیمر لے کر گئے تھے۔ شرحبیل نے ان کو قتل کر دیا۔ اس کے قصاص کے لیے آنحضرت ﷺ نے تین ہزار فوج تیار کر کے شام کی طرف روانہ کی۔ زید بن حارث کو جو آنحضرت ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے پہ سالاری ملی اور ارشاد ہوا کہ اگر ان کو دولت شہادت نصیب ہو تو جعفر طیار اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ فوج کے سردار ہوں۔ (سیرۃ النبی / ۵۰۵)

ثم سریة مؤتة، وهي بآدئي البلقاء، والبلقاء دون دمشق، في جمادی الاولی سنة ثمان من مهاجر رسول صلی الله علیہ وسلم.

قالوا بعث رسول الله ﷺ الحارث بن عیمر الأزدي ... إلى ملک بصری بكتاب، فلما نزل مؤتة عرض له شرحبیل بن عمرو الغسانی، فقتله ولم يقتل لرسول الله ﷺ، رسول غيره، فاشتد ذلك عليه، وندب الناس، فاسيرعوا ... وهم ثلاثة آلاف، فقال رسول الله ﷺ أمیرالناس زید بن حارثة، فهل قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبدالله بن رواحة. (الطبقات لابن سعد ۲/۱۲۸)

استدراکات

۲۳۶

ثم غزوہ زید بن حارثہ إلى مؤتة، سنة ثمان.

(المغازی للواقدی ۱/۶)

حدثنا الواقدی ... قال بعث رسول الله ﷺ
الحارث بن عمیر ... إلى ملک بصری بكتاب، فلما
نزل مؤتة عرض شرحبیل بن عمرو الغسانی ...
فأمر به فأوثق رباطاً، ثم قدمه، فضرب عنقه صبراً،
ولم يقتل لرسول الله ﷺ رسول غيره ... فاشتد
عليه، وندب الناس ... فأسرع الناس وخرجوا ...
فقال رسول الله ﷺ: زید بن حارثہ أمیر الناس،
فإن قتل زید بن حارثہ فجعفر بن أبي طالب، فإن
أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة والمسلمون
ثلاثة آلف. (المغازی للواقدی ۲/۵۵-۵۶)

(ب)

ارشاد ہوا کہ پہلے ان کو دعوت اسلام دی جائے، اگر وہ اسلام قبول
کر لیں تو جنگ کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی حکم ہوا کہ اظہار ہمدردی
کے لیے اس مقام پر جانا، جہاں حارث بن عمیر نے اداے فرض
میں جاں دی ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ نے اخحضرت ﷺ خوفونج کی
مشایعت کے لیے تشریف لے گئے۔ صحابہ نے پکار کر دعا کی کہ خدا
سلامت اور کامیاب لائے۔ (سیرۃ النبی ۱/۵۰۶)

وأوصاهم رسول الله ﷺ، أن يأتوا مقتل الحارث
ابن عمیر وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، فان
أجابوا وإلا استعنوا عليهم بالله وقاتلواهم، وخرج

مشیعاً لهم حتى بلغ ثنية الوداع، فوقف و دعهم،
فلما ساروا من معسكرهم، نادى المسلمين دفع الله
عنكم و ردكم صالحين غانمين.

(الطبقات لابن سعد ۱۲۸/۲)

فلما ساروا من معسكرهم نادى المسلمين،
دفع الله عنكم، و ردكم صالحين غانمين. ... عن
زید بن ارقم أن رسول الله ﷺ قال : أوصيكم
بتقوى الله ... اذا لقيت عدوك من المشركين
فادعهم إلى إحدى ثلاثة ... فإن أبوا فاستعن بالله
وقاتلهم. ... ومضى المسلمين من المدينة، فسمع
العدو بمسيرهم عليهم قبل أن ينتهاوا إلى مقتل
الحارث بن عمیر. (المغاری للواقدی ۵۶/۲ - ۶۰۷/۲)

(ج)

فوج مدینے سے روانہ ہوئی تو جاسوسوں نے شرحبیل کو خبر دی، جس
نے مقابلے کے لیے کم و بیش ایک لاکھ فوج تیار کی۔ اور خود قیصر روم
(برقل) قبائل عرب کی بے شمار فوج لے کر ماب میں خیزدن ہوا، جو
بلقاء کے اضلاع میں ہے۔ حضرت زید نے یہ حالات سن کر چاہا کہ
ان واقعات سے دربار رسالت کو اطلاع دی جائے اور حکم کا انتظار کیا
جائے، لیکن حضرت عبد اللہ بن رواحہ نے کہا ہمارا اصل مقصد فتح
نبیں بلکہ دولت شہادت ہے۔ (سیرۃ ابن حی ۵۰۶-۵۰۷)

فلما فصلوا من المدينة سمع العدو بمسيرهم،
فجمعوا لهم وقام فيهم شرحبيل بن عمرو، فجمع أكثر

من مأة ألف. ... وبلغ الناس أن هرقل قد نزل مأب من أرض البلقاء في مأة ألف من بهراء، ووائل، وبكر، ولخم، وجذام، فأقاموا ... وقالوا نكتب إلى رسول الله ﷺ، فنخبره الخبر، فشجعهم عبد الله بن رواحة على المضي. (الطبقات لابن سعد ۲/۱۲۸-۱۲۹)

فلما فصل المسلمون من المدينة سمع العدو بمسيرهم فجمعوا الجموع. وقام فيهم ... شرحبيل بالناس، ... فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مأب من أرض البلقاء في بهراء، ووائل، وبكر، ولخم، وجذام في مأة ألف. ... فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا ... وقالوا نكتب إلى رسول الله ﷺ، فنخبرهم الخبر ... فبيانا الناس على ذلك من أمرهم جاءهم ابن رواحة فشجعهم. (المغارزي للواقدي ۲/۵۹-۶۰)

مذکورہ بالاقتباسات کی روشنی میں یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ غزوہ موت کے سلسلے میں مولانا نے اکثر و پیشتر ابن سعد کو پیش نظر کھا ہے اور خود ابن سعد کا مأخذ و اقدی ہیں۔ اس صورت حال میں اعتراض کا پہلو یہ ہے کہ مولانا شبی و اقدی کو بالکلیہ ناقابل التفات تصور کرتے ہیں جہاں تک ابن سعد کا تعلق ہے وہ ان کے نزد یک صرف ان صورتوں میں محترم ہیں، جبکہ ان کا مأخذ و اقدی نہ ہوں۔ لہذا یہاں مولانا نے جو طریق کارا اختیار کیا وہ خود ان کے اپنے قائم کردہ اصولوں کے خلاف ہے۔

روہنگی یہ بات کہ خود و اقدی کی بیان کردہ بعض جزئیات صحیح روایتوں سے بھی ثابت ہیں، جیسا کہ مولانا زین العابدین عظیمی صاحب نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے تو یا اگل الگ بحث ہے۔ ہمارا اعتراض صرف یہ ہے کہ مولانا کو خود اپنے اصول کے مطابق سیاق غزوہ موت کے سلسلے میں ابن سعد اور و اقدی پر اعتماد کرنے کے بجائے کتب حدیث اور روایات صحیحے

استفادہ کرنا چاہیے تھا۔ مولانا کے لیے ایسا کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ان کی بیان کرو، بہت سی جزئیات صرف این سعد اور واقعیتی ہی کے بیان موجود ہیں۔ کتب حدیث اور دیگر روایات صحیح میں ان کا سارا غنیمہ ملتا۔

یہاں اس بات کی وضاحت بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ سطور بالا میں سیرۃ النبی کے پیش کردہ اقتباسات میں سے آخری اقتباس کامضیوں این اسحاق کے بیان بھی موجود ہے۔ (ابن بشامہ ۲۷۵/۲) لیکن خود ابن اسحاق کی روایت عروہ بن زبیر سے مرسل امری ہے۔ لہذا مولانا کے اصول کے مطابق یہ بھی کام کی جائیں۔

ان تو ضمیمات کے بعد آخر میں عرض کیا جاتا ہے کہ میں نے مزید احتیاط کے خیال سے نظر ہانی کے وقت ان تمام جزوی واقعات کو جن کی طرف مولانا عظیمی نے اشارہ فرمایا ہے، کم مستند یا غیر مستند کی فہرست سے خارج کر دیا ہے، تاکہ مولانا عظیمی کی طرح دوسروں کو اس سلسلے میں کوئی غلطی بھی نہ ہو۔

مولانا زین العابدین عظیمی صاحب : (۲)

اُسی طرح مولانا ظفر احمد صاحب نے سیرۃ النبی سے فتح مکہ کے تفصیلی حالات نقل کر کے یا اختراض کیا ہے:
یہ سب این اسحاق کا قول ہے، جس کی سند نہ کوئی نہیں۔

مولانا نے یہ تاثر دینا چاہا ہے کہ سند کے اقطاء سے یہ واقعات غیر مستند ہو جاتے ہیں، اس لیے علامہ شبیل کو یہ واقعات سیرۃ النبی میں نقل نہیں کرنا چاہیے تھا۔

اس پر رقم یہ عرض کرتا ہے کہ اس سند کے منقطع ہونے کے باوجود محمد بن زید کی واقعات مستند ہیں۔ جیسا کہ امام طحاوی نے اپنی مشہور کتاب شرح معانی الآثار کے باب فتح مکہ عنوانہ ص ۱۸۵-۱۹۰ تک ذکر کیا ہے اور اس منقطع الاتصال

روایت کی تائید ایک دوسری مقطع روایت سے کرنے کے بعد ایک
سنہ متصل بھی ذکر کی ہے، جس میں ابن اسحاق نہیں آتے۔

اسی طرح یہ قول بھی ہے: ابن اخْتَ کا نہیں، بلکہ طحاوی میں ہے
ابن اخْتَ نے کہا مجھ سے محمد بن سلمان شہاب زہری اور دوسرے
فُحْصَ نے بھی بیان کیا۔ پھر یہ تمام واقعات ذکر کیے۔

لہذا جب محققین اس واقعے کو مستند مانتے ہیں تو علامہ شبیل
کی نقل پر اعتراض کرنا صحیح نہیں ہوا۔ واللہ اعلم۔

: ६

رقم اول مولانا عطی مظلہ العالی کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے اس غلطی کی اصلاح کی کہ میں نے فتح مکہ سے متعلق سیرۃ انبیٰ کے جن بیانات کے بارے میں کہا تھا کہ ”یہ ابن اعلیٰ کا قول ہے، جس کی سند نہ کوئی نہیں“ وہ بیانات درحقیقت ابن اسحاق نے امام زہری اور بعض دیگر علماء سے نقلي کیے ہیں۔ جیسا کہ امام طحاوی کی شرح معانی الآثار سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ اس اہم اطلاع کے لیے بھی صحیح شکر ہیں کہ امام طحاوی کے یہاں فتح مکہ سے متعلق حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے موصولة بھی ایک روایت منقول ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔

یقیناً مولا ناموصوف نے اپنے استدراک میں ان دو قوں امور کا ذکر کر کے مجھے بیچ
ممال کے علم میں اضافہ اور مجھ پر کرم فرمایا ہے۔ (جزاً مم اللہ تعالیٰ) چنانچہ میں نے ان سے
استفادہ کرتے ہوئے اپنی متعلقہ عبارتوں میں ترجم، حذف اور اضافے کر لیے ہیں۔

لیکن اظہار شکر کے ساتھ اس بات کی وضاحت بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ مولا نا عظی مظلہ کا یہ خیال درست نہیں کہ میں نے سلسلہ زیر بحث میں سیرہ انبیٰ کی جن روایات کو نقل کر کے، ان کا مرسل یا منقطع وغیرہ ہونا یہاں کیا ہے۔ میں علی الاطلاق ان سب کو غیر مسترد سمجھتا ہوں۔ کیونکہ میں نے سیرہ انبیٰ کے مoward مشکلات کے تجزیے کے باب میں بالقصد و لفظ

استعمال کیے ہیں ایک "کم مستند" اور دوسرے "غیر مستند"۔

"کم مستند" سے میری مراد وہ روایات ہیں جو اسال و انقطاع وغیرہ کی بنا پر صحیح و استناد کے اعلاء درجے پر تو نہیں۔ تاہم انھیں فی الجملہ اعتبار و استناد حاصل ہے۔ لفظ کہے متعلق ذکورہ منقطع روایات کا بھی یہی حال ہے۔

یہاں اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب یہ روایات فی الجملہ معترض ہیں تو انھیں مقام اعتراض میں ذکر کرنے کیا ضرورت ہے؟ سواں کا جواب یہ ہے کہ علامہ شلی نے مقدمہ سیرت میں یہ تاثر دیا ہے ہے کہ عام کتب سیرت میں صحیح روایتوں کا لزام نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف ان کی سیرۃ النبی اس باب میں ممتاز و منفرد ہے۔ یہی خیال ان کے ناواقف عقیدت مندوں کا بھی ہے۔

لہذا سیرۃ النبی کی روایات کے مفصل تجوییے کے ذریعے ہم نے یہ تائیں کی کوشش کی ہے کہ اس باب میں سیرۃ النبی اور دوسری کتب سیرت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ سیرۃ النبی میں بھی ہر طرح کی روایات مذکور ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ منقطع و مرسلا روایات خود محدثین کے نزدیک بھی صحیح و استناد کے طور پر ہر جگہ پیش نہیں کی جاسکتیں۔ چنانچہ سلسلہ زیر بحث میں خود امام طحاوی نے سوال و جواب کے پیرا یے میں امام زہری اور عكرمة کی منقطع روایات کی کمزوری کا اعتراف کیا ہے اور پھر اسی کمزوری کی تلافی کے لیے حضرت ابن عباسؓ کی موصول روایت نقل فرمائی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں :

فَلَمْ قُلْتُ إِنْ حَدِيثَ الزَّهْرَى وَعَكْرَمَةَ الَّذِينَ

نَكْرَنَا مِنْ قَطْعَانٍ. قَبْلَ لَكُمْ وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدِيثٌ يَدْلِيلٌ عَلَى مَارِوِيَفَاهُ، حَدَّثَنَا

فَهْدَ بْنَ سَلِيمَانَ ... الْخ. فَهَذَا حَدِيثٌ مُتَحَصِّلٌ لِالْأَسْنَادِ

صَحِيحٌ. (شرح معانی الآثار ص ۱۸۹)

اگر امام زہری و عکرمة کی منقطع روایات موقع استدلال میں پیش کرنے کے لیے کافی

ہوئیں تو امام طحاوی کو حضرت ابن عباسؓ کی موصول روایت کے نقل کی ضرورت پیش نہ آئی۔ واللہ عالم۔

مولانا سعود عالم قاسی : (۱)

عقلیہ بن ربیعہ اور نبی کریم ﷺ کا جو مکالمہ مولانا شبیلی نے

نقل کیا ہے، اس کے بارے میں فاضل تقدیمگار نے لکھا ہے کہ مولانا شبیلی نے پورا مکالمہ کسی حوالہ کے بغیر لکھا ہے۔ ابن اسحاق سے یہ ضمنوں کی سندوں سے مردی ہے، لیکن ہر سند میں کوئی نہ کوئی وجہ ضعف موجود ہے۔

راقم کا عاجزانہ خیال یہ ہے کہ ابن اسحاق کے علاوہ منہ عبد حمید، منہ ابو یعلیٰ اور بتوی کی معالم التنزیل وغیرہ میں بھی یہ مکالمہ دوسری سندوں سے مذکور ہے۔

حدیث کا اصول یہ بھی ہے کہ ضعیف روایت تعدد طرق کے باعث درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ اصول مردیات سیرت پر بھی منطبق ہوتا ہے۔

ظ:

راقم عرض کرتا ہے کہ مولانا قاسی کا استدراک بالکل درست ہے۔ ان کے توجہ دلانے کے بعد میں نے مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ بعض صحیح روایات میں بھی اس مکالمے کا ذکر موجود ہے۔ اس لیے نظر ثانی کے وقت یہ تقدیم اصل کتاب سے خارج کردی گئی ہے۔ مولانا قاسی اس اصلاح کے لیے شکریہ کا مستحق ہیں۔

مولانا سعود عالم قاسی : (۲)

اسی طرح فاضل تقدیمگار نے حضرت زین بن ثابت کا

آنحضرت ﷺ کے حکم سے مبرانی زبان یکمنا اور حضرت ام سلہ

مولانا شیخ بخشیت سیرت نگار

کے نکاح سے متعلق مولانا شیخ کے بیان پر یہ تبہہ کیا ہے کہ
ان میں سے کسی کا حوالہ مذکور نہیں۔ طبری نے ^۲ ۷۰ھ کے واقعات
کے تحت واقعی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

مگر حضرت زید بن ثابت کا مذکورہ واقعہ صحیح بخاری کتاب
الاحکام میں موجود ہے اور حضرت اُم سلمہ کا نکاح الاصابة،
الاستیغاب اور اسد الغابۃ میں موجود ہے۔

ظ:

راقم عرض کرتا ہے کہ بلاشبہ یہ دونوں واقعات ثابت اور صحیح ہیں اور میں قطعاً اس کا
مکفر نہیں، لیکن یہ واقعات ^۲ ۷۰ھ میں پیش آئے، اس کا ذکر طبری نے واقعی کے حوالے سے
کیا ہے اور بظاہر مولانا شیخ نے یہاں طبری کے بیان پر اعتماد کیا ہے۔
صورتی حال کی مزید وضاحت کے لیے بطور مثال حضرت اُم سلمہ کے سال نکاح کو
لبھیے۔ حافظ ابن حجر نے "الاصابة" میں حضرت اُم سلمہ کے ذکرے میں اسے ^۲ ۷۰ھ کا واقعہ
قرار دیا ہے، لیکن اس سلسلے میں انہوں نے کسی روایت کا حوالہ نہیں دیا ہے۔

چونکہ یہ معین ہے کہ آنحضرت ﷺ سے ان کا نکاح ان کے سابق شوہر حضرت
ابو سلمہؓ وفات کے بعد ہوا۔ اس لیے میں نے "الاصابة" میں حضرت ابو سلمہؓ کے ذکرے سے
مراجعت کی۔ وہاں میں نے پایا کہ حافظ موصوف نے ان کے ذکرے میں اولاً ابو بکر بن زنجیوی
کا قول نقل کیا ہے کہ ان کی وفات ^۲ ۷۰ھ میں غزوہ احمد سے وابسی کے بعد، اس زخم کے ابھر
جانے کی وجہ سے ہوئی، جس کا شکار وہ جنگ احمد کے دوران ہو گئے تھے۔ پھر اس کی تائید میں
ابن معد کی اس روایت کا حوالہ دیا ہے، جس میں اس سلسلے کی دیگر تفصیلات کے علاوہ، حضرت
ابو سلمہؓ وفات کا مہینہ اور سال ونوں مذکور ہے۔ آخر میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہی جمہور کا قول
ہے۔ مثلاً ابن ابی خیثہ، یعقوب بن سفیان، ابن البرقی اور طبری وغیرہ۔ سب کے آخر میں ابن
عبدالبر کا قول نقل کیا ہے کہ وہ اسے جمادی الآخرہ ^۲ ۷۰ھ کا واقعہ بتاتے ہیں۔ لیکن حافظ کے

نژدیک یہ مرجوح اور اول الذکر قول راجح ہے۔ اس سلسلے میں حافظ کی اصل عبارت ملاحظہ ہو:

قال أبو بکر بن زنجویه توفي ابو سلمة فی سنة أربع من الهجرة بعد منصرفه من أحد، فانتقض به جرح كان أصلبه بأحد، فمات منه، فشهده رسول الله ﷺ. وكذا قال ابن سعد إنه شهد بدرًا وأحدًا، فجرح بها، تم بعثه النبي ﷺ على سرية إلى بني أسد في صفر سنة أربع، ثم رجع، فانتقض جرحه، فمات في جمادى الآخرة، وبهذا قال الجمهور كلين أبي خيشة، ويعقوب بن سفيان، وابن البرقى، و الطبرى و الآخرون، وأخره ابن عبد البر فى جمادى الآخرة سنة ثلاث، والراجح الاول. (الاصابة ۲، ۳۲۷)

اب میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ خود ابن سعد کا مأخذ کیا ہے۔ سوطقات ابن سعد میں وہ روایت مل گئی، جس کا حوالہ حافظ ابن حجر نے دیا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس باب میں خود ابن سعد کا مأخذ واقعی ہیں۔ اس طور پر طبری کی طرح ابن سعد کی روایت کا سلسلہ بالآخر واقعی ہیں اسکے پہنچا۔ ذیل میں ابن سعد کی روایت ملاحظہ ہو:

قال أخبرنا محمد بن عمر، قال أخبرنا عمر بن عثمان،
قال حدثني عبد الملك بن عبيد، عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، عن عمر بن أبي سلمة أن أبا سلمة شهد بدرًا وأحدًا. وكان الذي جرحه بأحد أبواسامة الجشمي، رماه بمعبلة في عضده، فمكث شهراً يداويه، فبراً في ماءيرى، وقد اندلل الجرح على بغي لا يعرفه فبعثه رسول الله ﷺ في المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهراً من الهجرة سرية إلى بني أسد

بقطن، فغلب بضع عشرہ لیلہ، ثم قدم المدینۃ،
فانتقض به الجرح، فاشتكى، ثم مات لثلاث لیال
مضین من جمادی الآخرة الخ (طبقات ۲۲۰/۳)

اس تفصیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت اور حضرت ام سلمہ سے
متعلق علامہ شبلی کے بیانات "سوا و مشتملات" کی بحث میں کیوں ذکر کیے گئے تھے۔ تاہم اب
نظر ثانی کے وقت میں نے ان بیانات کو اصل کتاب سے خارج کر دیا ہے تاکہ مولانا سعود عالم
قائی کی طرح دوسروں کو اس باب میں کوئی اشکال و استباہ پیش نہ آئے۔

مولانا شفیق احمد قائمی (۱)

مولانا شبلی کے قائم کردہ اصول سیرت نگاری کی روشنی
میں سیرۃ النبی کے جائزے کا کام اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن اس
سے اہم کام یہ ہے کہ مولانا شبلی کے اصول سیرت نگاری کے
بارے میں اپنا نقطہ نظر واضح کیا جائے۔ مولانا شبلی نے روایات
سیرت کے اخذ و ترک کے سلسلے میں جن اصولوں کی نشان دہی کی
ہے، ان کے درست یا نادرست ہونے پر مفصل گفتگو کی جائے۔
مجھے امید ہے کہ مولانا ظفر احمد صدیقی اس موضوع پر پوری توجہ
کریں گے۔ روایات سیرت میں محمد بن ادريس اصول جرح و نقہ کے
استعمال پر اطمینان بخش گفتگو کریں گے۔

ظ:

راقم عرض کرتا ہے کہ یہاں کئی الگ الگ مباحث ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی مصنف
سیرت نگاری کے سلسلے میں اپنے لیے کچھ بلند اصول اور عده شرائط طے کرتا ہے تو آیا اس کی
جنماش ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب بے شہہ اثبات میں ہو گا۔ چنانچہ خود امام بخاری و مسلم
نے سیر و مقازی سے متعلق جو روایات صحیحین میں داخل کی ہیں، وہ ان دونوں کے اپنے اپنے

اصول و شرائط کے مطابق ہیں۔ یہی کیفیت دیگر اصحاب سنن و مسانید کی ہے۔ لہذا اگر علامہ مثلی نے اصولی طور پر یہ طے کر لیا کہ وہ صرف روایات صحیح منده کے ذریعے اپنی سیرۃ النبی ترتیب دیں گے، تو اصولاً یہ کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی، بشرطیکہ علامہ نے اپنی کتاب میں ان اصولوں کی پاسداری کی ہوتی۔ لیکن جیسا کہ پیش نظر کتاب میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا گیا، مصنف علام خود اپنے ہی وضع کردہ اصولوں پر تمام نہ رہ سکے، کیون نہ رہ سکے؟ اس کے اسباب و وجہ اس کتاب کے آخری عنوان ”خاتمة کلام“ میں ذکر کیے چاہئے ہیں۔ اس لیے یہاں ان کے اعادے کی حاجت نہیں ہے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ آیا صرف روایات صحیح منده کے ذریعے کوئی کتاب سیرت مرتب کی بھی جاسکتی ہے یا نہیں؟ رقم کا خیال ہے کہ یقیناً مرتب کی جاسکتی ہے، لیکن یہ کتاب نہیں مختصر ہو گی اور اس میں سیرت کے تمام ابواب اور تمام عنوانات کا احاطہ واستیعاب نہیں کیا جاسکتا۔ مزید بریاب کی جزئیات و تفصیلات بھی پہنچام و کمال نہیں آسکتیں۔

یہیں سے اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ عام طور پر سیرت نگاروں نے اپنی کتب سیرت میں صرف روایات صحیح منده کا التزام کیوں نہیں کیا؟ جیسا کہ عرض کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیرت کے ہر باب اور ہر عنوان سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے قبول روایت کے باب میں انھیں اپنی شرائط تزم کرنی پڑتی ہیں۔ پھر ان کے پیش نظر یہ بات بھی رہتی ہے کہ ضعیف، مرسل یا منقطع روایات جب کئی طریق سے مردی ہوں تو ان میں فی الجملہ قوت آجائی ہے اور نفس مفہوم کے ثبوت میں شبہ نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر، ابن سید الناس اور امام بہکن جیسے محدثین کئی کئی سیرت نگاروں مثلاً ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ اور والدی وغیرہ کے بیانات ایک ساتھ نقل کرتے جاتے ہیں۔ بالعموم ان بیانات کا سلسلہ الگ الگ روایوں پر مشتمل ہوتا ہے اور گو کہ یہ روایتیں منقطع یا مرسل ہوتی ہیں، لیکن ان سے ایک دوسرے کی تائید و تقویت ہو جاتی ہے۔

اس بحث کے بعض علمی اور واقعیاتی پہلو اور بھی ہیں، انھیں اس کتاب کے ضمیر (۲) تھے، استدراکات کے تحت مولا نا بھیب الخوار صاحب کے مضمون میں طاھر کیا جاسکتا ہے۔

مولانا عقیق احمد قادری: (۲)

مولانا ظفر احمد صدیقی کے مقامے میں یہ تحقیقی محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے "سیرۃ النبی" کے قدیم ناقدوں اور ان کی تنقیدوں کا اجمالی جائزہ بھی پیش نہیں کیا۔ خصوصاً جن تنقید نگاروں نے سیرۃ النبی کے استناد و عدم استناد پر گفتگو کی ہے، سیرۃ النبی کی روایات و جزئیات کو موضوع نقد و جائزہ بنایا ہے، ان کے تنقیدی کاموں کا کچھ تعارف ہونا ہی چاہیے تھا، تاکہ یہ جانا جائے کہ مولانا ظفر احمد صدیقی نے سیرۃ النبی سے متعلق تنقیدی سرمائے میں کس قدر راضا فہ کیا ہے؟ ان کے اور قدیم ناقدوں کے کام میں کیا بیانیادی فرق ہے؟۔

ظ:

راقم عرض کرتا ہے کہ سیرۃ النبی کے قدیم ناقدوں کا اجمالی ذکر اس کتاب کے غلط مباحث کے ضمن میں موجود ہے۔ مزید براہم مولانا برہان الدین سنبھلی مدظلہ العالی کے "تاثرات" میں اس کی یک گونہ تفصیل بھی آئٹی ہے۔ دیسے یہ ایک مستقل مقالے کا موضوع ہے۔ اس لیے یہاں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہ تھی۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی راقم کے پیش نظر ہی ہے کہ سیرۃ النبی کے متعلق جو کچھ بھی لکھا جائے، وہ اس کتاب کے آزادانہ مطالعے کا نتیجہ ہو، تاکہ کبھی ہوئی باتوں کے غیر ضروری اعادہ و نکرار کی صورت نہ پیدا ہو۔ اس لیے قدیم ناقدوں کی تحریروں کے مفصل مطالعے سے شوری طور پر احتراز کیا گیا، تاکہ پیش نظر کتاب کی آزادانہ حیثیت برقرار رہے۔

ضمیمه (۲)

تئمہ استدراکات

مولانا مجیب الغفار صاحب (شیخ الحدیث جامد مظہر العلوم، بہار) نے اپنے مفصل مضمون میں بعض رفتارے دار امصنفین کے بیانات سے متعلق بطور استدراک کچھ قابل ذکر یا تم قلم بند فرمائی ہیں، نیز اصول سیرت نگاری اور ”درایت“ سے متعلق بعض اہم اقتبات تقلیل کیے ہیں۔ آئندہ صفحات میں بطور تئمہ استدراکات مناسب ترتیب و تہذیب کے ساتھ انہیں نقل کیا جاتا ہے:

منظور ہے گذارش احوال واقعی

مولانا ظفر احمد صدقی کی ایک تحریر کا سلسلہ ... ”مولانا شیلی بحیثیت سیرت نگار“ کے عنوان سے ”ترجمان الاسلام“ کی متعدد اشاعتوں میں اہل قلم کے سامنے آتا رہا ہے۔ میں نے یہ مضمون بغور پڑھا ہے اور فائدہ اٹھایا ہے۔

... اکابر علماء اسلام نے اپنی تصنیفات میں خامیوں اور غلطیوں کے امکان کا اکٹھا فرمایا ہے۔ آج کل ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم ”یقینی واقعی“ کے باوجود ”ہمسروانی“ کے مدعا نظر آتے ہیں ...

میں نے جوابی عرض کیا کہ ہم اپنی اور اپنے بزرگوں کی تصنیفات کو صحیفہ آسمانی سے

مولانا شبلی بحیثیت سیرت نگار

کم درجہ دینے پر راضی نہیں... ہمارے ایک بزرگ رفق دار امصنفین بھی حضرت علامہ شبلی مرحوم کی سیرۃ النبی کوشاید کچھ ایسا ہی سمجھ رہے ہیں۔ معارف شمارہ نومبر ۱۹۹۵ء میں لکھتے ہیں:

چھپلی اشاعت میں سیرت کے زمانہ تصنیف ہی میں اس کے خلاف ہونے والی معاندانہ ہم اور اس کی ناکامی کا ذکر آیا تھا۔ کتاب کی اشاعت کے بعد بھی بعض طبعوں کی جانب سے کچھ اعتراضات ہوئے، جو عموماً بے وزن اور ناقابلِ التفات تھے۔ اب بھی اس کی مخالفت اور بے جا و مغلوبی اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے، جن میں انہی فرسودہ اور لغو باتوں کا اعادہ، بہت زور و شور سے بظاہر محققا نہیں حقیقت غیر محققا نہ اور مبتدل انداز میں کیا جا رہا ہے۔ (ص ۳۲۵)

حضرت ذرا غور فرمائیں کیا ارشاد فرمادیں... بعده ادب جناب والا سے ایک ستر شدائد سوال کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک علامہ شبلی اور ان کی سیرۃ النبی کے تین حضرت سید صاحب کی کیا بحیثیت ہے؟ کیا انہوں نے سیرۃ النبی کی اشاعت کے بعد علامہ شبلی کی تینی غلطیاں نہیں ظاہر کیں؟ کیا انہوں نے ان کے نظریے سے اختلاف نہیں کیا ہے؟ کیا انہوں نے مصنف کے بیان پر نقد و تبصرہ نہیں کیا ہے؟ کیا ان کو بھی آپ مولانا شبلی کے حاسدین اور معاندین میں شامل کریں گے؟ کیا ان کے استدراکات و تعقیبات وغیرہ بھی آپ کے نزدیک عموماً بے وزن اور ناقابلِ التفات نیز فرسودہ، لغو، مبتدل اور غیر محققا نہیں؟ آپ کی ذات گرامی کے ساتھ اس حقیر کا بھی حسن قلن ہے کہ جناب والا علمی و تحقیقی میدان میں اپنے اور پرانے کے ساتھ امتیاز برتنے کی تہمت سے پاک ہوں گے تو پھر کیا بات ہے کہ وہی بات دوسرے لوگ کہیں تو ہم کو لوگ دیوانہ کہیں ہو جائے اور وہی بات کوئی اپنا کہے تو وہ مخلصانہ ہو جائے۔

کیا تم ہے ان کی ہر لغزش خرام نا زہو
ہم جو کچھ نہیں تو ہم کو لوگ دیوانہ کہیں

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیرۃ النبی جلد سوم کے اندر "ضمیر اول استدراک و صحیح"

اغلاط سیرۃ النبی جلد اول، عنوان قائم فرمایا کردو سطر کی مندرجہ ذیل عبارت لکھی ہے:
 ”مصنف کی ناگہانی وفات کے باعث سیرت کے اوراق میں
 اغلاط و مسامحات رہ گئے تھے، جن کی طرف بعض دوستوں نے
 متوجہ کیا۔ اس لیے ان پر استدراک کی ضرورت محسوس ہوئی، تاکہ
 کتاب ہر حیثیت سے صحیح اور قابل قبول ہو۔“

ذر اما حظہ فرمائیے سید صاحب تو اغلاط و مسامحات کی طرف متوجہ کرنے والوں کو
 دوستوں میں سے بچو رہے ہیں اور آپ اسے ”معاذ انہم“ فرمائے ہیں۔ میں ختیرت میں
 ہوں کہ اس انکاس تحریر کی کیا توجیہ کروں؟

عام انسان خواہ وہ فضل و کمال کے بلند مرتبے پر فائز کیوں نہ ہو خطوا و نیسان،
 تسامحات اور علمی لغزشوں سے نہیں ہو سکتا۔ عصمت صرف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے۔

العلم للرحمٰن جل جلاله

وسواد فی جهلاٰتہ یتنعمُ

اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ کسی شخصیت کا کوئی بھی علمی کارنامہ تسامحات، اغلاط اور
 لغزشوں سے یکسر پاک و صاف قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہیں سے علمی استدراکات اور تعقیبات کی
 گنجائش بلکہ ضرورت کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ چنانچہ محلہ کرامؐ کے زمانہ میں میں استدراکات
 سراغ ملتا ہے۔ (بخاری: کتاب التفسیر ۲۸۷)

عہد صحابہ کے بعد سے مسلمانوں کی علمی تاریخ کے ہر دور میں استدراک کی یہ روایت
 تسلسل اور استواری کے ساتھ موجود نظر آتی ہے۔ چنانچہ کسی فن کی کوئی اہم کتاب اٹھا لیجئے، اس
 میں مصنف جہاں ایک طرف اپنے پیش روں کے علم و فن سے اکتاب فیض کرتا دکھائی دیتا ہے،
 وہیں دوسری جانب وہ بعض حقائق میں نیز معاصرین کے انکار و نظریات و اقوال و بیانات سے
 اختلاف بھی کرتا جاتا ہے۔ نیز انھیں نقد و ایراد کا نشانہ بھی ہنا تاریخ تھا۔

جہاں یہ بات ہے وہیں یہ امر بھی متحضر رہنا چاہیے کہ کس مذاخر متعرض کے تمام
 استدراکات درست اور حق بجانب ہوں اور اگلوں سے ہر جگہ غلطی ہی کا صدور ہوا ہو، یہ ضروری

نہیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکتساب و استدراک کا یہ ذہنیں عمل کسی قوم کی علمی زندگی کی پہچان ہے، بلکہ ایک طرح کا مقیاس الحلم ہے، جس سے کسی قوم کے درجہ علمی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آیا وہ جمود و تحصیل کا شکار ہے یا اس میں پیش رفت کی طاقت و قوت باقی ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ استدراکات، بیشہ بلند پایہ مصنفوں اور زندہ جاوید تصنیف پر کیے جاتے ہیں۔ غیرہ اہم اور گنام مصنفوں کے نصیب میں یہ سعادت نہیں آتی کہ انھیں تنقید و احتساب کا نشانہ بنایا جائے اور ان کی ایک ایک سطر، ایک ایک جملہ اور ایک ایک حرف کا بالا سعیاب اور نظر غائر مطالعہ کیا جائے۔ اس لیے کسی شخصیت یا کسی تصنیف سے محبت رکھنے والوں کو اپنی محبوب شخصیت یا تصنیف کا علمی جائزہ لینے والوں کا مشکور و منون ہونا چاہیے کہ ایک اہم خدمت جو اصلاً اور اصولاً انھیں انجام دینی گی، اس کا بار دوسروں نے اٹھالیا۔

ابتدا یہ ضرور ہے کہ مفترض کو ظفر و تعریض اور استہزا و تمسخر کا پیرا یہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ بھی پیش رو کی حق تلفی اور حق ناشناسی کی علامت ہے۔ اور انسانی خاطر اخلاق اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔

خوشی کی بات ہے کہ مولانا ظفر احمد صدیقی ان اصولوں پر پورے اترے ہیں... مولانا کا کام بلکہ کارنامہ ہوں شہرت کا نہیں، گہرے خلوص کا نتیجہ ہے۔

مولانا اس سلسلے میں جو محنت کی ہے، وہ مستقل ایک تصنیف کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی ہوا۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالفتاح ابو یونس الحنفی لکھتے ہیں:

إن تحقيق النصوص كثیراً ما يكون أشق من التاليف
المختلف (مقدمة الرفع والتكميل طبع اول ص ۶)
(کسی کتاب کے حوالے اور اس کی نصوص کی تحقیق میں بسا اوقات
آدمی کو اتنا تعجب ہوتا ہے کہ از سر فوستقاً کسی نئی کتاب کی تالیف میں
بھی اتنا نہیں ہوتا۔)

ان تمام صعبوتوں کے باوجود سعادت مندا خلاف اپنی سعادت اسی میں سمجھتے ہیں کہ

اپنے اسلاف اور محبوب شخصیات کی تصنیف کو فتح کیا جائے اور اس کی ایک ایک سطر، ایک ایک جملہ اور حرف کا بالا سعیہ اب اور بظیر غارم طالعہ کیا جائے۔ کتاب کو اس کے اصل مأخذوں سے ملا کر دیکھا جائے اور مقابلہ و مطابقت کی جائے، تاکہ کتاب کے مقام اور اس کی تحقیق و استنادی حیثیت کے بارے میں نہایت اعتماد اور بصیرت کے ساتھ "وشهد شاهد من اهلها" کی حیثیت سے ثہادت دی جاسکے۔

اگر اتفاق سے اس ہفت خواں کے طے کرنے میں اپنے اسلاف اور بزرگوں کی کچھ غلطیاں اور فروگذشتیں معلوم ہو جائیں، یا یہ سمجھ میں آجائے کہ ان کا قول اور استنباط و استدلال کتاب و سنت یا جمہور امت کے خلاف ہے تو اسے بھی نہ چھپایا جائے۔ پلکہ "الدین النصیحة" کے پیش بظر نہایت ہی امانت و دیانت کے ساتھ ظاہر کر دیا جائے اور یہ کام نئی تصنیف سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اگر اس فریضے کو انجام نہیں دیا گیا تو امت کا ایک طبقہ بڑے ضرر میں بستا ہو جائے گا، اس لیے کہ بقول علامہ شبیل :

جو لوگ ان اکابر کی تقلید کرتے ہیں، ان میں ہزاروں ایسے ہوتے ہیں جن کو خود نیک و بد کی تمیز نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ اچھی پاتوں کے ساتھ اکابر کی غلطیوں کی بھی تقلید کرنے لگتے ہیں اور سلسلہ درسلسلہ تمام قوم میں اس کا اثر پھیل جاتا ہے۔

مولانا ظفر احمد صدیقی نے "مولانا شبیل بحیثیت سیرت نگار" کے اندر یہی فریضہ انجام دیا ہے اور وہ بجند عزیز نہیں بلکہ اس امر میں سلف کے تصحیح اور پس رو ہیں اور گویا انہوں نے علامہ شبیل کی اجازت ہی سے اس وثیقہ خار میں قدم رکھا ہے۔

روایات سیرت کی تحقیق و تفییض میں محمد ثانہ اصولوں کو بروے کار لانے کی بحث: فاضل مقالہ نگارنے ایک اہم بحث اٹھائی ہے جو بلاشبہ اہل علم کی توجہ خاص کی سختی ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں بھی کچھ عرض کر دیا جائے وہ لکھتے ہیں کہ :
روایات سیرت کی تحقیق و تفییض کے سلسلے میں محمد ثانہ اصولوں کو

بروئے کارلانا اور ارسال و اقتطاع یاد دسرے وجہ ضعف کی بنا پر
انھیں غیر مستند قرار دینا کس حد تک مناسب ہے؟ اور کیا اس قسم کی
روايات سے مدد لیے بغیر حکف روایات صحیح مسند کے ذریعے کوئی
کتاب سیرت مرتب کی جاسکتی ہے؟ اور کیا سیرت پر عربی وارد
میں اب تک جو صدہا کتابیں لکھی جا چکی ہیں ان میں سے کوئی حق
استناد کے اس معیار پر پوری اترتی ہے؟ کروایات سیرت اور
سیرۃ النبی سے کیا جا رہا ہے، سوجا بآعرض ہے کہ روايات سیرت اور
کتب سیرت کی محدثانہ اصولوں کے مطابق حقیق و تفییش اور پھر ان
کے استناد کی بحث مولانا شلی نے ہی اٹھائی ہے اور مقدمہ سیرۃ النبی
میں انہوں نے اس پہلو پر خاص طور سے زور دیا ہے کہ کتب سیرت
اور روايات سیرت بالعلوم معترض نہیں ہیں اس لیے خود ان کے قائم کردہ
اصولوں کی روشنی میں سیرۃ النبی کا جائزہ لینے میں کوئی مضاائقہ نہیں
ہے۔

یہ حقیر عرض کرتا ہے کہ اس اہم علمی مسئلہ پر حضرت مولانا محمد بدر عالم صاحب مدینی
نے ترجمان السن جلد چارام میں نہایت ہی سیر حاصل اور محققانہ بحث فرمائی ہے ان کی رائے اس
یقیداں کے نزدیک بہت دفع و متعال ہے اس لیے پہلے ان کی گرفتاری کے ذکر کرتا ہوں
اس کے بعد ان کی بحث کا ایک حصہ بھی نقل کروں گا جو باعث بصیرت ہے۔ مولانا لکھتے ہیں :

ہمارے نزدیک گوئی دین سنن کے ساتھ ہی متفق ہوا ہے مگر
جس طرح اس مجموعہ کے اجزاء میں مراتب کا تقاؤت تھا اسی طرح
اس کی نقل میں بھی مراتب تقاؤت کا لحاظ رہا ہے، اور یہ صرف
محمد بن کاتب سائل نہیں، بلکہ ان کی مراتب شناسی کا نتیجہ تھا اور بالکل
معقول تھا، وہ خوب جانتے تھے کہ ہر جگہ شدت اختیار کرنے سے
سیرت اور فضائل اعمال کا برا حصہ ضائع ہو جائے گا اور ہر جگہ سائل

کرنے سے احکام و عقائد کا بیان وی حصہ بھی مشتبہ ہو جائے گا۔ اس لیے سیرت کے اس حصہ پر وہی نقد و تبرہ شروع کر دینا جواہکام و عقائد کی حدیثوں پر محدثین کا معمول رہا ہے، ان کے طریق سے بالکل ناواقفی ہے محدث صابونی، مجزہ کی ایک روایت پر جرح کر کے لکھتے ہیں : *هُوَ فِي الْمَعْجَزَاتِ حَسْنٌ* (زرقانی ارجمند) یعنی مججزات میں وہ روایت اچھی ہے، حافظ ابن کثیر اس سلسلہ کی ایک روایت نقل کر کے لکھتے ہیں :

وَهَذَا سِيَاقُ حَسْنٍ، عَلَيْهِ الْبَهَاءُ وَالنُّورُ
وَسِيمَا الصَّدْقَ وَإِنْ كَانَ فِي رَجَالٍ مِنْ هُوَ مُتَكَلِّمٌ فِيهِ
(الْبَدَائِيَّهُ وَالنَّهَايَهُ ۲/۱۹۳)

اس واقعہ کی اسناد میں اگرچہ ایسے راوی ہیں جن میں کلام کیا گیا ہے، باس ہمہ یہاں ایسے قرآن موجود ہیں جن کی وجہ سے اس روایت پر صدق و صفا کا نور چک رہا ہے۔ (انھی)

حافظ زرقانی شرح مواہب میں اصول کے طور پر لکھتے ہیں :

لَأَنْ عَادَةَ الْمُحَدِّثِينَ التَّسَاهُلُ فِي غَيْرِ
الْأَحْكَامِ وَالْعَقَائِدِ (زرقانی ارجمند ۱/۲۷)

یہ اس لیے کہ محدثین کی عادت ہے کہ عقائد و احکام کے علاوہ دوسری روایتوں میں وہی برتبے ہیں۔ (انھی)

حافظ ابن الصلاح اپنی مشہور تصنیف "مقدمہ" میں تحریر فرماتے ہیں :

اہل حدیث اور دوسرے اصحاب کے نزدیک بھی اسانید میں نزی برتقی جائز ہے بلکہ موضوع حدیثوں کے علاوہ ہر قسم کی روایت کرنا درست ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ شریعت کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے علاوہ ان ضعیف حدیثوں کے

ضعف پر تعبیر کرنا بھی لازم نہیں، خلاصہ یہ ہے کہ موازنہ اور فضائل اعمال اور ترغیب کی حدیثوں میں جن کا حکام سے تعلق نہ ہو ضعیف حدیثیں روایت کرنی یہ سب درست ہیں۔ (مقدمہ مصری ص ۳۹)

ان کبار علماء کی تصریحات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عام سیرت تو درکنار اعمال کے متعلق فضائل کی حدیثوں میں بھی ضعیف حدیثیں روایت کی جاسکتی ہیں۔ اور یہ کہ حدیث "من کذب علی النجاشی" کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہاں یہ لکھا ڈالا کہ مجازات ہوں یا فضائل ضروری ہے کہ آپ کی طرف جس چیز کی بھی نسبت کی جائے وہ شک و شبہ سے پاک ہو، یہ بالکل خلاف تحقیق ہے پھر اس کی نسبت امام نووی، ابن جماعہ، عراقی اور بلقینی وغیرہ حدیثیں کی جانب کرنی یا ایک علمی ہو ہے اور خلاف واقع ہے، فضائل تو درکنار، حلال و حرام کی تمام حدیثوں کے متعلق بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کی جانب ان کی نسبت ہر جگہ شک و شبہ سے پاک ہے یہ صرف معتزلہ کی ایک "خوش کن تعبیر" ہے اور بس۔ علماء شرع کے نزدیک یقین کے ساتھ نہ بھی جھٹ ہے۔ (۸۹-۹۱)

اب آپ سیرت سے متعلق وہ بحث بھی پڑھ لیں جس کو نقل کرنے کا احرar نے دعہ کیا ہے وہو هذا۔

سیرت پر کے تین حصے:

آپ کی سیرت کے تین حصے سامنے آتے ہیں۔

۱۔ ولادت سے قبل، ۲۔ ولادت کے بعد اور نبوت سے قبل، ۳۔ تیز انبوث اور بحث کے بعد، ظاہر ہے کہ آپ کی ولادت با سعادت اور اس سے قبل کے حالات یا تو آپ کے مگر والے یا خاندان کے دوسرے افراد یا کسی راہب یا کسی ہاتھ، جن یا کسی کا اہن یا نجم کے ذریعے سے متخل ہوئے ہیں اور یہی ہو بھی سکتا تھا عام شہرت پر اس کی بنیاد ہوئی ہے، اور یہ تمام طریقے دنیا میں سیرت کی نقل و ترتیب کے لیے کافی سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں شہادت و روایت کی دیگر شرائط تو درکنار بس سے پہلی شرط "اسلام" ہی مفقود ہے۔ ان کے لیے کون شخص ہے جو

روایت کے اسلامی دور کی شرائط لازم، بلکہ محتوقل سمجھے، اس کے بعد پھر جب اسلامی دور آیا تو آپ ﷺ کی ہمہ صفت موصوف شخصیت، آفتاب آمد دلیل آفتاب بن کربلہ کے سامنے موجود تھی۔ ہر شخص اپنے معیار پر اس کو پر کھر رہا تھا اور بڑی آسانی کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچ رہا تھا۔ کس کو ضرورت تھی کہ وہ روزمرہ کے چشم دید و اقدامات کو نقد و تبرہ کی میزان میں تو لئے پیشتا۔ ان حالات میں یہ کون قیاس کر سکتا ہے کہ سیرت کے اس حصہ کے متعلق بھی جو آپ کی نبوت، بلکہ ولادت سے بھی پہلے ہے، کوئی اسناد با تحدیگ سکتی ہے؟ اس لیے بہت ممکن تھا کہ دنیا کے دیگر مشاہیر بزرگوں کی طرح اس کو بھی صرف ”عام شہرت“ کی ہنا پر دون کر دیا جاتا اور اگر ایسا کیا جاتا تو جس طرح دنیا کی ان شخصیتوں کے حالات جن پر دنیا کی تاریخ کامدار ہے آج تک معتبر سمجھے جا رہے ہیں آپ کے حالات بھی معتبر سمجھے جاتے، مگر ہمارے محدثین کی سخت گیری نے آپ کی سیرت کے معاملے میں یہاں بھی سند کا مطالبہ سامنے رکھ لیا اور اپنے زمانے سے لے کر آخریک جن افراد سے وہ اقدامات متفق ہوئے تھے ان کو دنیا کے گوشہ گوشہ سے لا کر سب کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ ان کے اس تشدد پر آپ محدثین کے ذمہ الزامات لگائیں یا ان کی داد دیں۔

آپ کی سیرت کا تیرا حصہ وہ ہے جو بعثت کے بعد سے متعلق ہے اس کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک حصہ عقائد و اعمال کا ہے اور دوسرا آپ کی عام زندگی کا، پھر آپ کی عملی زندگی میں بھی ہم کو دو قسمیں نظر آتی ہیں۔ ایک آپ کی ”خصوصیات“ جیسے صوم و صالح وغیرہ اور دوسرا اتفاقیہ عادات۔ اسی ہنا پر فقرہ میں بھی سنن بدی اور سنن زوائد کے دو عنوان الگ الگ قائم کر دیے گئے ہیں۔ سنن بدی سے مراد آپ کی وہ شریعت ہے جس کی اتباع کی آپ کی امت بھی ہمور ہے اور جو آپ کی اتفاقیہ عادات تھیں وہ سنن زوائد میں داخل ہیں، آپ کی امت ان کی اتباع کی مکلف نہیں، یہ الگ نہات ہے کہ صحابہ میں ایک جماعت ایسی بھی نظر آتی ہے جنہوں نے اپنے جذبات اور شفف اتباع میں آپ کی اتفاقات میں بھی اتباع کی ہے۔ پھر آپ کی شریعت کے اس حصہ پر جب نظر کی جاتی ہے جو سنن بدی کہلاتا ہے تو اس کے بھی دو پہلو نظر آتے ہیں ایک وہ جو امت سے متعلق ہے مثلاً کسی چیز کا حلal، حرام، واجب اور مستحب ہونا، دوسرا وہ جو بندوں کے

اعمال کے ثواب و عقاب سے متعلق ہے، مثلاً کسی عبادت کا ثواب یا کسی گناہ کے عذاب کی مقدار یا جنت و دوزخ کے راحت و آلام کا تذکرہ۔ اگر چہ دینِ مجموی لحاظ سے ان دونوں اجزاء کوشامل ہے، لیکن جہاں تک اعمال امت کا تعلق ہے وہ صرف پہلی قسم ہے۔ دین کا یہ حصہ جو عمل یا عقیدہ سے متعلق ہے اس میں بال بر ابر بھی فرق آنے سے دین "اور تعریف دین"، یعنی سنت اور بدعت کا فرق پڑ جاتا ہے اس کے برخلاف اگر کوئی شخص بالفرض کسی عبادت کے ثواب یا کسی گناہ کے عذاب میں پچھے شیب و فراز کر گزرتا ہے تو اگرچہ بلاشبہ وہ ایک بڑی غلطی کا مرکب ہے لیکن اس سے دین کے عملی حصہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بدعاقب کی ذمہ داری تھا اسی کی ذات تک محدود رہتی ہے۔

اس تفصیل کے بعد جب آپ سلف کے حالات پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ وہ ان تمام اقسام اور ان میں فرق کی رعایت کرتے تھے، جہاں ان کے سامنے کسی عقیدہ کی بحث آگئی۔ بس یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہاں ان کو لفظی ترمیم کرنی بھی برواداشت نہ تھی، اور جب کوئی عمل کا باب آیا بس وہیں کب، کیسا اور کتنا کی بحث شروع ہو گئی۔

حدیثوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب کبھی وہ احکام و عقائد کی حدیث روایت کرتے تو ان کا رنگ متغیر ہو جاتا، مگلے کی رکیں پھول جاتیں آواز کا پہنچنے لگتی اور اسی پر بس نہیں بلکہ روایت حدیث کے بعد احتیاط کے جتنے کلمات وہ استعمال کر سکتے تھے کہ لیتے مثلاً "کماقال" "نحوہ" "مثلہ" سلام کا ایک معمولی سامانہ۔ جب حضرت عمرؓ کے سامنے آپ ﷺ کی نسبت کے ساتھ ذکر کیا گیا تو فوراً انہوں نے تہذید آمیز لمحہ میں اس پر شہادت پیش کرنے کا مطالبہ فرمایا، حتیٰ کہ اس قسم کے واقعات سے محدثین کے ہاں یہ بحث پیدا ہو گئی کہ "خبر واحد" سلف میں جلت بھی جاتی تھی یا نہیں؟ اس کے برخلاف آپ کی زندگی کے عام واقعات تھے وہ ان پر اسی طرح یقین کر لیتے تھے، جس طرح ہمیشہ ان پر دنیا یقین کرتی چلی آئی ہے۔ اور اسی طرح ان کی روایت کرنے میں بھی عرف و عادات کی مطابق آزاد نظر آتے تھے۔ صحابہ کے اس طرزِ عمل سے یہ اندازہ ہوتا کہ ہے آپ ﷺ کی زندگی کے ان مختلف حصوں کی روایت کرنے میں ان کے زد دیک بھی ختنی و ذری کافر قطعہ نظر ہتا تھا، اتحی۔ (ترجمان السنہ جلد چہارم ۸۹۵۸)

ایک بہت بڑا فتنہ :

علامہ شیعی نے مقدمہ سیرت میں حدیثوں کے جانچنے اور پرکھنے کے کچھ اصول جن کو درایت سے تعبیر کیا جاتا ہے ”فتح المغیث“ کے حوالے سے نقل کیے ہیں لیکن افسوس کہ مالکی قاریٰ کی ”موضوعات کبیر“ سے وہ عبارت نہیں نقل کر سکے جو ”فتح المغیث“ کی عبارت کو کا حق تجھنے میں محسن و مدد و گارنابت ہوتی، حالانکہ علامہ نے مقدمہ میں ”موضوعات کبیر“ کا نام لیا ہے اور اس سے حدیثوں کے تاجیت ہونے کے چد اصول بھی لکھے ہیں۔ لیکن ان اصولوں کو برتنے اور بروئے کار لانے کا اختیار اور اتحارثی (Authority) کن کو ہے؟ اور ان کے علم کا معیار کیا ہے؟ اس سلسلہ میں اہم اور اساسی عبارت کو اس سے نقل کرنا بھول گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علامہ نے قانون اپنے باتھ میں لے لیا اور کتنی ایسی صحیح مستند حدیثوں کو بلا قصور دار پر پڑھادیا جن کی صحیح توجیہ ان کی عقل میں نہیں آسکی۔ حالانکہ قانون باتھ میں لینا اور اس میں اختر فیر (Interfere) کرنا خوش ارادی ہو تو ہو لیکن کوئی دانائی بھی ہے؟ اسے کوئی دانا تسلیم نہیں کر سکتا۔ دنیا جانتی ہے کہ کوئی انگریزی زبان و ادب کا باہر خواہ کتنا ہی بلند پایہ کیوں نہ ہو انگریزی زبان میں لکھی ہوئی سرجری کی کتابیں پڑھ کر دل کا آپریشن تو درکنار عمومی آپریشن کرنے کا بھی مجاز نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس کہ علامہ تاریخ میں عبارت کی سند کی بنا پر اپنے زرگن ہوم میں بدون فن حدیث میں اتحارثی اور اسپسلازیشن کے روایات صحیح کا آپریشن کرنے لگے اور اپنے تبعین کو بھی سمجھا گئے کہ ”جو واقعہ خلاف قیاس ہیاں کیا جائے قطعاً بحاجت نہ تھا چاہیے کہ غلط ہے“ یعنی اپنی ہی عقل کو عقل کل سمجھ کر ان تمام روایات کا آپریشن کرتے جاؤ، جو عقل، اصول مسلم، محسوسات و مشاہدہ وغیرہ کے خلاف معلوم ہوں اور ہرگز ہرگز ماہرین فن حدیث کی طرف رجوع کرنے کی زحمت نہ کرنا حالانکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ مُنْهَاجُ النَّبِيِّ (۱۰۳) میں لکھ گئے ہیں:

المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من

الكذب والمرجع في التمييز بين هذا و بين هذا الى

أهل الحديث كما يرجع الى النهاة في النحو ويرجع

الى علماء اللغة فيما هو من اللغة، وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك فلكل علم رجال يعرفون به، والعلماء بالحديث اجل قدرا من هؤلاء، واعظمهم صدقاؤا علاهم منزلة واكثراهم ديننا. (انتهی)

(الاجوبة الفاضلة للامام الکنوى م ۱۳۲)

منقولات کے اندر بہت کچھ بھی ہے اور بہت کچھ جھوٹ بھی، ان میں فرق و امتیاز کے لیے اہل حدیث یعنی ماہرین فن حدیث کی طرف رجوع کرنا لازم ہے جس طرح نحوی، لغوی اور شعر و طب وغیرہ علوم کے قصیوں میں ان کے ماہر علماء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ ہم ہر علم و فن کے اندر ماہر علماء موجود ہیں جو مہارت میں انھیں علوم کے ساتھ معروف و مشہور ہیں۔ اور علماء حدیث تو ان سب میں اپنی جلالت قدر، اور علوم زلت، نیز صدق و صفا اور تدین میں بڑھے ہوئے ہیں (تو ان کی طرف رجوع نہ کرنا کب قرین قیاس ہو سکتا ہے۔)

علام نے جہاں درایت کا معنی و مفہوم سمجھنے میں غلطی کی ہے وہی ضعف استدلال بلکہ استدلال بلا دلیل کے شکار ہو گئے ہیں چنانچہ آگ پر کپی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو نوٹ جانے والی حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوغاً صحیح حدیث (جس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے) کے بارے میں لکھتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ، حضرت ابو ہریرہؓ کو ضعیف الروایتیں سمجھتے تھے، لیکن چونکہ ان کے نزدیک یہ روایت درایت کے خلاف تھی، اس لیے انہوں نے تسلیم نہیں کی اور یہ خیال کیا کہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔

باشب حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سننے کے بعد حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ نے کہا تھا

کہ ”اگر یہ صحیح ہو تو اس پانی کے پینے سے بھی وضو نہ جائے گا جو آگ پر گرم کیا گیا ہو؟“ ؟ لیکن بالایں ہمسہ محدثین اور حدیث پاک کے معتبر شارصین میں سے کسی کتابم تلایا جاسکتا ہے؟ جس نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہوا کہ جب روایت درایت کے خلاف ہو تو اس کو رد کر دینا چاہئے اس لیے کہ حضرت ابن عباسؓ نے ایسا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جواب نقی میں ہو گا، اس لیے کہ اہل علم جانتے ہیں کہ ”توضیحاً معمامت النار۔“ آگ پر کپی ہوئی چیز کھانے سے وضو کروvalی روایت صحیح ناصول روایت کے خلاف ہے نہ قوانین درایت کے، اور حضرت ابو ہریرہؓ کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام بھی اس کو نبی اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

علامہ شوکانی تکیتے ہیں:

کِما ثبتَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا عَنْ
مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ وَالْتَّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ بِلِفْظِ (تَوْضِيْحًا)
مَعَامَسَتِ النَّارِ) وَهُوَ عَنْ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ
مَرْفُوعًا وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَيْوَبَ وَأَبِي طَلْحَةَ وَأَمَّا
حَبِيبَةُ وَزِيدُ بْنُ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِمْ (انتهی)

(نیل الاوطار ۲۵۳/۱)

حدیث ”توضیحاً معمامت النار۔“ کے الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی کے اندر حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً ثابت ہے اور یہی حدیث مسلم شریف میں حضرت عائشہؓ صدیقہ سے بھی مرفوعاً مردی ہے۔ نیز باب ہذا میں حضرت ابو ایوب، حضرت ابو طلحہ، حضرت ام حبیبةؓ اور زید بن ثابت وغیرہم سے بھی روایتیں موجود ہیں۔

اب رہا حضرت ابن عباسؓ کا کلام تو ان کا نشاہر گز یہ نہیں تھا کہ وہ حدیث مرفوع کو اپنی رائے سے رد کریں، یا حدیث کے مقابلہ میں اپنی رائے پیش کریں۔ بلکہ ان کا مقصود یہ تھا کہ حضرت

ابو ہریرہؓ کو اس حدیث کا مفہوم سمجھنے میں غلط بھی تو نہیں ہورہی ہے؟ لیکن جب حضرت ابو ہریرہؓ نے جواب دیا کہ "یا الخی اذا سمعت حدیثا عن النبی ﷺ فلا تضرب له مثلًا" بھائی سنئے! جب آپ رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث سنائیں تو پھر اس کے آگے چون وچانہ کیا کریں اور عقل و قیاس کو دخل نہ دیں۔ اس کے بعد حضرت ابن عباسؓ بس خاموش ہی ہو گئے اور کوئی معارضہ نہیں کیا۔ اس لیے کہ سمجھ گئے کہ یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔ ابو ہریرہؓ کا استنباط نہیں۔ صحابہ کا یہ مزاج ہی نہیں تھا کہ وہ حدیث رسول ﷺ کے سامنے اپنی رائے پیش کریں وہ تو اپنی رائے کو مناچکے تھے اور اپنے نفس کو فاکر چکے تھے ان کا توحال یہ تھا کہ۔

آزمودم عقل دور اندر لیش را

بعد ازاں دیوانہ سازم خویش را

ان گذارشات کے بعد میں چاہتا ہوں کہ قارئین کے سامنے درایت کی حقیقت بھی واضح ہو جائے اور اس غلط بھی کو بھی دور کر دیا جائے کہ ہر کس دن اسکس بس اصول درایت اور کسی قاعدہ کلیری کی بنا پر محدثین سے مستغفی ہو کر حدیث کو پرکھ سکتا ہے؟ اور اس کے موضوع ہونے کے نشاندہی کر سکتا ہے؟ اور کیا اس باب میں اس کا قول معتبر بھی ہو سکتا ہے؟ سوا جمالی جواب ہے کہ نہیں اور ہرگز نہیں!! ع ذرہ تو اندر کہ سجد حسن روئے آقاب اسی طرح یہ ہے کہ ع رموزِ مملکت خویش خرد و اداں داند اس کے بعد اب تفصیل کے ساتھ درایت سے متعلق کچھ باتیں پیش خدمت ہیں۔ مولانا عبدالرؤف صاحب داتا پوری "اصح السیر" کے مقدمہ میں "درایت اور عقل" پر نہایت شرح و سلط کے ساتھ کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

مولانا (شیخ) سیرہ میں بھی اور اپنی دوسری تصنیفات

میں بھی بسط و تفصیل سے لکھتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک احادیث کو پرکھنے کا ایک اصول درایت بھی ہے جس طرح قرآن کریم کے خلاف کوئی روایت ہو تو رد کر دی جائے گی اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی سند کیسی ہے۔ اسی طرح جو روایت عقل کے خلاف ہو وہ بھی رد کر دی جائے گی سند دیکھنے کی ضرورت نہیں۔

یہ مولانا کی تحریر کا خلاصہ ہے مولانا سے تسامح یہ ہوا کہ وہ درایت اور عقل کو ایک چیز سمجھتے ہیں۔ دوم درایت کو اسناد پر ترجیح دیتے ہیں یہ دونوں باقیں غلط ہیں اور کسی محدث کا یہ مسلک نہیں بلکہ صریح المطلان ہے۔

درایت کے معنی عقل نہیں ہے۔ علم اور تجربہ کے بعد جو ملکہ حاصل ہوتا ہے اس کو درایت کہتے ہیں، محدثین کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو رسول اللہ ﷺ کی سیرت سے پوری واقعیت ہو اور اس بارہ میں حقیقی روایات صحیح ہیں وہ اس کے پیش نظر ہوں۔ رسول اللہ ﷺ کے وقت کے واقعات اور حالات پر عبور رکھتا ہوا یہ شخص کو ایک طرح کی معرفت اور بصیرت حاصل ہو جائے گی اسی کو درایت کہتے ہیں۔ ایسے شخص کے سامنے جب کوئی روایت آئے گی اور اس کی سند نہ معلوم ہو تو وہ اپنی اسی بصیرت کی بنا پر کہہ سکتے گا کہ یہ حدیث رسول اللہ ﷺ کی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ مطابق قارئی موضوعات کی بڑی میں لکھتے ہیں:

وقد سئل ابن قيم الجوزية هل يمكن معرفة

الحاديـث الـموضـوع بـضـابـط مـن غـير ان يـنـظـر فـي
سـنـدـه فـقـال هـذـا سـوـال عـظـيم الـقـدـر وـاـنـما يـعـرـف ذـلـك
مـن تـطـلـع فـي مـعـرـفـة السـنـن الصـحـيـحة وـخـلـطـت بـلـحـمـه
وـدـمـه وـصـارـلـه فـيـها مـلـكـة وـاـخـتـصـاص شـدـيد بـمـعـرـفـة
الـسـنـن وـالـأـثـار وـمـعـرـفـة سـيـرـة الرـسـوـل عـلـيـه الصـلـاـة
وـالـسـلـام وـهـدـيـه فـيـما يـأـمـرـه وـيـنـهـيـ عنـه وـيـخـبـرـعـه
وـيـدـعـوـ إـلـيـه وـيـحـبـه وـيـكـرـه وـيـشـرـعـه لـلـأـمـة بـحـيـث

کانہ مخالط لہ علیہ الصلوٰۃ والسلام بین اصحابہ
الکرام فمثُل هذایعرف من احوالہ وهدیہ وکلامہ
واقوالہ وافعالہ۔” (انتہی) (ص ۸۹)

(ترجمہ) (ابن قیم جوزی سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ حدیث
موضوع کو کسی قاعدہ سے جان لیں۔ بغیر سند دیکھئے ہوئے۔ کہا یہ
بڑے مرتبہ کا سوال ہے۔ یہ وہ شخص جانتا ہے جو سن پر حاوی ہوا اور
جس کے خون اور گوشت میں وہ مخلوط ہو گئی ہوں اور اس میں اس کو
ملکہ حاصل ہو گیا ہو سن اور آثار کے پہچانے میں اور حضور ﷺ کی
ہدایت کو پہچانے میں۔ جس کا حضور حکم دیتے تھے، جس سے منع
کرتے تھے، جس بات کی خبر دیتے تھے جس کی طرف دعوت دیتے
تھے جس بات کو پسند کرتے تھے۔ جس کو برائحتہ تھے جس کی امت
کو تعلیم دیتے تھے سب کے جانے میں اس کو شدید خصوصیت
حاصل ہو گئی ہو، گویا وہ حضور ﷺ کے ساتھ صاحبہ میں ملا ہوا موجود
ہے۔ اس طرح کا آدمی حضور ﷺ کے احوال، ہدایت، کلام اور
اتوال و افعال کو جانتا ہے۔ اُنہی)

عقل کو معیار بنانے کا اگر یہ مطلب ہے کہ جو بات عقل و سمجھ سے باہر ہو اس کا انکار
کر دیا جائے تو بڑی مشکل ہے۔ معاد کی باتیں اکثر ایسی ہیں جن کا اور اک عقل نہیں کر سکتی۔
حشر، نشر، عذاب، قبر اعمال کا حساب و کتاب، جزا و سزا، جنت، دوزخ ایسی چیزیں ہیں جن کا
اور اک صرف عقل سے نہیں ہو سکتا۔ اعتقادیات کی اکثر باتیں ہیں جن میں عقل کو دخل نہیں ہے
یہ سب باتیں انہیاء کرام کی تعلیم سے معلوم ہوئی ہیں کیا ان چیزوں کا اس لیے انکار کیا جاسکتا ہے
یہ ہماری عقل میں نہیں آتیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں:

”جس طرح یہ ضرور ہے کہ موضوع اور جھوٹی حدیثیں روکروی جائیں اسی طرح یہ
ضرور ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی صحیح تعلیم ترک نہ ہونے پائے اس لیے تحقیق کی اصل چیز اسانید

جیں کیونکہ یہ اسانید نقد اور معترضوں کی شہادتیں ہیں۔ جو روایتیں مستند اور صحیح الاسناد ہوں ان کو قبول کرنا واجب ہے۔ جن روایتوں کا موضوع ہوتا ثابت ہو جائے ان کو رد کرنا واجب ہے۔ باقی وہ روایتیں جس کے اسناد معلوم ہوں، ان کے بارے میں ان علماء کے بیان پر اعتماد ضروری ہے۔ جن کو احادیث رسول اللہ ﷺ اور سیرۃ نبویہ پر عبور اور ملکہ راست حاصل ہے۔ کیونکہ وہ الفاظ کی رکا کست و خافت، طرز کلام اور دوسرے قرآن سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا کلام ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ایک مشاق انشاء پر دواز، ایک کہنہ مشق شاعر کسی کلام کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ کس کا کلام ہے۔ ایک جو ہری کسی موئی کے آب در گک کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ سوتا کس درجہ کا ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی کوئی ایسا قاعدہ نہیں بتا سکتا جس سے یہ شخص پر کھنپ پر قادر ہو جائے۔ قادر وہی ہو گا، جو مشق اور مزاولت سے اسی طرح کاملکہ اور درایت حاصل کرے۔ (مقدمہ صحیح المسیر ص ۳۸۲-۳۶)

اب تک درایت کی حقیقت اور اس کے سلسلے میں جو غلط فہیماں تھیں ان پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فقہ و حدیث کے امام مولانا محمد عبدالجی فرنگی محلیؒ کے "مجموعہ الفتاویٰ" سے فارسی میں ایک سوال و جواب کا ترجیح پیش کروں۔ سوال و جواب موضوع درایت سے متعلق ہے بالخصوص ان کا تعلق اصول درایت میں سے ان دو اصولوں سے ہے جن کا ذکر علامہ شبلی نے مقدمہ میں درج ذیل نمبروں کے تحت کیا ہے :

۵۔ جس حدیث میں معمولی بات پر سخت عذاب کی دھمکی ہو۔

۶۔ معمولی کام پر بہت بڑے انعام کا وعدہ ہو۔

یعنی ان صورتوں میں روایت اعتبار کے قابل نہ ہو گی اور اس کے متعلق اس تحقیق کی ضرورت نہیں کہ اس کے راوی معترض ہیں یا نہیں۔ دیکھیے علامہ شبلیؒ نے تو یہ سمجھا ہے مولانا محمد عبدالجیؒ فرماتے ہیں کہ :

www.KitaboSunnat.com

قاعدہ مذکورہ اگرچہ شرح شرح تخبہ وغیرہم بدین تصریح کردہ اند

اما اور ابجیدیش کہ آس رانقا فن حدیث روایت کردہ اند میں سے

نیست البتہ حدیث کہ آس رانقا فن حدیث روایت نہ کردہ اند و دفعۃ

گوش زد ماہر فن حدیث شد از پھو قواعد ہماں ماہر فن کیفیت چنیں
حدیث دریافت می تو اس ساخت۔ واللہ عالم

(مجموعہ فتاویٰ جلد سوم مطبوعہ مطبع شوکت اسلام ۲۲۶۱)

قادہ مذکور کی تصریح اگرچہ شراح شرح نجیب وغیرہم نے
کی ہے لیکن اس کا تعلق ان احادیث سے نہیں ہے جن کو نقاذ فن نے
روایت کیا ہے۔ البتہ وہ حدیثیں جن کو نقاذ فن نے روایت نہ کیا ہو
جب وہ دفعہ شریعت مأہر فن حدیث کے پردہ ساعت سے مکررا تی ہیں تو ماہر
فن اس طرح کے قواعد سے ایسی حدیثوں کا حال دریافت کر
سکتا ہے۔ واللہ عالم (انجی)

ویکھیے ایک حقیق اور غیر حقیق کے کلام میں کتنا زبردست فرق ہے اللہ اکبر اعجج ہے
ع ذرہ خواہ کہ سید حسن روئے آفتاب

مولانا فرمی مغلی فرماتے ہیں کہ ان اصولوں کا تعلق ان احادیث ثابتہ سے نہیں ہے
جن کو نقاذ فن نے روایت کیا ہے، لیکن اصول درایت احادیث ثابتہ کو غیر ثابت اور مصنوی
قرار دینے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ بات ان اصولوں کی حدود سے باہر ہے۔ ان اصولوں کے
دارے میں صرف وہی حدیثیں آسکتی ہیں، جن کو نقاذ فن نے روایت نہ کیا ہو۔ پھر مذکورہ قواعد کی
روشنی میں ایسی حدیثوں کا حال دریافت کرنا بھی ہر آدمی کے بس ٹھی بات نہیں، بلکہ ماہرین فن
اپنی فنی بسیرت اور ملکہ خدا وادی کی بنا پر بے توفیق الہی اس مہم کو سر کر سکتا ہے۔

افسوں کی اسی بات کو سمجھنے کی بنا پر علامہ شبلی نے حدیث کے مسلمہ امام اور نقاذ فن
حافظ ابن حجر عسقلانی کو رواۃ پرست کہہ دیا حالانکہ انہوں نے نقاذ فن کی حیثیت سے ایک حدیث
کی صحت کے بازے میں گواہی دی تھی، اور علامہ شبلی سمجھ رہے تھے کہ اصول درایت تو میرے
ساتھ ہیں اور اصولوں کے مقابلے میں جو چاہے مقابل آجائے کسی کی کوئی رورعایت نہیں کی
جاتی، لیکن جب حقیقت سے پردہ اٹھاتو سمجھ میں آیا کہ۔

خواجہ پنداروں کے دارد حاصلے ماحصل خواجہ بجز پندار نہیں

اور کاش بھی حقیقت اگر ہمارے محترم بزرگ رفیق دار المصطفین حضرت اللہ بھی سمجھ لیے ہوتے تو معارف کے اندر نومبر ۱۹۹۵ء کے شمارہ میں یہ تحریر نہ فرماتے کہ : درایت کی اہمیت کا اعتراف خود مولا نا شبی کے نکتہ چینوں اور خوردہ گیروں کو بھی ہے، مگر مولا نا جب محدثین کے اس اصول سے کام لیتے ہیں تو پہنچیں کیوں رواۃ پرستوں کی جنبیوں پر تسلک آجائی ہے۔ اچھا اب آئیے مولا نا فرنگی محلی کے مجموعہ فتاویٰ کی عبارت کا ترجمہ پڑھ لیا جائے اور بات ختم ہو۔

سوال :-

علمائے فقاد (تحریر) نے حدیث موضوع کی شناخت کے لیے یہ قاعدہ لکھا ہے کہ جس حدیث میں فعل قلیل پر ثواب و عقاب کثیرہ کا وعدہ و وعدہ ہو یعنی وعدہ و وعدہ و وعدہ میں حد سے تجاوز ہو وہ موضوع ہے حالانکہ امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں اس حدیث کو نقل کیا ہے سکل حسنة بعشر امثالہا الی سبعمائہ ضعف الا الصوم ہر تکی کا بدله اس کے دس مثلوں سے لے کرسات مثلوں تک ملتا ہے سوائے روزے کے۔ اور بعض محدثین نے یہ دوسری حدیث نقل کی ہے "من صام یوم سبعة و عشرین من رجب کتب الله له صیام ستین شهراً" جس نے ستائیں سویں رجب کو روزہ رکھا اللہ نے اس کے لیے ساٹھ مہینہ کے روزوں کا ثواب لکھ دیا۔ پس معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دونوں حدیثیں کیسی ہیں؟ اور موضوع حدیث کے پیچانے کا کیا قاعدہ ہے؟

جواب :-

چہلی حدیث کو بخاریؓ اور مسلمؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے علامہ زین الدین ابو الفضل عبدالرحیم عراقی کتاب "المفنی عن حمل الاسفار فی الاسفار بتخریج ما فی الاحیاء من الاخبار" کے اندر اس حدیث کی شان میں لکھتے ہیں "آخر جاه من حدیث ابی هریرة رضی اللہ عنہ" انتہی۔ شیخین (بخاری و مسلم)

نے اس حدیث کی تخریج حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے۔ اور دوسری حدیث گو صحاح ستر میں نہیں ہے مگر بعض محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ "ما ثبت من السنہ" میں ہے :

"وفی جزء ابی معاذ الشاہ المرزوکی فی فضائل رجب لعبد العزیز من طریق ضمیرة عن مطر الوراق عن شہر بن حوشب عن ابی هریرۃ موقوفاً من صام یوم سبع وعشرين من رجب کتب اللہ لہ صیام ستین شہراً وهو الیوم الذی هبط فیه جبرئیل علی محمد ﷺ بالر سالہ وہذا امثال ماورد فی هذالمعنی" انتہی۔

عبد العزیز نے جزء ابی معاذ شاہ المرزوکی میں رجب کے فضائل میں بطریق ضمیرہ مطروراق سے، انھوں نے شہر بن حوشب سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے موقوفاً روایت کیا ہے کہ جس نے روزہ رکھا تھا میسویں رجب کو اللہ تعالیٰ اس کے نام سائھ برس کے روزوں کا ثواب لکھتا ہے اور یہ دون ہے جس میں حضور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں رسالت کا پیغام لے کر حضرت جبرئیلؑ آئے تھے اور یہ حدیث ارشل ہے اُن احادیث سے جو اس مقیم میں وارد ہوئی تھیں۔

قاعدہ مذکور کی تصریح اگرچہ شرح شریح نجفی وغیرہم نے کی ہے لیکن اس کا تعلق ان احادیث سے نہیں ہے جن کو ققادون نے روایت کیا ہے۔ البتہ وہ حدیثیں جن کو ققادون نے روایت نہ کیا ہو جب وہ وقت مانہر فن حدیث کے پردہ ساعت سے مکراتی ہیں تو مانہر فن اس طرح کے قواعد سے ایسی حدیثوں کا حال دریافت کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم

ختم شد

مأخذ و مراجع

- ۱- آپ بنتی: مولانا عبدالمالک جد دریابادی، مکتبہ فردوں، لکھنؤ، طبع اول ۱۹۸۷ء
- ۲- اردو شہیں سیرت رسول: ڈاکٹر انور محمد خالد، اقبال اکاؤنٹزی، لاہور، ۱۹۸۹ء
- ۳- الاستیعاب لابن عبدالبر (علی ہامش الاصابة) دارصادر بیروت، عکس طبع اول، مطبعة السعادة، مصر ۱۳۲۸ھ
- ۴- اسد الغابة لابن الاثير الجزری داراللگریریت، ۱۹۸۹
- ۵- الاصابة لابن حجر العسقلانی، دارصادر بیروت، عکس طبع اول، مطبعة السعادة، مصر ۱۳۲۸ھ
- ۶- الپیار الحخاری، مولانا سید فخر الدین احمد، مجلس قاسم المعارف، دیوبند سہ ندارو
- ۷- البدایہ والنہایہ لابن کثیر، مکتبۃ المعارف، بیروت، ۱۹۱۶-۱۹۲۳ھ
- ۸- بذل المجهود الجزء الرابع: مولانا مخلیل احمد سہار پوری، مکتبہ تحریک یہ سہارن پور سہ ندارو
- ۹- بین الامامین مسلم والدارقطنی للدکتور ربيع بن هادی عمير المدخلی، جامعہ سلفیہ بنارس طبع اول ۱۹۸۲
- ۱۰- تاریخ الاسلام للذهبی، تحقیق الدکتور عمر عبد السلام تدمیری، دارالکتاب العربي، بیروت، طبع دوم، ۱۹۸۹
- ۱۱- تاریخ الخمیس لحسین بن محمد الدياربکری، مطبعة الوهابیہ، مصر
- ۱۲- تاریخ طبری، داراللگریری، بیروت، ۱۹۷۹
- ۱۳- تاریخ یعقوبی، دارصادر، بیروت، سہ ندارو

- تحفة الاشراف للمزى، تحقيق عبد الصمد شرف الدين
تفسير ابن كثير، دار المعرفة، بيروت، ۱۹۸۲، -۱۵
- تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني، تحقيق محمد عوامه، دار الرشيد، سوريا -۱۶
- خطب، طبع ثانٍ ۱۹۸۸ -۱۷
- تكلمة فتح المعلم، مولانا احمد عثّانى، (جلد بىالث) مكتبة دار العلوم كراچى طبع اول ۱۳۷۱ -۱۸
- تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، عكس طبع حیدر آباد، ۱۹۶۸ -۱۹
- تهذيب الكمال للمزى، تحقيق دكتور بشّار عواد معروف، مؤسسة
الرسالة، بيروت، ۱۹۸۵ -۲۰
- الجامع للترمذى، رشيد يه پوری سے مدارو -۲۱
- جامع البيان للطبرى، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، سعودیہ، مندارو -۲۲
- جامع المسانيد والسنن لابن كثير، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي،
دار الكتب العلمية، بيروت طبع اول ۱۹۹۷ -۲۳
- حواشی قرآن مجید، مولانا شبیر احمد عثّانى، مدینہ بک ڈپورٹی، طبع دوم، ۱۹۷۸ -۲۴
- درس بخاری، مولانا شبیر احمد عثّانى، تصحیح و تعلیل مولانا حبیب الرحمن الاعظمی، جامعہ
اسلامیہ، ۱۳ بیلی، کھرات، ۱۳۰۰ھ -۲۵
- دلائل النبوة للبيهقى، تحقيق دكتور عبد المعطي قلعجي، دار الكتب
العلمية، بيروت، ۱۹۸۵ -۲۶
- زیست کون ہے؟ مولانا حمید الدین فریادی (اردو ترجمہ) مولانا امین احسن اصلاحی
دائرۃ حمیدیہ، سرائے پیر، افغانستان کمڈھ، طبع اول سے مدارو -۲۷
- الروض الانف، للسهیلی، تحقيق عبد الرحمن الوکیل، احیاء التراث
العربی، بيروت ۱۹۹۲ -۲۸
- زاد المعاد لابن القیم الجوزیة، تحقيق شعیب الارنؤوط، عبد القادر
الارنؤوط، موسسة الرسالة، بيروت ۱۹۸۱ -۲۹

مأخذ و مران

۲۸۰

- ۲۹- السنن لابن ماجة، رشید یہ دہلی، سندارو
- ۳۰- السنن لابی داؤد، رشید یہ دہلی، سندارو
- ۳۱- السنن للدارقطنی، (طبع قدیم ہند)
- ۳۲- سنن الدارمی، دارالكتب العلمیة، بیروت، سندارو
- ۳۳- سنن سعید بن منصور، تحقیق الشیخ حبیب الرحمن الاعظمی، مجلس علمی، ڈا بھیل، گجرات، ۱۹۶۸
- ۳۴- السنن للنسائی، زکریا کتب خانہ، جیسور، سندارو
- ۳۵- سپر اعلام النبلاء للذهبی، بشرا ف شعیب الارنؤوط، طبع چارام، ۱۹۸۷
- ۳۶- سیرۃ المصطفیٰ، مولانا محمد ادریس کاندھلوی، (جلد اول و دوم) ربائی بک ڈپو، دہلی، ۱۹۸۱
- ۳۷- السیرۃ النبویة لابن هشام، تحقیق مصطفیٰ السقا وغیره، مؤسسة علوم القرآن، بیروت، سندارو
- ۳۸- سیرۃ ابی، مولانا شبلی نعمانی، (حصہ اول) طبع چارام، معارف پرنیں اعظم کٹھ، سندارو
- ۳۹- " " " (حصہ دوم) طبع دہم، " " " ۱۹۷۳
شبلی "بھیثت موئع"، اختر و قار عظیم، اعتقاد پیشگ ہاؤس، دہلی ۱۹۷۹
- ۴۰- شرح مسلم لمحمد بن خلیفة الابی، تصحیح محمد سالم ہاشم
- ۴۱- شرح مسلم للنحوی، رشید یہ دہلی، سندارو
- ۴۲- شرح معنی الآثار، للطحاوی (جلد ثانی) کتب خانہ رحمیہ، دہلی (فوٹو ایٹش)
- ۴۳- الصارم المسلط علی شاتم الرسول، لابن تیمیہ، تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید دارالكتب العلمیة، بیروت ۱۹۷۸
- ۴۴- صحیح البخاری، رشید یہ دہلی، ۱۹۷۸
- ۴۵- صحیح مسلم، رشید یہ دہلی، ۱۹۷۸

- الطبقات الكبرى، لابن سعد، دار الفكر، بيروت، سنه نهاده - ۵۶
- فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، مصطفى البابي الحلبي، مصر، ۱۹۵۹ - ۵۷
- فتاح البلدان للبلاذري، تحقيق عبدالله أنيس الطباع، موسسة المعارف، بيروت، ۱۹۸۷ - ۵۸
- قواعد في علوم الحديث: مولانا ظفر احمد عثمانی، تحقيق الشيخ عبد الفتاح ابوغدہ مكتب المطبوعات الاسلامية، بيروت طبع ثالث ۱۹۷۲ - ۵۹
- الكامل لابن الاثير مؤسسة التاريخ، بيروت، طبع چہارم، ۱۹۹۳ - ۶۰
- مجمع الزوائد للهیثمی، دار الكتب العربي، بيروت، طبع ثالث ۱۹۸۲ - ۶۱
- المستدرک للحاکم، تحقيق مصطفی عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية
بیروت، ۱۹۹۰ - ۶۲
- المسند لاحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت، سنه نهاده - ۶۳
- معجم البلدان للياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، ۱۹۷۹-۱۹۸۴ - ۶۴
- المعجم الكبير للطبراني، تحقيق حمدي عبد العجيد السلفي دار الاحیة
التراث العربي، طبع دوم ۱۹۸۵ - ۶۵
- المغازى للواقدى، تحقيق دكتور مارسلن جونس، عالم الكتب، بيروت، ۱۹۶۶ - ۶۶
- مولانا شبلی کامرتباہار دوادب، عبداللطیف عظی، شبلی اکاڈمی، قرول یا غردنی، ۱۹۳۵ - ۶۷
- میزان الاعتدال للذهبی، تحقيق على محمد البجاوی عیسیی البابی
الحلبی، مصر ۱۹۶۳ - ۶۸
- الہلال نکلت، مدیر مولانا ابوالکلام آزاد، جنوری ۱۹۱۳، فروری ۱۹۱۳، مئی ۱۹۱۳ - ۶۹
- یادگار شبلی: شیخ محمد اکرم، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور، طبع اول ۱۹۷۱ - ۷۰

اشاریہ

۱۸۳	اشخاص	☆
۱۹۷	کتابیں	☆
۲۰۲	غزوات اور سرایا	☆
۲۰۳	آیات	☆
۲۰۴	احادیث	☆
۲۰۵	اشعار	☆

۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳

۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۸، ۹۷، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲

۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴

۱۵۵، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱

۱۹۵، ۱۹۰، ۱۷۳، ۱۷۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶

۲۵۰، ۲۳۹، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷

۲۵۶، ۲۵۵

اشخاص:

☆ جن نمبروں کے پیچے خط کھینچا ہوا ہے، اس صفحے پر وہ نام ایک سے زائد مرتبہ آیا ہے۔

☆ حروف تجھی کی ترتیب میں "آل - طخوڑیں" ہے۔

☆ آنحضرت اقدس ﷺ کا نام ناہی کتاب میں اس کثرت سے آیا ہے کہ اس کے لیے

اشاریے کی احتیاج نہیں ہے۔ بھی صورت اشخاص میں "شلی نعمانی" اور کتابوں میں

"سیرۃ النبی" کی بھی ہے۔ اس لیے اُنہیں اشاریے میں تلاش نہ کیا جائے۔

ابن حجر : ۱۰۲، ۱۰۱، ۹۵، ۸۲، ۸۱، ۱۰۱

ابن حجر : ۱۰۲، ۱۰۱، ۹۵، ۸۲، ۸۱، ۱۰۱

ابن حجر : ۱۰۹، ۱۰۷، ۱۰۵، ۱۰۵، ۱۰۵

ابن حجر : ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴

ابن حجر : ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶

ابن حجر : ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶

(ابن)

ابن الیحیام

ابن الیختر : ۲۵۰، ۲۵۳

ابن الیشیر : ۲۰۲

ابن الاشیر الجزری : ۷۲

ابن الحلاق : ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰

ابن رشد : ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹

اشاریہ

۱۸۲

ابن سحد : ۱۰۵ ابن الحصیر : ۱۵۶ ابن متدره : ۱۳۹، ۱۷۸ ابن حشام : ۸۲، ۷۹، ۵۶، ۵۵، ۵۰، ۴۳ ابن عائذ : ۱۱۲، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۱۳، ۱۱۲ ابن معاذ : ۱۶۵، ۱۰۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۳۲، ۱۳۰، ۱۲۸، ۱۲۹ ابن ابی ایوب : ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳ (ابو) ابواصمہ الجعفی : ۲۵۳ ابوالسحاق : ۲۲۷ ابوالیوب الصاری، حضرت : ۱۹۵، ۷۶، ۳۳ ، ۲۷۰، ۲۲۳ ابوکر، حضرت : ۱۶۳، ۱۰۷، ۹۲، ۶۲، ۶۱، ۶۰ ، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۰۸، ۱۲۵ ابوکر بن داسہ : ۱۵۹ ابوکر بن زنجویہ : ۲۵۳، ۲۵۳ ابوجبل : ۱۹۱، ۱۷۲، ۹۳، ۷۸، ۷۳، ۳۹ ، ۲۰۰، ۱۹۸ ابوحاتم : ۱۰۵ ابوالحقیق : ۱۵۶، ۱۵۳، ۱۵۳ ابوداود، امام : ۱۵۳، ۱۵۰، ۱۳۸، ۱۲۷، ۵۰ ، ۲۷۳، ۲۷۳، ۲۳۱، ۱۸۲، ۹۵ ابن ائمہ : ۱۶۴، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷	ایک سحد : ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۶۲، ۰۵۲، ۰۵۰ ، ۸۷۰، ۸۵۰، ۸۳۰، ۸۲۰، ۸۱۰، ۸۰۰، ۷۹۰، ۷۸۰ ، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۵، ۹۳، ۹۱، ۹۰، ۸۹ ، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۲ ، ۱۶۵، ۱۰۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۳۲، ۱۳۰، ۱۲۸، ۱۲۹ ، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳ ، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۲۹، ۲۳۸، ۲۳۸ ابن سلمہ : ۱۰۵ ابن سید الناس : ۲۵۶ ابن سینا : ۲۱ ابن الصلاح، حافظ : ۲۶۳ ابن عائذ : ۲۲۳، ۱۶۵، ۸۳ ابن عبد البر : ۱۶۷، ۱۲۲، ۱۳۵، ۱۲۲، ۷۹ ، ۲۵۳، ۲۵۳ ابن العربي، ابوکر، قاضی : ۲۱۵ ابن المرقہ : ۲۳۱، ۲۳۰، ۱۳۳ ابن الحلاء=محمد بن العلام ابن عساکر : ۱۰۶ ابن حوف : ۱۲۳ ابن ائمہ : ۲۷۳، ۲۷۳، ۲۳۱، ۱۸۲، ۹۵ ابن کثیر، حافظ : ۲۰۵، ۱۹۸، ۸۷، ۷۰
---	---

ابوالکلام آزاد، مولانا: ۱۳۸، ۳۱	ابودجاش، حضرت: ۱۶۵
ابولہب: ۳۹، ۳۸	ابورافع، حضرت: ۷۶، ۳۹
ابومصعب: ۱۰۸	ابورافع، بن ابی الحقین: ۱۳۵، ۱۳۳، ۱۵۵
ابومعاذ الشاھ المرزوqi: ۷۷	ابوسعید خدراوی، حضرت: ۱۳۱، ۱۲۰
ابوموسی اشرفی، حضرت: ۱۶۲	ابوسفیان، حضرت: ۲۳۱، ۲۳۰
ابوناکلہ، حضرت: ۲۲۱	ابوحنفیاں، حضرت: ۲۲
ابونصر کلابازی: ۱۵۸	ابوحنفیاں، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۹۲، ۸۲، ۸۳
ابوقشم: ۲۲۵	ابوسلی، حضرت: ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۵، ۱۹۳
ابوہریرہ، حضرت: ۱۰۱	ابوطالب: ۳۸، ۳۷، ۶۱، ۶۹، ۶۲، ۷۱، ۵۸، ۵۷
	۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲
(ام)	ابوعلی، حضرت: ۲۷۰
ام ابراہیم = ماریہ قبطیہ	ابوعلام، حضرت: ۸۲
ام حبیبہ، حضرت: ۲۶۰	ابو عاصم: ۲۷۰
ام حکیم، حضرت: ۹۳	ابو عبس بن جبر، حضرت: ۲۲۱
ام سلمہ، حضرت: ۷۶، ۲۵۲، ۲۲۳	ابو عبیدہ: ۷۹
	ابو عزیز: ۷۹
(ت)	ابو علی الروزباری: ۱۵۹
آزاد = ابوالکلام	ابو عون: ۸۳
آمنہ بنت وہب: ۲۲۰، ۲۹، ۶۸	ابوقتادہ بن ربعی، حضرت: ۱۳۵
(الف)	ابوقلاپ: ۱۲۹، ۸۵
ابان بن صالح، امام: ۹۳	

ابو الحسن، حضرت: ۱۳۵	اسود الخزائی، حضرت: ۱۳۵، ۲۷، ۳۱، ۳۸، ۴۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴
اسیر اوروپی، نظام الدین، مولانا: ۹	
اشعف بن قیس، حضرت: ۱۰۱	
اقبال، علامہ: ۲۱	ابراهیم الحبیبی: ۲۱۰
امین احسن اصلاحی، مولانا: ۱۸۰	ابراهیم بن حماد: ۱۶۰
امیر بن خلف: ۱۹۱	ابراهیم بن یوسف بن محمد حبیبی: ۲۰۳
انس، حضرت: ۸۱، ۱۹۰	الابی محمد بن خلیفہ: ۲۱۷
	احمد بن حنبل، امام: ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶
انوکھود خالد، ڈاکٹر: ۱۱۰	
ایوب: ۱۲۹	
(ب)	
بانی: ۲۲۸	احمد محمد شاکر شیخ: ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴
بخاری: ۱۱۰، ۵۸	اختر وقار عظیم: ۱۱۱
بخاری، امام: ۱۱۸، ۱۰۸، ۱۰۴، ۱۰۳، ۲۰۰، ۵۰	اعض بن شریق: ۳۹
	ازدی: ۱۷۳، ۱۰۸
	اسامة بن زید، حضرت: ۱۰۲
	اسحاق، حضرت: ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵
	اسحاق کلتوی، مولانا = محمد اسحاق
اسحاق، حضرت: ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰	براء بن عاذب، حضرت: ۱۳۳، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰
البرقانی: ۱۵۳	اسحاقی، حضرت: ۱۳۶
البرقی: ۱۲۶	اسناونہ بنت یزید، حضرت: ۳۱۵
برہان الدین سنبھلی، مولانا: ۱۱۰، ۲۳۹، ۲۴۰	اسود: ۲۶۹

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ	محلہ: ۲۰۷
مولا نا شبل جیشیت سیرت نوار	۲۰۷
ترمذی، امام: ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۹۵، ۱۴۵، ۱۳۰	بریدۃ، حضرت: ۲۱۱، ۲۱۰
ثابت: ۲۰۳	بریدۃ بن الحصیب: ۱۲۵، ۱۲۳
ثابت قیس، حضرت: ۱۷۳، ۱۷۲	بریدۃ بن سفیان: ۵۰
ثابت بن وقہ، حضرت: ۲۱۸	بزار: ۱۰۶
(ج)	بُحیرہ: ۲۰۲، ۲۰۱
جاہر بن عبد اللہ، حضرت: ۱۴۷، ۱۶۶، ۱۳۲	بیش بن سعد: ۹۹
جاحظ: ۲۲۸	بغوی: ۲۰۲، ۱۷۳، ۱۰۸
جیبریل: ۸۷	بکائی = زید البکائی
جر جانی، شیخ عبد القاهر: ۱۱	بکر بن عبد الرحمن، قاضی کوفہ: ۱۵۲، ۱۵۱
جعفر طیار، حضرت: ۲۲۶، ۲۲۵	بلاذری: ۷۷، ۱۳۸، ۱۵۰، ۱۵۱
جویریہ، حضرت: ۷۲، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۲۹	بلال، حضرت: ۹۲، ۷۱، ۲۰، ۳۵
(ج)	بلقینی: ۲۶۵
حارث بن ابی ضرار: ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۱	بندار: ۲۳۹، ۲۰۹، ۱۰۹
تیلی، امام: ۱۲۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳	بنیہ بن وہب: ۷۹
حارث بن عییر، حضرت: ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۵	بندرہ بن فراس: ۷۵
حارث بن نہمان النساري، حضرت: ۲۱۳	بنیل، امام: ۱۲۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴
حاطب بن ابی بکر، حضرت: ۲۰۳	بنیل، امام: ۱۲۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳
حافظ شیرازی: ۲۲۰، ۲۱	بنیل، امام: ۱۰۹، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵
(ت، ث)	بنیل، امام: ۲۵۶، ۲۲۷

حکم بن عبد الملک: ۹۵	حاکم، ابو عبد اللہ: ۵۹، ۱۷۶، ۲۲۷، ۲۰۳، ۱۵۸، ۱۲۷
حکیم بن حزام: ۷۰، ۷۳، ۷۸	حال، الطاف حسین: ۳۲
حکیم بن سدیه، حضرت: ۲۱۹، ۲۲۰	حباب بن منذر، حضرت: ۷۸، ۹۰، ۸۱
حماد بن سلمة: ۲۰۲، ۱۵۳	حبان بن علی: ۷۲
حمدی عبد الجید الشفی: ۱۵۸	جیب ثقی: ۴۳
هزہ، حضرت: ۱۷۵، ۹۳، ۸۲، ۷۲	جیب الرحمن الاعظمی، حضرت مولانا: ۲۲، ۲۲
حموی، یاقوت: ۹۰، ۸۹، ۳۳	حجر بن عفس: ۱۲۳
حیدر الدین فراہی، مولانا: ۱۸۲، ۱۸۰	حدیقة: ۶۹
حظله، حضرت: ۸۲	حدیثہ بن الیمان، حضرت: ۲۱۹
حوریث بن نقیذ بن وصب: ۱۷۰	حرب بن امیر: ۶۹
حسی بن اخطب: ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۵، ۸۸	حسان، حضرت: ۲۶، ۱۷۶، ۲۰۳
(خ)	حسن، حضرت: ۲۱۱
خالد بن الولید، حضرت: ۱۰۰	حسین، حضرت: ۲۱۱
خباب، حضرت: ۷۲	حسین بن عبد اللہ: ۱۰۲
خدیجہ الکبری، حضرت: ۷۰، ۷۳، ۷۲	حسین بن محمد الدیار بکری: ۱۳۳
خراطی: ۱۳۲، ۱۳۹	حسین بن محمد زیاد القبائی: ۱۵۹، ۱۵۸
خرڑا امیر: ۲۳۷، ۸۸	حسین بن والقد: ۲۳۱، ۲۱۱، ۲۱۰
خلیل احمد سہار پوری، مولانا: ۱۶۸، ۱۵۹	حسین بن عبد الرحمن: ۸۰
خیشہ بن سعد، حضرت: ۷۹	خصبہ، حضرت: ۲۰۴، ۲۰۵
(د ڈ ڈ)	حفظ الرحمن سید ہاروی، مولانا: ۱۳
	حکم: ۱۵۲

زید بن سکن، حضرت:	۳۶	دارقطنی، امام:	۲۱۰، ۱۷۱، ۱۶۰، ۵۰
زید بن ارقم، حضرت:	۲۲۷	دحیہ کلبی، حضرت:	۹۹
زید بن ثابت، حضرت:	۲۶۶، ۲۵۲، ۲۵۳	دریابادی = عبدالماجد	
	۲۷۰، ۲۵۵	درید بن الصمعة:	۹۵، ۹۳
زید بن حارث، حضرت:	۹۹، ۲۲۷، ۲۳۶، ۲۲۵	ڈرپر:	۵۹
زین الدین، حفظ شیعی:	۷۴۵، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۶۰، ۵۰	(ر)	
زید بن حباب:	۷۷۷، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷	رافع بن خدقج:	۸۱
	۲۱۱، ۱۰۸، ۱۰۸، ۹۵، ۷۴۳	رائی بن ابی الحتن:	۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۲، ۱۳۹
زید بن حصیب:	۱۲۲	رہیم بن رفیع، حضرت:	۹۵
زینب بنت جمیل، حضرت:	۷۶	زبرقان:	۲۱
زین الدین = عراقی		زیرین بن بکار:	۷۰
زین العابدین، عطی، مولانا:	۱۱، ۲۳۳، ۲۳۲	زیرین بن الهمام، حضرت:	۱۵۰، ۱۳۹، ۱۳۸
	۲۵۰، ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۲۳	زیری - ایم - ایم:	۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۱
(س)		زیری - ایم - ایم:	۸
ساعی بن عوف، حضرت:	۹۰	زرقانی:	۱۳۶، ۱۳۵، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶
سقاوی، شیعی:	۳۹	زہری، امام:	۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰
سراقہ بن حشم:	۲۲۶، ۲۲۷	سخنیں ابی وفا، حضرت:	۲۱۳، ۲۰۳، ۱۹۹، ۱۹۷
سخنیں احمد خاں:	۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸	زیاد بن سعید، حضرت:	۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳
سخنیں ابی وفا، حضرت:	۲۱۳، ۲۰۳، ۱۹۹، ۱۹۷	زیاد البرکانی:	۱۰۵، ۱۰۴
سخنیں عبادہ، حضرت:	۹۰، ۸۶، ۸۱، ۷۲		
	۲۲۳		

سعد بن معاذ، حضرت:	۲۲۸	سکل بن سعد:	۲۶۲، ۸۲، ۸۱، ۱۳۲
سکل بن عمر:	۷۹	سکل بن عمر:	۱۳۳، ۱۶۶، ۱۶۷، ۲۲۳، ۲۲۱، ۲۰۰، ۱۹۰
الصلحی، ابوالقاسم:	۱۷۶، ۱۴۶، ۱۰۳	الصلحی، ابوالقاسم:	۲۲۰، ۲۲۹
سیرین:	۲۰۲، ۲۰۳	سعود عالم قاسی، مولانا:	۲۵۵، ۲۵۲
السيوطی:	۱۰۸	سعید بن عبد الرحمن بن حسان:	۹۳
(ش)		سعید بن یربوؑ اخزوی، حضرت:	۱۵۸، ۱۶۰
شافعی، امام:	۲۳۳، ۱۱۲	سلام بن ابی الحقیق = ابو رافع	۱۶۲، ۱۶۱
شبیر احمد عثمنی، علامہ:	۱۸۵، ۱۳۷، ۱۷، ۱۳	سلکان بن سلامہ، حضرت:	۲۲۱
شرحبیل بن ععروؑ:	۹۱، ۱۸۸، ۱۸۷	سلمہ ابرش:	۱۰۵
شعبۃ:	۱۲۹	سلمہ بن الاؤع، حضرت:	۲۳۱
شعی:	۷۲	سلیمان بن ابان:	۸۰
شوکانی:	۲۷۰	سلیمان بن بریدۃ:	۲۱۰
شهر بن حوش:	۲۷۷	سلیمان ندوی، مولانا سید:	۱۷، ۵۳، ۵۲، ۱۷
شیبہ:	۱۷۵، ۱۹۱	شیبہ:	۸۹، ۹۳، ۹۷، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۲۱، ۱۳۲، ۱۳۵
شیرانی، حافظ محمود:	۲۰	سرہ بن جنذب، حضرت:	۲۵۵، ۱۳۶، ۱۷۳، ۱۶۰
شیماہ، حضرت:	۹۵	سمیہ، حضرت:	۸۱
(ص، غ)		سودہ، حضرت:	۷۲
صابوی:	۲۶۳	سودہ، حضرت:	۷۹، ۷۶
مباح الدین عبد الرحمن:		سوید بن صامت:	۷۵
صدیقی، ڈاکٹر عبدالستار:	۲۲، ۲۱	سُویلِم:	۹۷

عبدالله بن مسعود، حضرت: ۲۲۹، ۲۰۰	عبدالله بن أبي
عبدالملك بن عبد: ۲۵۳	عبدالله بن أبي الابیض: ۱۳۰
عبدالماجد ریاضادی: ۳۸	عبدالله بن ابی کبر بن حزم: ۱۰۲، ۱۰۱، ۸۹
عبدالمعطی قلچی: ۲۲۵	عبدالله بن ابی حدرہ: ۹۳
عبدالمطلب: ۳۸	عبدالله بن احمد بن خبل: ۲۱۱، ۲۱۰
عبدالملک بن مروان: ۱۷۳، ۸۰	عبدالله بن بریدہ: ۲۳۱، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹، ۱۰۹
عبدمناف: ۶۸	عبدالله بن جحش: ۱۷۶، ۱۷۱
عبدیل شقی: ۷۳	عبدالله بن جعفر الرقی: ۱۲۹
عبدیل، حضرت: ۷۷	عبدالله بن ریبیعہ: ۲۲۱
عبدالله بن عمر: ۱۵۳	عبدالله بن رواحہ، حضرت: ۲۲۵، ۱۳۳
عبدیدة بن الجراح، حضرت: ۱۷۵	۲۲۸، ۲۲۷
عتاب بن اسید: ۹۲	عبدالله بن زبیری: ۹۳
عبدیل عباس، حضرت: ۱۱۹، ۱۰۲، ۱۲۹، ۱۷۱، ۹۳، ۷۸، ۷۱، ۷۵	عبدالله بن عباس، حضرت: ۱۷۵، ۱۷۱، ۹۳، ۷۸، ۷۱، ۷۵
شقیق احمد قاکی، مولانا: ۲۵۷، ۲۵۵	۱۹۸، ۱۹۵، ۱۹۳، ۱۹۰، ۱۵۲، ۱۳۳، ۱۲۰
ثان بن عبد الرحمن آخر وی: ۱۶۱	۱۹۲، ۱۷۰، ۲۶۹، ۲۵۲، ۲۵۰، ۲۲۹
ثان غنی، حضرت: ۷۷، ۷۶	عبدالله بن عبدالمطلب: ۶۸
عرائی، زین الدین، حافظ: ۵۱، ۱۱۱، ۱۱۸	عبدالله بن عقیک، حضرت: ۲۳۰، ۱۲۵
عروہ بن زبیر: ۴۶، ۹۳، ۸۰، ۷۸، ۷۳	عبدالله بن عمر، حضرت: ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۵
۱۳۰، ۱۳۲، ۱۵۵، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴	۲۰۵، ۱۵۳، ۱۵۰، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۲۶
۲۲۹، ۲۲۰، ۲۲۹، ۱۹۸	عبدالله بن عمرو: ۱۲۹
	عبدالله بن کعب بن مالک: ۸۶، ۸۰

عمر بن عثمان الحروی: ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹	عمرودہ بن مسعود: ۹۵
۲۵۳، ۱۶۲، ۱۶۱	عمرینہ: ۱۶۵
عمر بن عبد العزیز بن عمر بن قارہ: ۱۵۹	عطاء بن ابی رباح: ۲۱۳
عمر و بن الحضری: ۱۷۲، ۱۷۳	عطارڈ بن حاجب، حضرت: ۱۷۳
عمر و بن قود: ۷۷	عفان بن مسلم: ۱۵۳، ۱۵۲
عییر بن وهب: ۹۳	عکرمہ: ۲۵۱، ۱۷۰، ۱۳۴، ۹۲
عوف: ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۳۹، ۲۰۹، ۱۰۹	عکرمہ بن ابی جہل، حضرت: ۹۳
عوان بن عمر: ۱۰۸	علام الحضری، حضرت: ۱۰۰
عیسیٰ، حضرت: ۳۶	علیاء بن احمد الشکری: ۲۱۳
علی، حضرت: ۱۵۲، عیسیٰ بن الخطاب الانصاری: ۱۵۲	علی، حضرت: ۱۷۱، ۱۵۰، ۳۹، ۳۳، ۳۲، ۲۹
عینی، بدر الدین، علامہ: ۱۱۹، ۱۱۳	علی بن احمد فروخ: ۵۰
عینیہ بن حسن فزاری: ۸۶	علی بن حرب الموصی: ۱۶۰، ۱۵۸، ۱۵۷
(غ)	علی بن المدینی: ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۰۵
غالب، اسد اللہ خاں، مرزا: ۱۰	غمار، حضرت: ۷۹، ۷۲، ۳۵
غزالی، امام: ۲۷۶	عمارۃ بن حزم، حضرت: ۳۲۳، ۷۶
غیلان بن سلمہ: ۹۵	عمر، حضرت: ۱۹، ۲۷، ۸۷، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۰، ۹۲، ۹۰
(ف، ق)	فخر الدین احمد، مولانا، سید: ۱۳۵
قاروئی، شمس الرحمن: ۱۹	فرنگی: ۱۷۰
فاطمہ، حضرت: ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۵، ۱۵۳، ۱۵۳	عمر بن ابی سلمہ: ۱۵۳
فخر الدین احمد، مولانا، سید: ۱۳۵	عمر بن ابی سلمہ: ۲۶۷، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۴

اشاریہ

۲۹۳

کنانہ بن ابی الحتیق: ۱۱۳، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹

(م)

مارگیلوس: ۵۹

ماریہ قبطیہ (ام ابراہیم) حضرت: ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵

مالک: ۹۸

مالک، امام: ۱۰۳

مجالد: ۷۲

مجیب الغفار، مولانا: ۲۵۸، ۲۵۹

محمد ادریس کاندھلوی، مولانا: ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹

۲۳۲، ۱۸۲

محمد الحسن کلتوی، مولانا: ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸

محمد اکرم، شیخ: ۱۱۰

محمد بدر عالم پیرنگی، مدفی، مولانا: ۲۶۳

محمد تقی عثمانی، مولانا: ۲۱۶

محمد بن احمد زکریا الاریب: ۱۵۹

محمد بن عبد الرحمن بن ابی سلی: ۱۵۲

محمد بن عبد الرحمن مولی آل طلحہ: ۱۲۹

محمد بن العلاء، ابوکرب: ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰

۱۶۰

فضل: ۱۰۲

فضل بن دکین: ۲۱۳

قاسم بن عثمان: ۷۲

قیادہ: ۲۱۲، ۱۹۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۹۵، ۹۳، ۹۲

کم: ۱۰۲

قس بن ساعدہ: ۲۳۵، ۱۷۴، ۱۰۸

قطلانی: ۱۰۳

قسیم بن عاصم المقری: ۱۷۶

(ک)

کرزہری: ۱۹۷

کرمائی، شمس الدین: ۱۳۲

کربیب: ۱۲۹

کسری: ۸۸

کعب بن اشرف: ۸۳، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳

۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۷، ۲۱۵

کعب بن عمیر، حضرت: ۱۰۰

کعب بن مالک، حضرت: ۲۰۰، ۱۷۱، ۱۳۵

الکلائی: ۸۷

کلبی: ۱۳۲، ۸۳، ۷۷، ۶۸

کثوم بن ہرم: ۶۷

کنانہ: ۸۹

محمد بن کعب القرطی: ۷۷	۸۴، ۷۵، ۷۳
محمد بن مسلم، حضرت: ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۱۸، ۵۰	۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۶، ۲۱۳، ۱۵۶، ۱۵۳
متوس: ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۳، ۸۹	۲۱۹، ۲۱۸
مقیس بن صبایہ: ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸	۱۳۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۳۹
محمود بن مسلم، حضرت: ۲۷۲، ۲۶۸	۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸
منذر بن شبلہ: ۲۱۳	۱۵۶، ۱۵۵
منذر بن سادی: ۱۰۰	۲۰۸، ۱۱۸، ۵۰، ۳۹
منھال بن عمرو: ۱۷	۱۷۱، ۱۷۰
موی، حضرت: ۱۳۵، ۱۳۲، ۳۱	۷۳
موی بن عقبہ: ۵۰، ۵۰، ۷۳، ۱۰۱، ۱۱۸، ۱۶۵	۲۱۳
مسلم بن جاج، امام: ۲۵۶	مسلم بن ابریم:
موی بن قیس الحضری: ۲۱۳	۲۷۶، ۲۵۵، ۲۲۵، ۲۱۰، ۱۶۵
موی بن ہارون: ۱۵۷	۱۶۲، ۱۲۱، ۱۲۰
میر، محمد تقی: ۹	۲۰۳
میمون، حضرت: ۷۶	مصعب بن عییر، حضرت: ۷۹، ۷۸، ۳۲
(ن)	مطر الوراق: ۷۷
نافع: ۱۵۳، ۱۲۳	مطعم بن عدی: ۷۳، ۳۶
نجاشی: ۱۱۸، ۸۸	معاذ بن اشٹی: ۱۵۷
نسائی، امام: ۱۰۵، ۱۶۵، ۲۲۹	معاویہ، حضرت: ۱۱۱، ۹۳، ۸۸
نصر بن حارث: ۳۹	معن بن عدی: ۹۸
نصر بن کنان: ۶۸	مسیم الدین الحمدندوی، شاہ: ۱۱۰

اشاریے

ہرقل: ۱۷۶، ۲۲۷، ۲۲۸	نعت اللہ عظیٰ، مولانا: ۱۱، ۱۳
ہشام بن حروه: ۲۲۰، ۲۲۹	نوفل: ۲۲۳، ۹۲، ۸۷
ہشام بن محمد: ۷۰	نوفل بن معاویہ: ۹۶
ہمند/ہندہ: ۹۳	تووی، امام: ۲۶۵، ۲۱۷، ۲۱۵ (و)
ہودہ بن قیس: ۸۹	والقدی، محمد بن عمر: ۵۰، ۵۱، ۷۰، ۱۹، ۲۸، ۱۴
(ی)	رشم البرکات: ۱۱۳، ۶۴
یاسر، حضرت: ۷۲، ۳۵	۱۰۵، ۱۰۳، ۱۰۲، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۵، ۹۳
یاقوت=جوی	۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۱۰۹
یحییٰ بن عبد اللہ: ۷۹	۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۱۰۹
یحییٰ بن مسیم: ۱۰۸	۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۱۰۹
یزید بن ابی جبیب: ۸۸	۱۰۲، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴
یزید بن ابی عبید: ۲۳۱	درقة بن نوبل: ۱۳۶، ۱۳۲، ۱۳۹
یزید بن رومان: ۹۸، ۸۳	ولید: ۱۷۵
یزید بن عبیدالسعدی: ۹۵	ولیم سیور: ۵۹
یعقوب بن سفیان: ۲۵۷، ۲۵۳	ولی اللہ دہلوی، شاہ: ۳۵
یعقوب بن عقبہ بن مغیرہ: ۷۱	(ه)
یعقوبی: ۷۷، ۸۲	ہاجرہ، حضرت: ۱۸۳
یوسف، حضرت: ۱۷۹	ہارون، حضرت: ۱۸۳
ایمان، جسین بن جعفر، حضرت: ۲۱۹، ۲۱۸	ہاشم: ۲۳۶۸
	ہالہ: ۶۸

انساب الاعراف: ۷۶

البيان الحنفی: ۱۳۶، ۴۷۵

(ب)

المدرسة والنهجية: ۷۰، ۷۲، ۷۴، ۷۶، ۷۸، ۸۷، ۸۹، ۹۰

خواری=جع خاری

بذل الجهد: ۱۴۸، ۱۰۹

بواز الخواری: ۷۶

ثین الامان مسلم الدارقطنی: ۲۱۰

(ت)

تراث الاسلام: ۱۱۷، ۹۵، ۷۳، ۷۲

تراث عُصیس: ۱۱۱، ۸۹، ۸۷، ۸۶، ۸۳، ۸۲

تراث دمشق: ۲۲۳، ۱۷۵، ۱۳۳، ۱۰۳

تراث دمشق: ۶۶

تراث طبری: ۱۷۵، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۲۲، ۲۹

۱۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۰، ۷۹، ۷۸

۱۰۸، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۰، ۹۷، ۹۵، ۹۳، ۹۲، ۹۰

۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲

تراث عجمی: ۷۷، ۲۲، ۸۳

ترجمان النبی: ۲۶۷، ۲۶۳

ترمذی=جامع ترمذی

الفرد: ۱۳۳

کتابیں

(الف)

آپ ہی: ۷۸

ابن عساکر=تاریخ دمشق

ابن ماجہ=سنن ابن ماجہ

ابوداؤد=سنن ابو داؤد

الاجوبۃ الفاضلۃ: ۲۶۹

احیاء العلوم: ۲۷۶

الادب المفرد: ۲۲

اردو نشریں سیرت رسول: ۱۱۰

الاستدراکات والتعقیع: ۲۱۰

الاستیهاب: ۱۰۳، ۱۰۲، ۷۹، ۲۲

اسد الغائب: ۱۰۳، ۱۰۲، ۲۲

الاشرف والمتبری: ۲۲

الاصابة: ۲۲، ۲۰، ۷۰، ۷۳، ۷۲، ۸۰، ۹۵

۱۰۱، ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵

۱۰۵، ۱۰۵، ۱۰۵

اسع المسیر: ۱۲۳، ۱۲۴

الاكتفاء: ۷۷

إكمال إكمال المعلم: ۱۱۱

زرقانی=شرح المواهب اللدنیہ	(ج، خ)
زارالمعاد: ۲۱۶، ۱۲۶، ۱۰۱، ۶۶، ۳۵	محبم دلائل و براین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ
روضۃ الاحباب: ۲۲۳	مجید الشاذلی: ۲۵
الروض الانف: ۱۷۶، ۱۰۳، ۶۶	جامع السیرۃ: ۱۳۶
روح المعانی: ۱۸۷	جزء القراءۃ: ۱۰۳
الرفع والتمیل: ۲۶۱	جزء ابی شاہ المرزوqi: ۲۷۶
الرأی الصحیح فیمن هو الذیع: ۱۸۰	الجرح والتعديل: ۱۶۱
(ر، ز)	۲۷۰، ۲۱۵، ۲۱۱، ۱۹۶، ۱۹۵
ذیع کون ہے؟ ۱۸۰، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵	جامع ترمذی: ۲۰، ۲۱۶، ۱۲۶، ۱۳۲، ۶۶
۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۵	جامع البیان: ۱۱، ۹۸، ۱۷۸
۲۳۲، ۲۲۵، ۲۰۲	تہذیب التہذیب: ۱۶۰
دلائل النبوة للبیقی: ۱۰۱، ۹۰، ۷۳	تہذیب الکمال: ۱۵۹، ۶۱
دلائل النبوة للبیقی: ۲۲۵	تورات: ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۷۹، ۱۷۸
دلائل الایجاز: ۱۱	تہذیب التہذیب: ۱۵۹، ۶۱
درس بخاری: ۱۳۷	تہذیب التہذیب: ۱۵۹، ۶۱
الدرری فی اختصار المغازی والسریر: ۱۳۵، ۱۲۶	تہذیب التہذیب: ۱۵۹، ۶۱
دارقطنی=سنن دارقطنی	تہذیب التہذیب: ۱۵۹، ۶۱
(و، ذ)	تہذیب التہذیب: ۱۵۹، ۶۱
الخیس=تاریخ الخیس	تہذیب التہذیب: ۱۵۹، ۶۱
تکملہ حملہم: ۲۱۶	تہذیب التہذیب: ۱۵۹، ۶۱
تقریب العہد یہ: ۲۱۳، ۱۵۷	تہذیب التہذیب: ۱۵۹، ۶۱
تفصیر ابن کثیر: ۲۰۵، ۹۸	تہذیب التہذیب: ۱۵۹، ۶۱
تفصیر طبری=جامع البیان	تہذیب التہذیب: ۱۵۹، ۶۱

(شیلی بحیثیت مؤرخ: ۱۱۱)

شرح معانی الآثار: ۱۲۲، ۹۲

شرح سالم للدوی: ۱۱۸، ۱۲۷

شرح المواهب اللدنیہ: ۱۰۳، ۲۲، ۱۷۵

۲۶۲

شرح تجیب: ۲۶۳

شعر الجم: ۳۵، ۴۰

شمائل ترمذی: ۱۶۵، ۲۲

(م)

الصارم المسلول: ۲۲۳

صحیح ابن حبان: ۱۶۷، ۱۶۶

صحیح بخاری: ۲۱، ۲۰، ۱۰، ۱۷، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹

۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴

۱۶۵، ۱۶۶، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳

۱۹۲، ۱۹۳، ۱۷۵، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۷۶، ۱۷۷

۱۷۸، ۱۷۹، ۱۷۩، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸

۱۷۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶

۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴

۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۷۲

۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۷۰

(ب)

(س)

سنن ابن ماجہ: ۲۲۲، ۲۱۱، ۲۲

سنن ابی داود: ۲۲۲، ۲۲۳، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵

۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷

۲۷۰، ۲۷۳، ۲۱۵

سنن دارقطنی: ۱۷۱، ۱۷۰، ۲۲

سنن داری: ۲۲۲

سنن سعید بن منصور: ۱۳۶

سنن الکبری للبیهقی: ۱۲۷، ۱۲۳

سیر اعلام العلاماء: ۲۱۱، ۱۵۸

سیرۃ ابن اسحق: ۱۹۰، ۱۱۷، ۱۰۰، ۲۲۳

سیرۃ ابن بشام: ۱۷۵

۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۷، ۱۷۵، ۱۷۳، ۱۷۲

۱۷۱، ۱۷۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴

۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۸، ۹۶، ۹۵، ۹۴

۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰

۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳

۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵

۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰

۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱

۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲

۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰

(ش)

کتاب المغازی للوادی: ۷۸	طبرانی: ۱۹۵، ۶۶
طبقات ابن سدر: ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۸۲، ۸۰، ۸۳، ۸۳، ۸۲، ۸۱	طبقات ابن سدر: ۷۰، ۷۹، ۷۸، ۷۴، ۷۰
۹۰، ۸۹، ۸۷، ۸۲، ۸۰، ۸۳، ۸۳، ۸۲، ۸۱	۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۴، ۷۰، ۷۳، ۷۲
۱۰۳، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۳، ۹۱	۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۰، ۸۹، ۸۷، ۸۲، ۸۰، ۸۳
۱۲۶، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۳	۱۲۶، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۰، ۱۲۹
۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳	۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۰، ۱۱۰، ۱۰۰، ۹۹
(م)	۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳
ماشیت من النبی: ۷۴	۱۵۰، ۱۵۰، ۱۵۰
مجموع الزواائد: ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹	طحاوی=شرح معانی الآثار
مجموع الفتاوى: ۲۶۳، ۲۶۵، ۲۶۰، ۲۶۴	(ع، ف، ق)
السفر: ۲۰۶	الحدائق: ۶۶
فتح الباری: ۸۳، ۸۲، ۸۳، ۸۲، ۸۰، ۵۰	فتح الباری: ۸۳، ۸۲، ۸۳، ۸۲، ۸۰، ۵۰
مسند احمد: ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸	مسند حاکم: ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷
۱۲۷، ۱۲۳، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴	۱۲۷، ۱۲۳، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴
۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳	۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳
۱۲۹، ۱۲۸	۱۲۹، ۱۲۸
فتح المغیث: ۲۶۸	فتح المغیث: ۲۶۸
مسند ابو جعیل: ۱۰۷	فتح البلدان: ۶۶، ۷۷، ۱۰۳، ۱۰۴
مسند امام شافعی: ۱۱۳	قاموس: ۸۷
مسند بزار: ۱۰۸	قواعدی علوم الحدیث: ۲۱۲
مسند دارابی: ۶۶	(ک، ل)
مسند طیلی: ۶۶	اکافی: ۱۰۳، ۷۲
مسند عبد بن حمید: ۱۰۲	کتاب طبقات: ۱۷۱

(ن، و، ی)

نسلی: ۲۲، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰

۱۷۰، ۱۷۱

شیم الیاض: ۶۶

نووی شرح مسلم: ۵۰

شیل الادطار: ۲۷۰

وقاء الوقاء: ۶۶

یادگار شبلی: ۱۱۰

یعقوبی = تاریخ یعقوبی

مند ششم بن کلیب: ۲۰۵

مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۰۲

صحابہ المتریل: ۲۵۵، ۳۹

بیجم البلدان: ۱۰۳، ۹۰، ۸۹، ۷۷، ۱۱۶، ۳۳

اسعیم الکبیر: ۱۵۸، ۱۵۷

السرفۃ لابن منده: ۱۳۰، ۱۲۹

مخازی ابن عائذ: ۲۲۳

المخازی لعرفة: ۷۳

مخازی موسیٰ بن عقبۃ: ۱۳۹، ۱۰۱

مخازی واقدی = کتاب المخازی للواقدی

المغزی عن حمل الاسفار: ۲۷۲

القصاص الحکیم: ۳۹

مقالات صدیقی: ۲۲

مقدمہ ابن الصلاح: ۲۶۵، ۲۶۳

منهج الحسین: ۲۶۸

موازیہ انس و دیر: ۲۳

الموضوعات الکبیر: ۲۷۲، ۲۶۸

المواهب اللدنیہ: ۱۰۸، ۱۰۳

مولانا شمسی کا ہر تبار و دو ادب میں: ۱۱۱

میزان الاعتراض: ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵

غزوہ ذی قرد: ۱۴۵، ۱۱۸، ۸۹	غزوہ اور سرایا:
غزوہ سویق: ۸۰	غزوہ احمد: ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۱۸، ۱۶۵، ۸۱، ۸۰
غزوہ طائف: ۹۳	۲۵۲، ۲۵۳
غزوہ شکر کے: ۹۲، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۴۲، ۱۴۳	غزوہ احزاب = غزوہ خندق
۲۵۱، ۲۵۰، ۲۳۶، ۲۲۳، ۱۷۰، ۱۶۵	غزوہ اوطاس: ۹۵، ۹۳
غزوہ موقت: ۹۱	غزوہ بدر: ۸۲، ۸۳، ۸۰، ۷۸، ۳۲، ۲۹
غزوہ سریسج: ۹۹	۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۳، ۱۹۰، ۱۸۵، ۱۷۵، ۱۷۲، ۱۷۱
سریہ ابن ابی انس: ۸۲	۲۵۳، ۲۳۶، ۲۲۳، ۲۰۱، ۱۹۰، ۱۹۹، ۱۹۸
سریہ ابو علی: ۸۲، ۸۲	غزوہ بنو سعیم: ۹۹
سریہ اسیر بن رزام: ۸۹	غزوہ بنو حیان: ۹۹
سریہ بشر بن سعد: ۹۹	غزوہ میتی قریظہ: ۸۷
سریہ خالد بن الولید جاسب بن خزیم: ۱۰۰، ۹۹	غزوہ امقطان: ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۴، ۸۵
سریہ زید بن حارثہ جاسب ام قرفہ: ۹۹	غزوہ تبوک: ۲۰۰، ۹۷
سریہ زید بن حارثہ جاسب حبیبی: ۹۹	۲۲۱، ۲۰۳، ۱۳۷، ۱۳۶، ۹۳، ۲۹
سریہ عبد اللہ بن انس: ۹۸	غزوہ خندق: ۲۲۲
سریہ عکاشہ: ۹۹	۲۲۸، ۲۲۳، ۱۶۵، ۱۳۲، ۸۶
سریہ علی بن ابی طالب جانب ذکر: ۹۹	۲۳۰، ۲۲۹
سریہ عمر بن الخطاب جانب ترب: ۱۰۰	غزوہ خیبر: ۱۱۸، ۳۳
سریہ غطفان: ۹۸	۱۱۸، ۳۹، ۹۰، ۸۹، ۳۹، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۳، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۰۱، ۱۳۸
سریہ کعب بن عسیر جانب ذات طلاح: ۱۰۰	غزوہ دوستہ الجہد: ۹۹، ۸۵
	غزوہ ذات الرقائع: ۹۸، ۸۳

آیات:

- یا ابراہیم قد صدق الرؤیا الخ: ۱۷۸، ۲۴
 انکم و ماتعبدون حصب جهنم: ۳۰
 ویرونهم مثلیهم رأی العین: ۳۱
 ان نحن إلا بشر مثلكم: ۱۳۱
 فلما ذهب عن ابراہیم الروع: ۱۳۵
 وأوجس منہم خیفة: ۱۳۵
 وأوجس فی نفسہ خیفة موسی: ۱۳۵
 وقدینه بذیع عظیم: ۱۸۱
 كما أخرجك ربک من بیتك بالحق الخ ۱۸۶
 واذا يعدكم الله احدى الطائفین أنها لكم الخ (کہیں پوری آیت اور کہیں مختلف
 تکڑے)

۱۹۷، ۱۹۵، ۱۹۳، ۱۹۵، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷

- ولاتكونوا كالذین خرجوا من دیارهم بطردا وریله الناس ويصدون عن
 سبیل الله: ۱۹۶
 وما نفوا منہم إلا أن یؤمنوا بالله العزیز الحمید: ۱۹۷
 يا ایها النبی لم تحرم ما حلال الله لك الخ: ۲۰۵
 قد فرض الله لكم تحلاة أیمانکم: ۲۰۶، ۲۰۵

احادیث:

- ان الزمان قد استدار کھینتے الخ: ۳۰
 إننا نسألک خیر هذه القریة: ۹۱، ۹۰
 اللهم اهدننی: ۹۶
 توپروا مما مسنت النار: ۲۷۰
 يا أباخي اذا سمعت حدیثا عن النبی ﷺ فلا تضرب له مثلا: ۲۴۱
 كل حسنة بعشر امثالها إلى سبعين ضعف إلا الصوم: ۲۴۶
 من صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتب الله له صيام ستين شهرا: ۲۷۶

اشعار

www.KitaboSunnat.com

۱۱۱	تجمع ماصح و ماقد انکرا	وليعلم الطالب أن السير
۳	و للناس فيما يعشقون مذاهب	و من مذهبى حب الديار لأهلها
۱۴۵	وندخل عن أبناء ناؤ الحلال	و نسلمه حتى نصرع حوله
۱۳۳	لا بأس بالموت إذ الموت نزل	لبت قليلا تدرك الهيجة جمل
۲۶۰	و سواه في جهاته يتغفف	العلم للرحمٰن جل جلاله

۳۵	کہ غیر ہے نبرد لذت خدگ ترا	دلم زجور تو آسودہ است وی نام
۲۱	بعد ازاں دیوانہ سازم خویش را	از مودم مثل دور اندیش را
۳	ہزار بادہ خورده درگ تاک ست	گماں برک کہ پایاں رسید کار مخان
۲۴۵	سامل خواچہ بھر پدار نیست	خواچہ پدارو کہ دارد حائلے
۱۰	کیہے یہ ماتم داش گئے چ سرست دلو	کبود پشم و قرطاس چڑھن سازم
۳۶	کریوقت جاں پر دن یہ سرش رسیدہ باشی	پچ ناز رفتہ باشد ز جہاں نیاز مندے
۹	من قبلہ راست کرم برست کن گلا ہے	ہر قوم راست را ہے دینے دلگھا ہے

۲۳۸	اگلا پانو نجے پانی میں	بیم موج امکانی میں
۲۵۹	بم جو کچھ بکھیں تو ہم کو لوگ دیوانہ کہیں	کیا تم ہے ان کی ہر لفڑی خرام ہاڑ ہو
۹	شوچ نے پات کیا بڑھائی ہے	لخت رقد کئے گئے ذفتر

لِكَتْبَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ

۹۹۔۔۔ بے ماذل ناؤں۔ لا بور


بیوں صدی کا آغاز برطانیہ میں اور دوسرت لٹاری کا دور کمال ہے۔ جس میں بیک وقت مولانا شبلی نعیانی (۱۸۵۱ء - ۱۹۱۳ء) اور پنجم سلیمان مصوپوری (۱۸۹۷ء - ۱۹۳۰ء) ہیسے باقی نظر تھیں اور پس المظالم صنیعین یہرت کی کاوش مقبول ترین کتابوں میں شمارہ تھیں۔ ان کی کتابوں پر بہت سے حقیقی اور تجیدی حاکم کے ہوئے ہیں۔ پھری نظر تالیف میں واکر فلتر احمد صدیق نے "مولانا شبلی بخشیت سیرت لٹاری" ایک علمی جائزہ حاصل کیا ہے۔ مفہوم کے اس بھروسے سے قل و مولانا شبلی کی علمی اور ادی بی خدمات پر بیان انجام دی کے درپیچے کا حقیقی کام بکمل کر پکے تھے جس کے ایک باب میں "برہائی کا حقیقی اور تجیدی جائزہ" کے خواہے سے حقیقی مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس خصوصی باب کے خواہے سے مولانا شبلی اور ارباب اسلامیین مختلف سوالوں میں دفاع شلی کا حق ادا کرتے ہوئے چند تحقیقات اور استدراکات کا جواب فراہم کیا ہے۔ یہ کتاب اسی علمی حاکم کے سے پیدا ہوئے وائی صورت حال کا ایک ہریدار مصنف اور جامع اثکاہ ہے۔ مصنف نے کوئے سے قل اسی دعیت کی ایک گرفت اور حکایت کیں مولانا شبلی علی تقا لوزی علامہ شمس احمد نعیانی "مولانا محمد اور بنی کانز" حلسوی اور مولانا عبدالرؤوف دانا پوری کی بعض تحریروں میں وکھانی دیتا ہے۔ علامہ شمسی کے نہ موڑا گرد رشید سید سلیمان ندوی نے بھی ان کی بعض تحقیقات اور حوالوں سے اختلاف کیا ہے۔ فیض نظر سے کہ اس دعیت کی چند حقیقی فروغ اور احتشام اور علمی بغروں کے باوجود مولانا شبلی کی علمی بخشیت مسلم اور ان کے ادبی اور حقیقی کارنامے زندہ جاوید ہیں۔

مولانا شبلی اپنے محمد کے مقام مصنف تھے جنہوں نے اپنے حقیقی ذوق کو ایک دیستان میں بدل دیا۔ وہ قدیم و جدید کا جسمیں احرار تھے۔ انہوں نے متعدد علمی اور ادیبی کام کیے جو زندگی کے اختری سماں کو سیرہ اقبالی علمی اقدامیہ و علم کی جانبیں میں صرف کیا۔ سیرت لٹاری پریس سراہ سے گزرنے کا مرحلہ ہے۔ عقیدت اور حقیقت کے تھاں کو پورا کرنا اس راہ کی ایک سعادت اور بکل ہے۔ اردو تو کجا خود عربی اور بیات میں اصول سیرت پر صدیوں سے کوئی مجرم اور مستند تصنیف نہیں لکھی گئی۔ اس مضمون میں شبلی کا طریق اور سب سو سو مقدمہ ایک معز کے کی چیز ہے جو افسوس کی اپنی کچھ بجوریوں اور مخدودیوں کے باعث وہ اس تھیسے میں اپنے ہی طے کردہ اصولوں کی پاس داری نہ کر سکے۔ اس مضمون میں ان کی بخشیت کے اس پہلو کو تھاہ میں رکھنا ضروری ہے کہ وہ اس دیستان نکرے تعلق رکھتے ہیں جو علم حقیقی کو علم حقیقی پر ترجیح کا احساس رکھتے ہیں۔ ان کی بجوری اور تھیجی کو ان کے پاس بہت سے مطلوب صادر علمی سرو جو دن تھے جس کے باعث وہ بہل آئے تو بہت سے مقامات پر انہوں نے احادیث سمجھ پر دیاتیت سیرت کو ترجیح دی اور یوں سیرت لٹاری اور نثار نویسی میں وہ طلیف فرقہ طفیل نہ رکھ سکے جو ان کا علمی اعتماد بھی تھا۔ فیض نظر لٹاری میں مصنف نے بے الگ تحقیقات کے ذریعے شبلی کے بعض تھاں کی تکرار اور بیات کی تھی کہی ہے اور اپنے حکام استدال اکو واضح کیا ہے۔ یوں یہ علمی بکھش کی بخشیت کی خاصت یا مسلم تھیں کہ کم کرنے کی وجہے ہمارے اسلام کی اس علمی را پر چلے کی کوشش ہے جس میں احتمال حق اور ابیطال بال ناگزیر ہے۔ میں ذاتی طور پر اس علمی حاکم کے کاصول سیرت لٹاری نے کی ایک ثابت کوشش قرار دیا ہوں۔ جس کی ان دونوں سیرت نکاروں کو اکاشر درست ہے۔

پروفیسر عبد الجبار شاکر ریت الحلفت ااور

نشیعہ فضلی گھر سیفیہ پر ماگاڑی

اور وہ از اور نزدِ نیشن پاکستان، کراچی۔
فون: 2212991-2629724



بلاش روڈ، جیزی ہاؤس، جیزی ٹریٹ
7320318

فرست ٹیکنری، الجہار کیٹ، جیزی ٹریٹ
آرڈر ہاؤس، لاہور، پاکستان
ایمیل: hilmat100@hotmail.com